

پاک و ہند میں زبانِ اردو عام و خواص

غیر معتبر روایات کا فنی حبابِ تازہ



تحقیق

مولانا طارق امیر خان صاحب
مختص فی الحدیث جامعہ فاروقیہ کراچی

تقریظ

مولانا نور البشیر صاحب
استاذ الحدیث جامعہ فاروقیہ کراچی

تقریظ

استاذ العلماء حضرت مولانا سلیم النذغان صاحب
شیخ الحدیث جامعہ فاروقیہ کراچی



پاک و ہند میں زبانِ زرد عوام و خواص

غیر معتبر روایات کا فنی حبابِ ترہ

تحقیق

مولانا طارق امیر خاں صاحب
مختص فی الحدیث جامعہ فاروقیہ کراچی

تقریظ

مولانا نور الدین صاحب دہلوی
استاذ الحدیث جامعہ فاروقیہ کراچی

تقریظ

استاذ اعلیٰ حضرت مولانا سلیم اللہ خاں صاحب
مختص فی الحدیث جامعہ فاروقیہ کراچی



زمزم پبلشرز

عُلمہ حقوق بحق ناسیر محفوظ ہیں

کتاب کا نام — غیر معتبر روایات کافی حبابہ

تاریخ اشاعت — جولائی ۲۰۱۳ء

صفحات — 432

باہتمام — احکامی و مسنونہ پبلشرز

ناشر — مسنونہ پبلشرز کراچی

شاہ زیب میٹرز و مقدس مسجد، اردو بازار کراچی

فون: 0092-21-32729089

فیکس: 0092-21-32725673

ای میل: zamzampublisher@gmail.com

ویب سائٹ: www.zamzampublishers.com



ZAM ZAM
PUBLISHERS

ملنے پچھنی یگر پتے

☐ **Madrasah Arabia Islamia**
1 Azaad Avenue P.O Box 9786
Azaadville 1750 South Africa
Tel : 00(27)114132786

☐ **Azhar Academy Ltd.**
54-68 Little Ilford Lane
Manor Park London E12 5QA
Phone: 020-8911-9797

☐ **ISLAMIC BOOK CENTRE**
119-121 Halliwell Road, Bolton
B11 3NE U.K
Tel/Fax : 01204-389080

☐ مکتبہ بیت العلم، اردو بازار کراچی۔ فون: 32726509

☐ مکتبہ دارالحدیث، اردو بازار کراچی۔ فون: 32711814

☐ دارالاشاعت، اردو بازار کراچی

☐ قدیمی کتب خانہ بالمقابل آرام باغ کراچی

☐ مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور

☐ مکتبہ بیت العلم، 17 الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور۔ فون: 042-37112358

صفحہ نمبر	فہرست مضامین
۹	عرض ناشر
۱۰	تقریظ: شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہ العالی
۱۱	تقریظ: حضرت مولانا نور البیشر صاحب دامت برکاتہم
۱۳	مقدمہ
۳۶	شرائط ثلاثہ کا تاریخی و عملی پس منظر


	زیر تحقیق روایات	
۴۸	روایت (۱) ماں کی نافرمانی پر بیٹے کی حالت نزع میں کلمہ سے محرومی۔	
۷۲	روایت (۲) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے ابو شحمہ پر حد نافذ کرنے کا قصہ (یہ موقوف روایت ہے)۔	
۸۵	روایت (۳) ایک بڈ وکے آپ ﷺ سے ۲۴ سوالات۔	
۱۰۰	روایت (۴) آپ ﷺ کا وصال سے قبل اپنی ذات پر قصاص اور بدلہ دلوانا۔ (یہ تفصیلی من گھڑت قصہ عکاشہ نامی ایک شخص کی جانب منسوب ہے، البتہ یہ قصہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ سے بدر کے دن، صف درست کرتے ہوئے ایک صحابی سواد بن غزیر یہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چھڑی چب گئی تھی، سواد بن غزیر یہ رضی اللہ عنہ کے مطالبے پر آپ ﷺ نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا، سواد بن غزیر یہ رضی اللہ عنہ آپ کے بدن سے چمٹ گئے، آپ نے خوش ہو کر بھلائی کی دعا دی۔ (انظر ترجمة سواد بن غزيرة في "الاستيعاب في معرفة الأصحاب"، "الإصابة في تمييز الصحابة" وغيرهما)	

۱۱۲	روایت (۵) ”ایک گھڑی کا غور و فکر ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔“ اس روایت کے تحت دو مزید حکایات کی فنی تحقیق پیش کی گئی ہے۔
۱۳۹	روایت (۶) ”اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو اس حالت میں پاؤں کہ میں عشاء کی نماز میں مشغول ہوں اور سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں، اسی دوران میری والدہ مجھے پکارے، اے محمد! تو میں جواب میں اپنی والدہ سے کہوں گا، حاضر ہوں!“۔
۱۵۳	روایت (۷) نور محمدی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی چمک سے اندھیرے میں گمشدہ سوئی کا ظاہر ہونا۔
۱۶۱	روایت (۸) ”تہمت کی جگہوں سے بچ کر رہو۔“
۱۷۷	روایت (۹) ”جو بندہ نماز تراویح پڑھتا ہے تو اس کو ہر سجدے کے بدلے، پندرہ سو نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یا قوت کا ایک ایسا محل تعمیر کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ ہزار دروازے ہیں، ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہوتا ہے، جس پر سرخ یا قوت جڑے ہوتے ہیں۔“
۱۸۹	روایت (۱۰) ”اپنا نصف دین خیراء (حضرت عائشہ <small>رضی اللہ عنہا</small>) سے حاصل کرو۔“
۱۹۶	روایت (۱۱) بچے کی بسم اللہ پر اس بچے کی، اُس کے والدین کی اور اس کے استاد کی بخشش۔
۲۰۴	روایت (۱۲) ”ایک مومن عورت کی نیکی، ہتر صد یقین کے عمل کی طرح ہے، اور ایک فاجر عورت کی برائی ہزار فاجر مردوں کی بُرائی کی طرح ہے۔“
۲۱۷	روایت (۱۳) ”میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔“ اس روایت کے ضمن میں ایک زبان زد عام قصہ کی بھی تحقیق ذکر کی گئی ہے۔
۲۲۶	روایت (۱۴) حضرات اہل بیت کا مسکین، یتیم اور قیدی پر ایثار اور تین دن بھوکا رہنا۔
۲۴۱	روایت (۱۵) ”اللہ کی معرفت میرا سرمایہ ہے.....“

۲۵۱	روایت (۱۶) ختم قرآن کی دعا: ”اللہم انس و حشیتی فی قبری۔“ ”اللہم ارحمینی بالقرآن العظیم واجعلہ لی إماماً ونوراً وهدی وَرَحْمَةً، اللہم ذکرِنی منہ ما نَسِیتُ وَعَلِّمَنی منہ ما جَهِلْتُ وَازِدْنی تِلَاوَتَهُ اثناءَ اللیلِ وَاثناءَ النَّہَارِ واجعلہ لی حُجَّةً یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ۔“ یہ دعا دراصل دو مختلف اجزاء کا مجموعہ ہے، ہر جزء کا حکم دوسرے سے مختلف ہے، اس لئے ہر جزء پر علیحدہ فنی تبصرہ کیا گیا ہے، واضح رہے یہ تحقیق دعا بجائیت حدیث ہے۔
۲۶۸	روایت (۱۷) ”میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا.....۔“
۲۷۹	روایت (۱۸) ”جمعہ کالج، حج اکبر ہے۔“
۲۸۷	روایت (۱۹) ”دنیا مر دار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔“
۳۰۰	روایت (۲۰) کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ ہند کے ساتھ (کھینچ کر) پڑھنے سے چار ہزار گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔
۳۰۸	روایت (۲۱) ”مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، جیسے آگ لکڑیوں کو۔“ تحقیق کے آخر میں ضمناً ایک دوسری روایت کی فنی تفصیل پیش کی گئی ہے، حدیث یہ ہے: ”جب آدمی مسجد میں آتا ہے پھر بہت باتیں کرنے لگتا ہے، تو فرشتے اسے کہتے ہیں: اے اللہ کے ولی! خاموش ہو جا، اگر وہ پھر بھی باتوں میں لگا رہے، تو فرشتے کہتے ہیں: اے اللہ کے مغضوب بندے! چپ کر جا، اگر وہ پھر بھی باتیں کرتا رہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، چپ ہو جا۔“
۳۱۵	روایت (۲۲) ”میری آسمان اور زمین مجھے نہیں ماسکے، البتہ میرے مؤمن بندے کا دل، مجھے اپنے میں مالتا ہے۔“ اس حدیث قدسی کے ساتھ ایک دوسری حدیث قدسی کی بھی تحقیق ذکر کی گئی ہے، وہ یہ ہے: ”دل رب کا گھر ہے۔“

۳۳۳	روایت (۲۳) کھانے سے پہلے کی دعا: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ بَرَکَةِ اللّٰهِ“۔ اس دعا کا ذکر معتبر کتب میں موجود ہے، لیکن یہ دعا تحقیق کا موضوع اس لئے بنی ہے کہ اس دعا کو لفظ ”علیٰ“ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، حالانکہ لفظ ”علیٰ“ کی زیادتی درحقیقت ثابت نہیں ہے، نیز ضمناً یہ تحقیق بھی کی جائیگی کہ دعا کا حوالہ دینے میں غلطی کی جاتی ہے۔
۳۳۲	روایت (۲۴) ”علماء کے علاوہ تمام لوگ بے جان ہیں، اور علماء میں عمل کرنے والوں کے علاوہ تمام علماء ہلاک ہونے والے ہیں، اور عمل کرنے والوں میں مخلصین کے علاوہ تمام غرق ہونے والے ہیں، اور اخلاص والے بہت بڑے خطرے سے دوچار ہیں۔“
۳۳۸	روایت (۲۵) ”مومن کے جھوٹے میں شفاء ہے“، اور بعض جگہ یہ الفاظ ہیں: ”مومن کے تھوک میں شفاء ہے۔“
۳۴۸	روایت (۲۶) ”جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے پکارا، تو ان کے جواب میں لوگوں نے لبیک کہا؛ چنانچہ جس نے ایک مرتبہ تبلیہ کہا، تو وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے دو مرتبہ تبلیہ کہا، وہ دو مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے دو سے زائد مرتبہ تبلیہ کہا، وہ اسی حساب سے حج کرے گا۔“
۳۵۶	روایت (۲۷) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں، میں بادشاہوں کا مالک، اور شہنشاہوں، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، تو میں ان کے بادشاہوں کے دل شفقت و رحمت سے بھر دیتا ہوں، اور بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں، تو میں بادشاہوں کے قلوب میں ان کے لئے ناراضگی اور انتقام ڈال دیتا ہوں، چنانچہ وہ بادشاہ ان کو بری اذیتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں (اس وقت) تم بادشاہوں کو بددعا دینے میں اپنے آپ کو مشغول نہ کر دینا، بلکہ اللہ کی یاد اور عاجزی میں مشغول ہونا، میں تمہارے بادشاہوں سے تمہاری کفایت کر دوں گا۔“

<p>روایت (۲۸) ۱- حاملہ کو (اور بعض سندوں میں ہے کہ جس حاملہ سے خاوند رضامند ہو) ۳۶۲ روزے دار، نماز پڑھنے والے، خشوع کرنے والے، مطہج، اور مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر ملتا ہے۔</p> <p>۲- درودِ زہ پر اس کو ایسا اجر ملتا ہے، جسے مخلوق میں کوئی نہیں جانتا۔</p> <p>۳- دودھ کے ہر گھونٹ کے بدلے نیکی (اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک جان زندہ کرنے) کا اجر ملتا ہے۔</p> <p>۴- وضع حمل سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔</p> <p>۵- اگر رات کو بچے کی وجہ سے جاگنا پڑ گیا، تو ستر غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔</p> <p>ضمناً یہ تحقیق بھی کر دی گئی ہے کہ یہ موقوف روایت (عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد) ثابت ہے (اور ایسا قول حکماً مرفوع ہوتا ہے): ”عورت حمل سے وضع حمل (پھر) بچے کے دودھ چھڑانے تک اس شخص کی طرح ہے، جو اللہ کے راستے میں اس کی سرحدوں کا پہرہ دے، اگر وہ اس دوران مر جائے تو اسے شہید کا اجر ملے گا۔“</p> <p>مکمل ۲۸ روایات کا حکم (اختصار کے ساتھ)</p>	
--	--



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ ناشر

نبی کریم ﷺ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ”جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔“ (صحیح بخاری: ۱/۳۳) اس نوع کی احادیثِ مبارکہ کے پیشِ نظر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور محدثین حضرات رحمہم اللہ احادیثِ مبارکہ کے بیان کرنے میں بہت زیادہ احتیاط فرمایا کرتے تھے، جس کا اندازہ ان حضرات کے احادیثِ مبارکہ کے بیان کرتے وقت (اللہ کے خوف سے) کیفیات کے بدلنے والے واقعات سے لگایا جاسکتا ہے۔

محدثین حضرات رحمہم اللہ نے سندوں کی مضبوط جانچ پڑتال اور راویوں کے مفصل حالات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے قابلِ اعتبار احادیث کا ذخیرہ جمع کرنے میں بڑی محنت فرمائی اور ایسی باتیں جو کہ آپ ﷺ کی طرف منسوب کی گئیں جبکہ اُن باتوں میں سقم شدید تر و قابلِ احتراز تھا۔ اُن باتوں کی آپ ﷺ کی طرف نسبت کرنے کا دلائل واضح اور مضبوط تحقیقات کے ساتھ سدِ باب فرمایا، تاکہ بعد میں آنے والے ان وعیدات سے بچ سکیں، اس لیے کہ نبی کریم ﷺ کی طرف بغیر کسی تحقیق کے کسی بات کی نسبت کرنا مذکورہ بالا حدیث کا مصداق بننے کا سبب ہے اللہم احفظنا منہ۔

ابنِ ان موضوعات پر کئی جلدوں میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں جو آج بھی مثلِ شمع راہِ نمائی کا ذریعہ ہے۔

عربی زبان میں ان موضوعات سے متعلق کئی کتابیں مطبوع ہے، محترم مولانا طارق امیر خان صاحب (مختص فی الحدیث جامعہ فاروقیہ کراچی) نے اس موضوع پر اردو زبان میں ایک محققانہ مجموعہ مرتب کیا ہے، جس میں آج کے معاشرے میں بیان کی جانے والی مذکورہ قسم کی روایات کی عمدہ تحقیق فرمائی جو کہ قابل تحسین ہے، جس کا اندازہ اس فن کے ماہر اساتذہ کرام کی اس کتاب سے متعلق تقریظات سے لگایا جاسکتا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ”زمزم پبلشرز“ کو اس کتاب کے طبع کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ الحمد للہ ادارہ ہذا کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ تحقیقاتی اور مستند کتابوں کو طبع کرے، تاکہ اس فتنہ کے دور میں عوام کے ہاتھوں میں مستند بات پہنچیں اور صحیح رخ پر چلنے میں راہ نمائی حاصل ہو۔ ادارہ کی قارئین سے درخواست ہے کہ تصحیح کے اہتمام کے باوجود تصحیح سے متعلق کوئی قابل اصلاح بات ہو تو ادارہ کو ضرور مطلع فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مؤلف کی اس سعی کو قبولیت عطا فرمائے اور مؤلف، ناشر اور اس کتاب سے متعلق کام کرنے والوں کو حضور ﷺ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین

احباب

”زمزم پبلشرز“

تقریظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد للہ دکنی دسٹم علی عبادہ الذین اعلیٰ
ولہد مولانا مفتی محمد طارق امیر خان باریک اللہ فی علمہ وعلوہ وخدمتہ دینہ
نے جامعہ نادر قیہ کراچی سے تحفہ فی الحدیث کیا ہے۔
مولانا موصوف نے احادیث موضوعہ کی فہم کو مقالے کا موضوع بنایا
اور امیر حضرت مولانا نورالبشر استاد جامعہ نادر قیہ کراچی (حق تعالیٰ کے کلام کے زیر
ارشاد اور مولانا صاحبہ استاد مشتبہ تحفہ فی الحدیث سے رہنمائی لیکر اپنا
مقالہ مکمل کیا ہے۔

لعقہ جسے جسے اس مقالے کا مطالعہ کیا ہے اور محسوس کیا ہے کہ واقعی فریب
ممنوع کی ہے مولانا نورالبشر نے مقالے کے بارے میں جن تاثرات کا ذکر کیا ہے
لعقہ ان سے اتفاق کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ حق جل جلالہ ان علماء کرام کی
مسعی کو حسن قبول عطا فرمائیں تمام شہرہ و آفات سے ان کی حفاظت فرمائیں اور
جامعہ نادر قیہ کراچی کو رجال علم دین کی تیاری کی عہدہ سے عہدہ اور زیادہ سے
زیادہ توفیق نصیب فرمائیں آمین ثم آمین۔

سلیم خان
جامعہ نادر قیہ کراچی
۵ جادی الثانیہ
۱۴۲۲ھ
۱۶ اپریل ۲۰۱۳ء

Noor-ul-Bashar

• Ustazul-Hadith Jamia Farooqia, Karachi
• Principal and president of
Ma'ad Usman Bin Affan Karachi



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Date: ۲۰۱۳/۱/۳۰
Ref: _____

التاریخ: ۱۷/۳/۱۴۳۴ھ
الرقم: _____

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الامین، وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم
ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔

اما بعد :

مفتی اعظم پاکستان اسلامی احادیث کے ساتھ حضرات علماء اہلسنت کا ہمیشہ سے جھوٹور
تعلق رہا ہے، اسی تعلق کی بنیاد پر احادیث مبارکہ کی ہر پہلو سے خدمت کی ہے، خدمت
حدیث کے مختلف پہلوں اور جہات میں سے ایک جہت "موضوع" یعنی گھڑی ہوئی یا کردہ یا
احادیث کی نشاندہی بھی ہے۔

علماء اہلسنت - جراحہم الاخر - نے اس سلسلہ میں جو تحقیق کیں ان میں سے ایک بڑا کتب خانہ
تیار ہو کر نکلا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے کام عربی زبان میں ہیں نہ اردو زبان میں یہ کام
نہ ہونے کے برابر ہے۔

اللہ تعالیٰ جزا بخیر دے ہمارے عزیز گرامر مولانا محمد طارف امیر خان سلمہ اللہ تعالیٰ کو،
کہ انہوں نے ہمارے جامعہ فاروقیہ کراچی سے شخصہ فی اکوئٹ کیا اور پھر انہوں نے
اپنا مقالہ اسی معنیوں کو بنایا کہ عام لوگوں کے درمیان جو باتیں بلا تحقیق "حدیث" کے نام سے مشہور
ہیں ان کی تحقیق کی جائے۔

عزیز موصوف نے اس سلسلہ میں زبردست محنت کی، اللہ جل شانہ کی طرف سے انہیں خصوصی
توفیق ارزانی ہوئی اور انہوں نے اس تعلیم کام کا ایک محنت پر حصہ عمل کر لیا۔

عزیز موصوف کی محنت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے صرف
اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ ایسی حدیثوں کو جمع کر کے سرسری حکم لگادیں، بلکہ ایسی
روایات کی پہلے محنت سے تحقیق کی، ہر ہر روایت کی اسانید کو جمع کیا، ہر ہر سند
پر ائمہ جرح و تعدیل کے کلام کی روشنی میں کلام کیا، اس کے بعد اپنے تلے انداز سے
اس حدیث کے اوپر حکم لگایا۔ اس طرح موصوف نے زبان زد عوام و خواص بہت سی احادیث
کی جھان بھٹک کا عظیم معیار کام انجام دیا۔

Noor-ul-Bashar

• Ustazul-Hadith Jamia Farooqia, Karachi
• Principal and president of
Ma'had Usman Bin Affan Karachi



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَجَلَّةُ الْإِسْلَامِ
مَجَلَّةُ الْإِسْلَامِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَجَلَّةُ الْإِسْلَامِ
مَجَلَّةُ الْإِسْلَامِ

Date: _____
Ref: _____

التاريخ: _____
الرقم: _____

یہ کام - جیسا کہ اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں - انتہائی نادر ہے، اس میں اجتہاد و تشہام کی غلیظوں کا کافی امکان ہے، نیز مولف کو یہ دیکھنی پڑتی ہیں کہ یہ کام ہر قسم کی غلیظوں سے پاک ہوگا، تاہم انسانی بساط کی حد تک عزیز موصوفے غفلت کی ہے، اس غفلت کے پیچھے سوائے اس جذبہ کے اور کچھ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنوہ صفت کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت نہ ہونے پائے جس کا تعلق حقیقتہً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ اہل علم عوام و خواص کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا بھی مقصود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا تحقیق کسی بات کی نسبت کر دینا کس قدر خطرناک اور اس کے نتائج کتنے ہولناک ہیں۔

عزیز موصوفے ایک ایک حدیث پر کام مکمل کر کے بندہ کو دکھانے کا معمول رکھا، اس طرح احقر نے اس پر اسے کام کو مکمل طور پر دیکھ لیا، جہاں ضرورت محسوس ہوئی مقصود سے دے، چنانچہ عزیز موصوفے حسب ہدایت اس میں تبدیلی کی، اس طرح اب یہ کتاب منقحہ شہود پر آنے کے لئے تیار ہے۔

حضرات اہل علم سے گزارش ہے کہ اس کتاب پر تحقیقی نظر کرنے کے بعد اگر کوئی چیز باقی گرفت یا غالی اصلاح نظر آئے تو مؤلف کو ضرور آگاہ فرمائیں، ان شاء اللہ تعالیٰ و عوالم کو قبول کرنے اور غلطی سے رجوع اور اس کی اصلاح میں دیر نہیں لگے گی۔

اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ عزیز موصوفے کی اس کاوش کو خالص اپنے فضل اور ہدایتی سے قبول فرمائے، اس کی افادیت کو عام و نام فرمائے، اور اس جیسے مفید کاموں کی توجہ و توفیق عطا فرمائے۔ آمین

دکنہ
الحسن بن علی بن عبد البر
لا إله إلا الله
عفا الله عنهما

مقدمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِالْحَقِّ وَفَرَضَ الصِّدْقَ، وَحَرَّمَ الْكِذْبَ وَنَهَى عَنِ الْبَاطِلِ - وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَنَبِيِّهِ الْقَائِلِ: "إِنَّ كِذْبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكِذْبٍ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" - وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ، حِمَاةَ شَرِيعَتِهِ، وَرَوَاةَ سُنَّتِهِ، الدَّائِمِينَ عَنْهَا تَحْرِيفَ الْمُخْرِفِينَ، وَاتِّحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَكِذْبِ الْكَاذِبِينَ -

أَمَّا بَعْدُ!

شریعتِ غزّاء میں احادیثِ رسول اللہ ﷺ کو مصدرِ ثنائی کی اساسی حیثیت حاصل ہے، جس میں نقب زنی سے حفاظت کا انتظام عہدِ رسالت کی ابتدا ہی سے کر دیا گیا تھا، اور یہ صیانت و حفاظت آپ ﷺ کے اس فرمان کا نتیجہ تھی:

"مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" - لہ

تَبَارَكَ وَتَعَالَى: "جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔"

جاں نثار صحابہ رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے اس ارشاد سے ہر دم خوفزدہ رہتے تھے، اور آپ ﷺ کا یہ دستور، ہمہ وقت اُن کی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم کی اسی کیفیت کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے:

"سید الکونین ﷺ کا یہ فرمان، محافل صحابہ رضی اللہ عنہم میں اتنی شہرت اختیار کر گیا تھا

کہ آج بھی کتب حدیث میں سو سے زائد ایسے صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام محفوظ ہیں، جن سے یہ روایت مسنداً (سند کے ساتھ) منقول ہے۔^۱

اگر ان تمام طرق اور روایات کو بنظر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کا یہ فرمان ہمہ گیری میں اپنی نظیر نہیں رکھتا، کیونکہ جہاں ابتدائے نبوت کی خفیہ مجالس میں اس حدیث کی سرگوشیاں تھیں، وہاں اکمال نبوت یعنی خطبہ ہجۃ الوداع کے عظیم اجتماع میں بھی اسی اعلان کی گونج تھی، جہاں عشرہ مبشرہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، وہاں صحابہ رضی اللہ عنہم کے عام و خاص بھی اس کو دہرا رہے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم میں جس طرح یہ ارشاد زبان زد عام تھا، صحابیات رضی اللہ عنہن کی مجالس بھی اس فرمان سے مزین تھیں۔

آپ ﷺ کے اسی ارشاد کا اثر تھا کہ جب ذخیرہ احادیث میں من گھڑت اور ساقط الاعتبار روایات کے ذریعے رخنہ اندازی کی مذموم کوششیں شروع ہو گئیں، تو محدثین کرام نے احادیث کے صحت و سقم کے مابین ”اسناد“ کی ایسی خلیج قائم کر دی، جس کی مثال اُمم سابقہ میں ملنا محال ہے، محدثین کرام نے احادیث کو خس و خاشاک سے صاف کرنے کے لئے یہی ”میزانِ اسناد“ قائم کی، جس کے نتیجے میں حدیث کے مبارک علوم و جود میں آتے رہے، ضعیف اور کذاب راویوں پر مستقل تصانیف کی گئیں، انہی متقدمین علماء نے ”کتب العلل“ میں ”ساقط الاعتبار“ (غیر معتبر) احادیث کو واضح کیا، علماء متاخرین نے بھی باقاعدہ مشتمرات (زبان زد عام روایات) ساقط الاعتبار اور من گھڑت روایات پر کتابیں لکھیں، چنانچہ ہر زمانے میں احادیث کا ذخیرہ محفوظ شاہراہ پر گامزن رہا، غرض یہ کہ روئے زمین پر جہاں کہیں اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے، وہ حدیث کے محافظین خود ساتھ لایا ہے۔

پاک و ہند میں ساقط الاعتبار، من گھڑت روایات اور ان کا سدّ باب:

پھر اگر ہم اپنے خطے برصغیر پاک و ہند کا جائزہ لیں، تو موضوعات کی روک تھام میں سرفہرست علامہ ابوالفضل حسن بن محمد صاغانی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نظر آتا ہے، آپ ۵۷۷ھ لاہور (پاکستان) میں پیدا ہوئے، اور حدیث و لغت کی دیگر خدمات کے ساتھ، خود ساختہ روایات پر دو گراں قدر کتابیں لکھی:

۱- الدُّرُّ الْمُلْتَقَطُ فِي تَبْيِينِ الْغَلَطِ

۲- موضوعات الصَّغَانِي

من گھڑت اور غیر معتبر روایات کے بنیادی عوامل:

پاک و ہند میں من گھڑت اور باطل روایات کا مطالعہ بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے، جن میں یہ نکتہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں وہ کون سے قدیم بنیادی طبقات ہیں، جو یہاں خود ساختہ روایات کی ترویج میں راہ ہموار کرتے رہے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں سب سے قدیم تحریر علامہ صاغانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملتی ہے، جس سے ہمیں بڑی حد تک اس سوال کے جواب میں رہنمائی ملتی ہے، چنانچہ علامہ صاغانی رحمۃ اللہ علیہ ”الدُّرُّ الْمُلْتَقَطُ“ لے میں اپنی تصنیف کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وقد كَثُرَتْ فِي زَمَانِنَا الْأَحَادِيثُ الْمَوْضُوعَةُ، يَرْوِيهَا الْقِصَاصُ عَلَى رُؤُوسِ الْمَنَابِرِ وَالْمَجَالِسِ، وَيَذْكُرُو الْقُرَّاءُ وَالْفُقَهَاءُ فِي الْحَوَائِقِ وَالْمَدَارِسِ، وَتَدَاوَلَتْ فِي الْمَحَافِلِ، وَاشْتَهَرَتْ فِي الْقَبَائِلِ، لِقِلَّةِ مَعْرِفَةِ النَّاسِ بِعِلْمِ السُّنَنِ، وَانْحِرَافِهِمْ عَنِ السُّنَنِ“

اس عبارت میں امام صاغانی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات اور غیر معتبر روایات کی اشاعت

میں مملوٹ چند عوامل کا ذکر کیا ہے، ملاحظہ ہو:

- ✽..... قصہ گو برسر منبر اور مجالس عامہ میں، من گھڑت روایتیں بیان کرتے تھے، ایسے ہی جاہل صوفیاء اور جاہل فقہاء کی مجالس بھی ان باطل مرویات سے پڑھیں۔
- ✽..... اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ یہ خود ساختہ روایتیں ملت اسلامیہ کے ہر طبقے اور قبیلے میں رواج پاتی رہیں، اور یہی کلام، مجالس کی زینت بنتا رہا، بالآخر موضوعات کی یہ گرم بازاری پورے معاشرے میں سرایت کر گئی۔
- ✽..... اس شرعی انحطاط کا باعث صرف معرفت حدیث سے دوری تھی۔

وضّاء عین کی اقسام اور ان کے مذموم مقاصد:

علامہ صاغانی رحمۃ اللہ علیہ کا گزشتہ اقتباس ہماری قدیم خستہ حالی کی جیتی جاگتی تصویر ہے، جس میں مذکور طبقات ہمارے سابقہ سوال کا اجمالی جواب ہیں، مزید وضاحت کے لئے ہم علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقدمے سے کو بہت ہی معاون پاتے ہیں، جس میں انھوں نے حدیث گھڑنے والوں کی اغراض و مقاصد بتاتے ہوئے، انھیں کئی اقسام پر تقسیم کیا ہے، ان اقسام سے ہم بخوبی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں وہ کون سے حلقے، افراد اور گروہ ہیں، جن کے ہاں موضوع روایات کا ایک بڑا ذخیرہ جنم لیتا رہا ہے، بالفاظ دیگر یہ روایات انھیں کے راستے سے مشہور ہوئیں۔

۱- زنادقہ:

ان کا مقصد امت میں رطب و یابس پھیلا کر شریعت کو مسخ کرنا ہے، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے تحت پاک و ہند کے ”فرقہ نیچریہ“ اور ان کے گمراہ کُن عقائد کا ذکر کیا ہے، آپ نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ یہ فرقہ نصوص شرعیہ میں تحریف (تبدیلی) لفظی و معنوی کا مرتکب رہا ہے۔

۲- مؤیدین مذاہب:

دوسری قسم اُن افراد کی ہے، جنہوں نے اپنے مذہب اور موقف کی تائید میں روایتیں گھڑیں، اس عنوان کے تحت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں خوارج کے طریقہ واردات کو بیان کیا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ بعض خوارج نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم نے اپنے موقف اور رائے کو ثابت کرنے کے لئے بہت سی احادیث گھڑی ہیں۔

یہاں برصغیر پاک و ہند میں موجود اہل سوء اور بدعتیوں کا ذکر بھی بر محل ہے، جنہوں نے اس خطے میں بہت سی محدثات (دین میں نئی باتیں ایجاد کرنا) اور بدعات کو سند جواز فراہم کی، اور اپنی اختراعات کے ثبوت میں، من گھڑت اور ساقط الاعتبار روایتوں کا سہارا لیا۔

۳- اصلاح پسند افراد:

تیسرا طبقہ اُن افراد کا ہے، جنہوں نے لوگوں کی اصلاح کے خیال سے ترغیب و ترہیب کی احادیث گھڑیں۔ اس ضمن میں علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلچسپ مثال بیان کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پاک و ہند کے بعض اصلاح پسند لوگوں نے تمباکو نوشی سے زجر و وعید پر مشتمل احادیث وضع کی ہیں، پھر موصوف نے اس مضمون پر مشتمل مضامین کی آٹھ ایسی روایتیں لکھیں، جو سب کی سب جعلی ہیں۔

۴- طبقہ جہلاء:

چوتھی قسم اُن لوگوں کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہر امر خیر، اقوال و افعال سے متاثر ہو کر، بغیر اس طرح انتساب کرنا ہرگز جائز نہیں۔

۵- اہل غلو:

ایک قسم اُن لوگوں کی ہے، جو عقیدت و محبت میں افراط و غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اہل بیت، خلفائے راشدین، ائمہ کرام اور رسالت مآب ﷺ کے حوالے سے باطل اور بے اصل مضامین مشہور کر دیتے ہیں۔

۶- واعظین:

چھٹا طبقہ ان قصہ گو واعظین کا ہے جو جعلی غرائبِ زمانہ بنا کر عوام سے دادِ تحسین وصول کرتے ہیں۔

خلاصہ کلام:

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہی طبقات اور افراد، خطہ ہندوپاک میں حدیث کی جعل سازی کا بیڑا اٹھائے رہے ہیں، بلکہ اس تفصیل کے بعد ہم بصیرت سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے گرد و پیش ایسی بہت سی ہم معنی باطل احادیث پھیلی ہوئی ہیں، جو بلا تردد انھیں خاص طبقات کی مذموم کوششوں اور تکاسل کا نتیجہ ہے۔

پاک و ہند میں حدیث میں تکاسل اور اس کے اسباب:

اگرچہ برصغیر پاک و ہند میں زبانِ رد عام روایات کی تنقیح بجا طور پر ہوتی رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال جواب کا مستحق ہے کہ پاک و ہند میں، افرادِ اُمت عام طور پر احادیث میں صرف سطحی ذہن رکھنے والے ہیں، اور اکثر احادیث کی چھان بین کو خاطر میں نہیں لایا جاتا، آخر حدیث کے عنوان سے مزاجوں میں حساسیت اتنی مدہم کیوں رہی ہے؟

تلاشِ بسیار کے بعد پاک و ہند کی قابلِ فخر شخصیت علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں اس مُعتمہ کا حل مل گیا۔ علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے

”کوثر التَّبَّيِّ وَزُلَّالٌ حَوْضُهُ الزَّوْي“ لہ میں ایک مقام پر بعض ایسی کتب تفسیر، کتب زہد، کتب اُوراد وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، جن میں مقدوح اور غیر معتبر احادیث بھی ہیں، پھر ان کتابوں میں موجود ساقط الاعتبار احادیث کے اسباب ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وَالسَّبَبُ أَنَّهُ قُلَّ اشْتِغَالُهُمْ بِصَنَاعَةِ الْحَدِيثِ، وَأَنَّهُمْ اعْتَمَدُوا عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْأَلْسِنَةِ مِنْ تَحْسِينِ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ وَأَنَّهُمْ انْخَدَعُوا بِالْكَثْبِ الْغَيْرِ الْمُتَفَحِّحَةِ الْحَاوِيَةِ لِلزُّطْبِ وَالْيَابِسِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَتْلُغْهُمْ وَعِيدُ التَّهَانُوتِ فِي رَوَايَةِ الْحَدِيثِ، وَأَيْضاً مِنْهُمْ مَنْ يَعْتَمِدُ عَلَى كُلِّ مَا أُشِيدَ مِنْ غَيْرِ قَدْحٍ وَتَعْدِيلٍ فِي الرِّوَاةِ“۔

”(ان کتب میں رطب و یابس احادیث کی) وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین فن حدیث سے اشتغال کم رکھتے ہیں، اور مسلمان سے حسن ظن رکھتے ہوئے، زبان زد عام روایتوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں (حالانکہ ایسا اعتماد صرف ماہر فن پر ہی کیا جاسکتا ہے، نہ کہ حدیث میں کم اشتغال رکھنے والے پر) اور یہ مصنفین رطب و یابس پر مشتمل، غیر مستح کتابوں سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، اور (ان کے بارے میں یہی حسن ظن ہے کہ) ان مصنفین کو حدیث نقل کرنے میں تہاون (معمولی سمجھنا) کی وعید نہیں پہنچی ہوگی، اور بعض مصنفین سند کے راویوں کی جرح و تعدیل دیکھے بغیر، ہر سند والی روایت پر اعتماد کر لیتے ہیں“۔

اسباب تکاسل کا جائزہ:

دراصل علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کتب حدیث و تفسیر وغیرہ کا تذکرہ

کیا ہے، یہ کتب برصغیر میں مُتَدَّ اول اور مُرَوَّج ہیں اور ان کتابوں کے مؤلفین کی جلالت اور علوِّ شان بلاشبہ مُسَلَّم ہے، لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان مؤلفین کا فنِ حدیث میں اشتغال ناقص رہا ہے، چنانچہ صاحبِ کتاب کی یہ کمزوری عوام میں بھی سرایت کرتی رہی اور احادیثِ موضوعہ معاشرے میں پھیلتی رہیں، بہر حال ذیل میں ہم مولانا عبد العزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ نکات اور ان سے ماخوذ نتائج کا جائزہ لیتے ہیں۔

فنِ حدیث میں اشتغال کی کمی:

ان مصنفین کی تالیفات میں رطب و یابس روایات کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان مؤلفین نے علومِ حدیث سے ایسا اشتغال نہیں رکھا، جس سے ان میں اصولِ حدیث کے مطابق، حدیث کے رد و قبول کا مملکہ اور اسے پرکھنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی، حتیٰ کہ ہمارے زمانے میں بھی معتد بہ تالیفات اس بات کی متقاضی ہیں کہ ان کے مؤلفین احادیث کے معاملے میں محض تحویل (حوالہ دینا) پر اکتفا نہ کریں، بلکہ حسبِ ضرورت اس بات کا پورا اطمینان حاصل کریں کہ یہ حدیث معتبر سند سے ثابت ہے۔

محض حسنِ ظن کی بناء پر روایات پر اعتماد:

ان کتابوں میں باطل اور بے اصل روایتوں کے شیوع کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان مصنفین کے نفوسِ قدسیہ ہر مسلمان کے بارے میں حسنِ ظن رکھتے تھے، اور زبانِ زعام روایتوں کو حسنِ ظن کی بنا پر بلا تحقیق قبول کر لیتے تھے۔

واضح رہے کہ اس مقام پر مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حدیث میں اعتماد کا مدار صرف ماہرینِ فن ہیں، چنانچہ اگر کوئی شخص صناعتِ حدیث میں مہارت نہیں رکھتا ہو، تو ایسے شخص پر بلا تحقیق حسنِ ظن کی بنیاد پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ لہٰذا

تہاؤن حدیث پر وعید سے نا آشنائی:

ان کتب میں قابل رد مواد کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات تہاؤن حدیث (یعنی روایت حدیث میں پوری احتیاط سے کام نہ لینا) کی وعیدوں سے واقف نہیں ہوں گے، بلاشبہ ان حضرات کی علو شان اسی حسن ظن کی مقتضی ہے، البتہ اس تہاؤن سے اجتناب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، خاص طور پر عوامی حلقوں میں اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ ملت اسلامیہ کا ہر فرد یہ محسوس کر رہا ہو کہ میں رسالت مآب ﷺ کی طرف ایسی بات ہرگز منسوب نہ کروں جو آپ ﷺ سے ثابت نہ ہو، تاکہ میں ”مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا...“ کا مصداق بننے سے بچ جاؤں، ورنہ یہی تہاؤن نہ صرف غیر مستند روایات کو پھیلانے میں کام آتا ہے، بلکہ ان روایتوں کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔

تحقیق کا فقدان:

پھر ان تالیفات میں جو احادیث مُسند (سند والی روایات) تھیں، ان میں اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ فن جرح و تعدیل کی روشنی میں ان کا جائزہ لیا جائے، تاکہ قابل احترام روایتیں ظاہر ہو جائیں۔

ایک اہم فائدہ:

اگر ہم بھی اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم الروایہ (علم حدیث) میں ہمارا منہ بنیادی طور پر صرف سند حدیث پانا ہے، اس کے بعد ہم کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، حالانکہ صاحب کتاب تو سند بیان کر کے ایک حد تک اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتا ہے، اب اگلا مرحلہ ہم سے متعلق ہے کہ ہم حسب ضرورت، متقدمین اصحاب تخریج اور ائمہ علل کی جانب رجوع کریں، اور روایات کے قابل تحمل (روایت لینا) ہونے کا پورا اطمینان حاصل کریں۔

حاصل کلام:

سابقہ اسباب تکاسل خطہ پاک و ہند میں موضوعات کی اشاعت اور ان کی ترویج میں انتہائی مؤثر رہے ہیں، بلکہ اگر ان اسباب کے سد باب کے لئے اکابرین کے طرز پر عملی اقدامات جاری رکھے جائیں، تو کافی حد تک اس ساقط الاعتبار ذخیرے کی روک تھام ہو سکتی ہے۔

من گھڑت روایات کے سد باب میں علماء پاک و ہند کی خدمات:

سابقہ اقتباسات سے ہمیں من گھڑت روایات کی اشاعت میں ملوث بہت سے گروہوں اور طبقات کا بخوبی علم ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ ان کی اغراض، افکار، اور طریقہ کار بھی وضاحت سے سامنے آگیا، لیکن واضح رہے کہ ایسا ہر گز نہیں ہوا کہ عمائدین امت نے اس فتنے کے سد باب کے لئے اپنی خدمات پیش نہ کی ہو، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ بڑے صغیر پاک و ہند پر ایسے شب و روز بھی آئے ہیں، جن میں حفاظت حدیث کا تاج، علماء بڑے صغیر کے سر رہا ہے، چنانچہ علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”دسویں صدی ہجری کے نصف آخر میں جب کہ علم حدیث کی سرگرمیاں ماند پڑ گئی تھیں، بڑے صغیر میں یہ سرگرمیاں عروج پر تھیں“۔^۱

گویا کہ یوں کہنا چاہیے کہ اس وقت عالم اسلام کی سربراہی کی سعادت بڑے صغیر کو حاصل رہی ہے، بہر حال یہاں ہم پاک و ہند کے اُن چند مشہور مشائخ کا مختصر تذکرہ کریں گے، جنہوں نے زبان رد و عوام و خواص، روایات کی حقیقت واضح کی، اور ذخیرہ احادیث میں تنقیح کی خدمات انجام دیں۔

۱- امام رضی الدین ابو الفضائل حسن بن محمد رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۵۷۷ھ) آپ کی تالیف ”الذُرُّ الْمُلْتَقَطُ“ اور ”موضوعات الصَّغَانِي“ کا شمار فن ہذا کے اولین مصادر میں ہوتا ہے۔ مشہرات پر مشتمل شاید ہی کوئی کتاب موصوف کے اقوال سے خالی ہو۔

۲- ملک المحمّد ثین علامہ محمد طاہر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۹۸۶ھ) آپ نے اس فن میں ”تذکرۃ الموضوعات“ اور ”قانون الموضوعات“ لکھیں، بلاشبہ مشہرات کا یہ مجموعہ ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے۔

۳- علامہ سید محمد بن محمد حسینی زبیدی الشہیر بمرقتضی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۲۰۵ھ) آپ نے ”اتحاف السادة المتقين“ میں ”احیاء علوم الدین للغزالی“ کی احادیث پر، تخریج و تشریح میں محدثانہ شان کا مظاہرہ کیا ہے، اہل علم طبقہ بالخصوص پاک و ہند میں اس سے مستغنی نہیں رہ سکتا۔

۴- امام عبدالعزیز بن احمد فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۲۳۹ھ) آپ نے تقریباً ۲ ہزار موضوع اور زبان زد عام روایتوں پر مشتمل مجموعہ مرتب کیا ہے، فی الحال یہ مخطوط ہے۔ آپ کے بارے میں مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”اگر میں اس بات پر قسم کھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین پنجاب کو جب سے وجود بخشا ہے، ان جیسی کسی دوسرے شخصیت نے یہاں جنم نہیں لیا، تو میں حانث نہیں ہوں گا۔“ ۱۷

۵- علامہ ابوالحسنات محمد عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۳۰۴ھ) آپ کی شخصیت اور حدیثی خدمات محتاج تعریف نہیں ہے، اس فن میں آپ

نے ”الاثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة“ کے نام سے یادگار چھوڑی ہے۔

۶۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۲۸۰ھ / ۱۳۶۲ھ)

آپ امراض امت کی پہچان اور اس کے علاج میں وہی بصیرت رکھتے تھے، آپ نے پاک و ہند میں مُتَدَوِّل من گھڑت اور بے اصل روایتوں کا سد باب عملاً بھی کیا اور عوام کو بھی اس سے اجتناب کی طرف توجہ دلائی، چنانچہ بہشتی زیور، حصہ دہم میں یہ عنوان قائم کیا ہے: ”بعضی کتابوں کے نام جن کے دیکھنے سے نقصان ہوتا ہے“ اس عنوان کے تحت ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

”دعائج العرش، عہد نامہ یہ دونوں کتابیں اور بہت سی ایسی ہی کتابیں ایسی ہیں کہ ان کی دعائیں تو اچھی ہیں، مگر ان میں جو سندیں لکھی ہیں، اور ان میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو لمبے چوڑے ثواب لکھے ہیں، وہ بالکل گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔“ ۱۔

اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے بھی بخوبی واقف تھے کہ سلوک و تصوف کی مجالس میں ایک معتد بہ تعداد بے اصل روایتوں کی ہیں، چنانچہ آپ نے ”التَّشَرُّفُ بِمَعْرِفَةِ أَحَادِيثِ التَّصَوُّفِ“ میں ایسی بہت سی روایات پر روایتی اور درایتی پہلوؤں سے بحث کی ہے، جو درجہ اعتبار سے ساقط ہیں۔

ایک اہم التماس:

یہ مختصر اور محدود تحقیق اس کی مزید گنجائش رکھنے سے قاصر ہے کہ ہم اکابرین پاک و ہند کی متعلقہ موضوع میں تاریخی خدمات سے تفصیلی بحث کریں، البتہ اگر کوئی فرد علامہ عبدالحی الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ”نُزْهُةُ الْخَوَاطِرِ وَبَهْجَةُ الْمَسَامِعِ وَالنَّوَاطِرِ“ کو سامنے رکھ کر ان محدثین کرام کی خدمات کو جمع کرے، جنہوں نے باطل اور من

گھڑت روایتوں کا تعاقب کیا ہے، تو یہ کام نہ صرف ہماری اسلاف کے منہج کی جانب رہنمائی کرے گا بلکہ ملک بھر میں پھیلے ہوئے اُن مخطوطات کی جانب بھی رہنمائی کرے گا جو آج دیمک اور گردوغبار سے تحلیل ہوتے جا رہے ہیں، بلاشبہ نئی تحقیقات، شروحات، تسہیلات وغیرہ ناگزیر تالیفات ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جن مخطوطات کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں، کل ان کا نام ”خسراتِ زمانہ“ کی فہرست میں شامل کر دیا جائے۔

تحقیق اور اس کا موضوع:

گزشتہ تمام تفصیلات کے پیش نظر بندہ نے اپنے گرد و پیش پھیلی ہوئی مشہور روایتوں کی تحقیق کو اپنا موضوع بنایا، اور ان روایات میں سے ایسی ۲۸ روایات کی تعیین کی جو درجہ اعتبار سے ساقط ہیں، واضح رہے کہ ۲۸ روایات کا یہ مجموعہ تین قسم کی روایات پر مشتمل ہے:

① من گھڑت روایات

② بے سند روایات

③ ضعف شدید پر مشتمل روایات

آپ دورانِ تحقیق نتائج میں ان تینوں اقسام کا مشاہدہ کریں گے، اور فنِ اصول حدیث کے مطابق یہ تینوں اقسام نوعیاتی فرق رکھتی ہیں، البتہ ان تینوں اقسام کو آپ ﷺ کے انتساب سے بیان کرنا جائز نہیں ہے، ذیل میں ان احادیث کو مختصر عنوان کے ساتھ سے تحریر کیا جاتا ہے:

① ماں کی نافرمانی پر بیٹے کی حالتِ نزع میں کلمہ سے محرومی۔

② حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے، ابو شحمہ پر حد نافذ کرنے کا قصہ (یہ

موقوف روایت ہے)۔

(۳) ایک بُدّ و کے آپ ﷺ سے ۲۴ سوالات۔

(۴) آپ ﷺ کا وصال سے قبل اپنی ذات پر قصاص اور بدلہ دلوانا۔ (یہ تفصیلی من گھڑت قصہ عکاشہ نامی ایک شخص کی جانب منسوب ہے، البتہ یہ قصہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ سے بدر کے دن، صف درست کرتے ہوئے ایک صحابی سواد بن غزّیہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چھڑی چب گئی تھی، سواد بن غزّیہ رضی اللہ عنہ کے مطالبے پر آپ ﷺ نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا، سواد بن غزّیہ رضی اللہ عنہ آپ کے بدن سے چمٹ گئے، آپ نے خوش ہو کر بھلائی کی دعا دی۔) (انظر ترجمة سواد بن غزّية في "الاستيعاب في معرفة الأصحاب"، "الإصابة في تمييز الصحابة" وغيرهما)

(۵) "ایک گھڑی کا غور و فکر ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔"

اس روایت کے تحت دو مزید حکایات کی فنی تحقیق پیش کی گئی ہے۔

(۶) "اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو اس حالت میں پاؤں کہ میں عشاء کی نماز میں مشغول ہوں اور سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں، اسی دوران میری والدہ مجھے پکار کر کہے، اے محمد! تو میں جواب میں اپنی والدہ سے کہوں گا، حاضر ہوں!"۔

(۷) نور محمدی رضی اللہ عنہ کی چمک سے اندھیرے میں گمشدہ سوئی کا ظاہر ہونا۔

(۸) "تہمت کی جگہوں سے بچ کر رہو۔"

(۹) "جو بندہ نماز تراویح پڑھتا ہے تو اس کو ہر سجدے کے بدلے، پندرہ سو نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے لئے جنت میں سرخ یا قوت کا ایک ایسا محل تعمیر کیا جاتا ہے، جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہیں، ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہوتا ہے، جس پر سرخ یا قوت جڑے ہوتے ہیں۔"

(۱۰) "اپنا نصف دین خمیراء (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) سے حاصل کرو۔"

(۱۱) بچے کی بسم اللہ پر اس بچے کی، اُس کے والدین کی اور اس کے اُستاد

کی بخشش۔

(۱۲) ”ایک مومن عورت کی نیکی، ستر صدیقین کے عمل کی مانند ہے، اور ایک فاجر عورت کی برائی ہزار فاجر مردوں کی طرح ہے۔“

(۱۳) ”میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔“

اس روایت کے ضمن میں ایک زبان زد عام قصہ کی تحقیق ذکر کی گئی ہے۔

(۱۴) حضرات اہل بیت کا مسکین، یتیم اور قیدی پر ایثار اور تین دن بھوکا رہنا۔

(۱۵) ”اللہ کی معرفت میرا اثاثہ ہے.....“

(۱۶) ختم قرآن کی دعا:

”اللّٰهُمَّ اَنْسِ وَحْشَتِي فِي قَبْرِى - اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ
وَاَجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَّثَوْرًا وَّهْدًى وَرَحْمَةً، اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيتُ
وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَاِزْكُرْنِيْ تِلَاوَتَهُ اَنَاءَ اللَّيْلِ وَاَنَاءَ النَّهَارِ وَاَجْعَلْهُ
لِيْ حُجَّةً يَّارَبَّ الْعَالَمِيْنَ“

یہ دعا دراصل دو مختلف اجزاء کا مجموعہ ہے، ہر جزء کا حکم دوسرے سے مختلف ہے، اس لئے ہر جزء پر علیحدہ فنی تبصرہ کیا گیا ہے، واضح رہے یہ تحقیق دعا بحیثیت حدیث ہے۔

(۱۷) ”میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا.....“

(۱۸) ”جمعہ کا حج، حج اکبر ہے۔“

(۱۹) ”دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔“

(۲۰) کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ بد کے ساتھ (کھینچ کر) پڑھنے سے چار ہزار نیکیاں۔

(۲۱) ”مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، جیسے آگ لکڑیوں کو۔“

تحقیق کے آخر میں ضمناً ایک دوسری روایت کی فنی تفصیل پیش کی گئی ہے،

حدیث یہ ہے:

”جب آدمی مسجد میں آتا ہے پھر بہت باتیں کرنے لگتا ہے، تو فرشتے

اسے کہتے ہیں: اے اللہ کے ولی! خاموش ہو جا، اگر وہ پھر بھی باتوں میں

لگا رہے، تو فرشتے کہتے ہیں: اے اللہ کے مغضوب بندے! چپ کر جا، اگر وہ پھر بھی باتیں کرتا رہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، چپ ہو جا۔“

(۲۲) ”میری ارض و سما مجھے نہیں سہا سکے، البتہ میرے مؤمن بندے کا دل، مجھے اپنے میں سالیٹا ہے۔“

اس حدیثِ قدسی کے ساتھ ایک دوسری حدیثِ قدسی کی بھی تحقیق ذکر کی گئی ہے، حدیث یہ ہے:

”دل رب کا گھر ہے۔“

(۳۳) کھانے سے قبل دعا: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰی بَرَکَةِ اللّٰهِ۔“

اس دعا کا ذکر ذکرِ معتبر کتب میں موجود ہے، لیکن یہ دعا تحقیق کا موضوع اس لئے بنی ہے کہ اس دعا کو لفظ ”علی“ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، حالانکہ لفظ ”علی“ کی زیادتی درحقیقت ثابت نہیں ہے نیز ضمناً یہ تحقیق بھی لکھی گئی ہے کہ اس دعا کا حوالہ دینے میں عام طور پر غلطی کی جاتی ہے۔

(۳۴) ”علماء کے علاوہ تمام لوگ بے جان ہیں، اور علماء میں عمل کرنے والوں کے علاوہ تمام علماء ہلاک ہونے والے ہیں، اور عمل کرنے والوں میں مخلصین کے علاوہ تمام غرق ہونے والے ہیں، اور اخلاص والے بہت بڑے خطرے سے دوچار ہیں۔“

(۳۵) ”مؤمن کے جھوٹے میں شفاء ہے“: بعض جگہ یہ الفاظ ہیں ہے: ”مؤمن کے تھوک میں شفاء ہے۔“

(۳۶) ”جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج بیت اللہ کیلئے پکارا، اس کے جواب میں لوگوں نے لبیک کہا، چنانچہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہی، تو وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے دو مرتبہ تبلیہ کہی، وہ دو مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے دو سے زائد مرتبہ تبلیہ کہی، وہ اسی حساب سے حج کرے گا۔“

(۴۷) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں، میں بادشاہوں کا مالک، اور شہنشاہوں، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، تو میں ان کے بادشاہوں کے دل شفقت و رحمت سے بھر دیتا ہوں، اور بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں، تو میں بادشاہوں کے قلوب میں ان کے لئے ناراضگی اور انتقام ڈال دیتا ہوں، چنانچہ وہ بادشاہ ان کو بری اذیتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، (اس وقت) تم بادشاہوں کو بددعا دینے میں اپنے آپ کو مشغول نہ کر دینا، بلکہ اللہ کی یاد اور عاجزی میں مشغول ہونا، میں تمہارے بادشاہوں سے تمہاری کفایت کر دوں گا۔“

(۴۸) ۱ حاملہ کو (بعض سندوں میں ہے کہ جس حاملہ سے خاوند رضامند ہو) روزے دار، نماز پڑھنے والے، خشوع کرنے والے، مطیع، اور مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر ملتا ہے۔

۲ درودِ ہر روزہ پر اسے ایسا اجر ملتا ہے، جسے مخلوق میں کوئی نہیں جانتا۔

۳ دودھ کے ہر گھونٹ کے بدلے نیکی (بعض روایتوں میں ایک جان زندہ کرنے) کا اجر ملتا ہے۔

۴ وضع حمل سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

۵ اگر رات کو بچے کی وجہ سے جاگنا پڑ گیا، تو ستر غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔

ضمناً یہ تحقیق بھی لکھی گئی ہے کہ یہ موقوف روایت (عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد) ثابت ہے (اور ایسا قول حکماً مرفوع ہوتا ہے): ”عورت حمل سے وضع حمل (پھر) بچے کے دودھ چھڑانے تک اس شخص کی طرح ہے، جو اللہ کے راستے میں اس کی سرحدوں کا پہرہ دے، اگر وہ اس دوران مر جائے تو اسے شہید کا اجر ملے گا۔“

تحقیق کا منہج اور طریقہ کار:

تحقیقات حدیث ایک پیچیدہ فنی بحث ہے، جسے صرف وہی شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے، جس کے سامنے اصول حدیث، علل حدیث، اور فن رجال کی بخشیں ماہرین کی سرپرستی، وسیع مطالعہ اور طویل ممارست سے متق ہو گئی ہوں، بصورت دیگر ان تحقیقات سے کما حقہ فائدہ حاصل کرنا ممکن نہیں رہتا، بہر حال دوران تحقیق جن امور کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اگر قارئین ان امور کو سامنے رکھیں تو بہت سے مشکل مقامات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، بلکہ کافی حد تک ان تحقیقات میں بصیرت بھی حاصل ہو جائے گی، ملاحظہ ہو:

✽..... تقریباً ہر حدیث کی ابتدا میں ایک تمہیدی مضمون ذکر کیا گیا ہے، یہ اقتباس دراصل متعلقہ بحث کی تسہیل اور مرکزی نکتے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس عبارت سے کئی مقاصد پورے ہوتے ہیں، مثلاً:

۱- اس مضمون میں زیر تحقیق روایت کی ضروری اصولی بحث ذکر کر دی جاتی ہے تاکہ دوران تحقیق فنی بحث سے الجھاؤ پیدا نہ ہو، اور اس فنی بحث کی طرف دوران تحقیق صرف اشارہ کر دیا جاتا ہے، جس کی تفصیل اس ابتدائی مضمون میں گذر چکی ہوتی ہے۔

۲- کئی احادیث کی مرکزی اور فنی وضاحت مشترک ہوتی ہے، اس لئے ان ابتدائی مضامین میں آپ تکرار بھی پائیں گے، خاص طور پر حافظ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ اقتباس جس میں موصوف نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ضعیف حدیث کے رد و قبول کی تین اہم شرائط لکھی ہیں، ان شرائط کی تفصیل آگے آ رہی ہے، ان شاء اللہ۔

۳- ان نکات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس ابتدائی مضمون کا متعلقہ تحقیق حدیث سے گہرا تعلق ہوتا ہے، بالفاظ دیگر یہ اقتباس تحقیق حدیث کے تابع اور اس

کے سمجھنے میں انتہائی معاون ہوگا، اس لئے اسے محض مقدمہ ہرگز نہ سمجھا جائے۔

*..... تمام احادیث کی ابتدا میں پوری تحقیق کا خلاصہ لکھا جاتا ہے، تاکہ اجمالی نقشہ ذہن میں مستحضر رکھ کر تفصیلات سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ خلاصہ عام طور پر چار بنیادی امور پر مشتمل ہوتا ہے:

۱- روایت اور اس کے بنیادی مصادر

۲- نفسِ روایت پر ائمہ حدیث کا کلام اور اس کا خلاصہ

۳- روایت کے متکلم فیہ راوی کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال

اور ان کا خلاصہ

۴- روایت کا فنی حکم

*..... ہم نے اپنی جستجو کے مطابق زیر بحث روایت کے مصادر و مراجع ذکر کیے ہیں، اور روایت کا فنی حکم انہی طرق اور ان کے بارے میں ائمہ حدیث کے کلام کو سامنے رکھ کر قائم کیا ہے، لہذا اگر کوئی معتبر طریق ہمیں یا کسی بھی فرد کو مل جائے تو وہ اس تحقیق کے لئے ہرگز مضرت نہیں، البتہ متن حدیث کا حکم بلاشبہ ایسی صورت میں بدل جاتا ہے، احبابِ فن اس سے بخوبی واقف ہیں کہ محدثین کرام کا کسی روایت پر فنی حکم لگانا، ان کی ملحوظہ روایات کی روشنی میں ہوتا ہے، اس میں اس بات کا امکان بہر حال باقی رہتا ہے کہ اس ساقط الاعتبار روایت کا کوئی معتبر طریق مل جائے، چنانچہ کسی معتبر طریق ملنے کے بعد اب متن حدیث کا حکم اس معتبر سند کی حیثیت سے بدل سکتا ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ کسی سند کا معتبر یا غیر معتبر ہونا اصول حدیث کی روشنی میں ہی ہو سکتا ہے، اس لئے کسی ممکنہ معتبر سند کا محض تصور یا کسی غیر معتبر سند کا موجود ہونا، ان تحقیقات میں ذکر کردہ فنی حکم کے معارض نہیں بن سکتا۔

یہ بھی واضح رہے کہ ہم نے اپنی جستجو کے مطابق تحقیقاتِ سلف کو جمع کر کے

نتائج نقل کیے ہیں، قارئین کرام سے درخواست ہے کہ آپ فن حدیث کے مطابق اسے خوب پرکھیں، اگر آپ کے نزدیک ان نتائج کے علاوہ کوئی دوسرا حکم قرین قیاس ہے، تو اس بارے میں احقر کو ضرور مطلع فرمائیں، آپ کا فنی تبصرہ ماہرین فن کے نزدیک رائج ہونے کی صورت میں احقر کو رجوع سے ہرگز تامل نہیں ہوگا، اور احتیاج کے اظہار کے ساتھ آپ کی اصلاحات پر ممنون رہوں گا۔

✽..... واضح رہے کہ ہر روایت کا فنی مقام سمجھنے کے لئے جہاں نفس روایت کے بارے میں ائمہ حدیث کے اقوال کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے، وہاں روایت میں زیر بحث راوی کے بارے میں ائمہ حدیث کے تفصیلی اقوال کا سمجھنا بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اسی لئے دوران تحقیق ان دونوں امور کو علیحدہ عنوان سے لکھا گیا ہے، اور تسہیل کے لئے ہر عنوان کے آخر میں خلاصہ بھی مذکور ہے۔

✽..... نفس حدیث کے بارے میں متقدمین و متاخرین دونوں کے اقوال لکھے گئے ہیں، جن میں آپ اکثر اس بات کا مشاہدہ کریں گے کہ متاخرین علماء کرام، متقدمین محدثین کی متابعت اختیار فرماتے ہیں، ہم نے اکثر مقامات پر ان متاخرین محدثین کرام کی مکمل عبارتیں نقل کی ہیں، اور محض اس پر اکتفا نہیں کیا کہ متابعت کی صورت میں متاخرین کے صرف ناموں کو ذکر کر دیا جائے۔

✽..... متکلم فیہ راوی کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال لکھتے ہوئے اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ حسب ضرورت توضیحی عبارتوں سے مفہوم کلام کو آسان تر بنایا جائے۔

✽..... اگر زیر بحث تحقیق مختلف الفاظ سے مروی ہو، تو ان تمام عبارتوں کو لکھا گیا ہے۔

✽..... اردو زبان کا دامن عربی زبان کے مقابلے میں انتہائی تنگ ہے، اس لئے ایسا نہیں کیا گیا کہ عربی عبارتوں کو حذف رکھ کر ان کا صرف ترجمہ کر دیا جائے،

بلکہ اکثر عربی عبارتیں ذکر کر کے ان کا ترجمہ لکھا گیا ہے، اس لئے اہل علم حضرات تو عربی متن کو خصوصیت سے ملحوظ رکھیں، اور ترجمہ میں حتی الامکان محاوراتی ترجمہ کے ساتھ ساتھ عبارت کے الفاظ کی رعایت بھی کی گئی ہے، اور اگر کہیں عربی عبارت میں کوئی لفظ پیچیدہ تھا، تو ”لسان العرب“ یا ”النهاية في غريب الأثر“ کے محاورات کی روشنی میں اردو میں اس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔

✽..... بعض مقامات پر طویل احادیث کا پورا متن نہیں لکھا گیا بلکہ اس کا خلاصہ لکھا گیا ہے، البتہ حسب موقع ان طویل احادیث میں بھی عربی متن لاتے رہے ہیں۔

✽..... بعض اوقات ایک روایت میں مروجہ مضمون اختصار کے ساتھ لکھا گیا ہوتا ہے، جس کی تلافی دیگر متعلقہ مفصل روایات سے کی جاتی ہے۔

✽..... اصطلاحی الفاظ ایک خاص پس منظر رکھتے ہیں، اس لئے ان کو ترجمہ میں ڈھالنے کے بجائے بعینہ لکھا جاتا ہے، خصوصاً ائمہ کرام کے اقوال جرح و تعدیل اکثر اصطلاحی ہوتے ہیں (جو بظاہر غیر اصطلاحی معلوم ہوتے ہیں) جو در اصل متکلم فیہ راوی کے ایک خاص فنی مقام کی طرف مشیر ہوتے ہیں، جسے اصحاب فن بخوبی جانتے ہیں، ان الفاظ کا اردو یا کسی بھی زبان میں ترجمہ کرنا ایک سنگین غلطی ہے، اس لئے ایسے الفاظ کے بعد قوسین میں ”کلمہ جرح“، اور ”کلمہ تعدیل“ کے الفاظ لکھے گئے ہیں، اور حسب ضرورت ائمہ کے اقوال کا عام فہم خلاصہ بھی لکھا گیا ہے تاکہ نتائج سمجھنے میں آسانی ہو، البتہ جہاں ان اقوال میں ایسی فنی پیچیدگی نہ تھی، وہاں ان اقوال کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ ترجمہ بھی محض تسہیل فہم کے لئے ہے، اسے تعریف نہ سمجھا جائے۔

✽..... اردو عبارتوں میں بھی عمومی طور پر مشکل الفاظ کا آسان ترجمہ قوسین میں لکھا گیا ہے۔

✽..... بعض اوقات ایک حدیث ضمناً مذکور ہوتی ہے، جس کی مختصر تخریج حسب ضرورت لکھی جاتی ہے۔

✽..... اسی طرح بعض اوقات ایک ایسی ساقط الاعتبار روایت کو بھی ضمناً نقل کر دیا جاتا ہے، جو اگرچہ تحقیق کا موضوع نہیں ہوتی، لیکن زیر بحث روایت کے موضوع پر مشتمل ہوتی ہے۔

✽..... اگر زیر بحث ساقط الاعتبار روایت کے مضمون پر مشتمل معتبر روایت موجود ہو، تو بعض اوقات حسب موقع ان معتبر روایتوں کو بھی لکھا جاتا ہے۔

✽..... حسب ضرورت سند میں مذکور راویوں کی تصحیف (تبدیلی) اور سقطات (سند میں رواۃ یا دیگر الفاظ کا حذف) کی تعیین بھی کی گئی ہے۔

✽..... آپ مختلف مقامات پر (.....) کا مشاہدہ کریں گے، یہ خاص علامت حسب مقام مختلف مقاصد کے لئے استعمال کی گئی ہے، جیسے:

۱- عبارت کے شروع اس علامت کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ کلام ماقبل بحث سے منسلک ہے، اور یہاں یہ عبارت حسب ضرورت نقل کی گئی ہے۔

۲- عبارت کے اختتام پر اس علامت سے یہ اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ابھی عبارت مزید باقی ہے، لیکن ہم نے صرف موضوع سے متعلق عبارت نقل کی ہے۔

۳- بعض اوقات متعلقہ مضمون ایک لمبی عبارت میں منتشر ہوتا ہے، اس لئے اس مکمل عبارت کو لکھنے کے بجائے صرف متعلقہ عبارت نقل کی جاتی ہے اور زائد عبارت حذف کر کے یہ علامت حذف (.....) ذکر کر دی جاتی ہے۔

۴- البتہ بعض مقامات پر حذف کی یہ علامت صاحب کتاب کی جانب سے ہوتی ہے، اس لئے التباس سے بچنے کے لئے عربی عبارت دیکھ لینی چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ حذف صاحب کتاب کی جانب سے ہے یا محقق نے حسب ضرورت یہاں عبارت حذف کی ہے۔

✽..... اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جن کتابوں کی عبارتیں نقل کی جائیں ان میں کسی قسم کی تبدیلی ہرگز نہ کی جائے، اگرچہ اس عبارت کا اُسلوب تحریر مرصعہ اسلوب کے موافق نہ ہو، اور اگر کہیں کسی تصحیف (تبدیلی) وغیرہ کی نشاندہی مطلوب ہو، تو اصل عبارت کو بعینہ نقل کر کے تصحیف وغیرہ کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔

✽..... حسب ضرورت محدثین کرام اور روایان حدیث کے ناموں میں صحیح تلفظ کے لئے اعراب لگائیں گئے ہیں۔

✽..... مذکورہ نکات سے واضح ہو گیا ہوگا کہ ہر تحقیق میں تسہیل و تفہیم کی خاص رعایت کی گئی ہے، جس کا لازمی نتیجہ طوالت تحقیق ہے، اسی مقصود کے پیش نظر تمام تحقیقات میں طوالت کا تحمل کیا گیا ہے۔

آخر میں جامعہ فاروقیہ کے منتظمین، بالخصوص استاد محترم مولانا محمد انور صاحب، مولانا نور البشر صاحب، اوو مولانا ساجد احمد صدوی صاحب کا شکر گزار ہوں، جن کی قدم بقدم رہنمائی سے یہ تحقیق پایہ تکمیل تک پہنچی۔ جزاہم اللہ فی الدارين أحسن الجزاء۔

راقم الحروف

طارق امیر خان

مختص فی علوم الحدیث

جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل ٹاؤن کراچی

شرائط ثلاثہ کا تاریخی و عملی پس منظر

جمہور علماء کے نزدیک، فضائل کے باب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، البتہ اس جوازِ عمل کے لئے تین بنیادی شرائط ہیں، جن کو حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے ”القول البدیع“ لہ میں ذکر کیا ہے، موصوف فرماتے ہیں:

”میں نے اپنے شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے کئی دفعہ سنا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مجھے اپنی تحریر سے یہ شرائط لکھ کر بھی دیں۔ ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لئے تین شرائط ہیں: پہلی شرط اتفاقی ہے کہ ضعف شدید نہ ہو، لہذا اس شرط سے وہ کذا بین، متہمین اور فاحش الغلط روایان حدیث نکل گئے، جو نقلِ روایت میں تنہا ہوں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ روایت، دین کے اصل عام کے تحت داخل ہو، اس شرط سے وہ روایتیں نکل گئیں، جو گھڑی گئی ہوں، اس طور پر کہ اس کی کوئی اصل نہ ہو۔

تیسری شرط یہ ہے کہ حدیث پر عمل کرتے وقت ثبوتِ حدیث کا اعتقاد نہ ہو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مزید فرمایا کہ آخری دو شرطیں، ابن عبد السلام رحمہ اللہ اور ابن دقیق العید رحمہ اللہ سے منقول ہیں، اور شرطِ اول پر علامہ علائی رحمہ اللہ نے علماء کا اتفاق نقل کیا ہے۔

ذیل میں ہم شرائط ثلاثہ کا فنی جائزہ پیش کریں گے:

شرط اول کا جائزہ:

وضاحت:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرط اول کے عنوان سے چند راویوں کی جانب اشارہ کیا ہے، ان راویوں کی روایت فضائل میں بھی بیان نہیں کر سکتے، درحقیقت شرط اول میں ان راویوں کو ذکر کر کے حدیث کی ترتیب وار تین خاص انواع کی جانب اشارہ ہے:

(۱) موضوع

(۲) متروک

(۳) منکر

کذا میں سے ”موضوع“ روایت کی جانب اشارہ ہے۔

مہتممین سے ”متروک“ روایت کی جانب اشارہ ہے۔

اور فاحش الغلط سے ”منکر“ روایت کی جانب اشارہ ہے۔

حافظ سخاوی رحمہ اللہ کی مندرجہ ذیل عبارت سے آپ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہو جائیں گے۔

”مہتمم بالکذب راوی کا تہرا روایت کرنا اس روایت کو موضوع کہلانے کے لئے کافی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مہتمم کی روایت کو ایک علیحدہ قسم بنایا ہے اور اس کا نام ”متروک“ رکھا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے متروک روایت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ متروک روایت وہ ہے جسے ایک ایسا شخص نقل کرے، جو حدیث رسول میں جھوٹ بولنے کے ساتھ مہتمم ہو، اور وہ روایت صرف اسی شخص سے مروی ہو، نیز یہ روایت شرعی قواعد کے خلاف ہو، اسی طرح اس شخص کی روایت بھی متروک کہلاتی ہے، جو اپنی عام گفتگو میں جھوٹ بولنے میں معروف ہو، البتہ اس شخص سے حدیث رسول میں جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو، یہ دوسری قسم شاعت میں کم ہے۔“

حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں:

”حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے قول متہم بالکذب سے وہ راوی نکل گئے، جو حدیث نبوی میں جھوٹ بولنے میں معروف ہوں، اور یہ حدیث صرف انہیں سے منقول ہو، ایسی حدیث پر ہم وضع کا حکم لگاتے ہیں، بشرطیکہ قرآن وضع کے مقتضی ہوں، جیسا کہ حافظ علائیؒ وغیرہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔“ لہ

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط ثلاثہ اور حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے توضیحی کلام سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں:

اگر کوئی راوی حدیث رسول میں جھوٹ بولنے میں معروف ہے اور وہ کوئی روایت تنہا نقل کرے، تو قرآن کی روشنی میں اس روایت کو ”من گھڑت“ کہا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ فضائل میں بھی من گھڑت روایت بیان نہیں کی جاسکتی۔

ایک شخص پر حدیث رسول میں جھوٹ بولنے کا اتہام ہو، اور وہ شخص دین کے قواعد معلومہ کے خلاف کوئی روایت نقل کرے، اور وہ اس روایت کے نقل کرنے میں وہ تنہا ہو، اس صورت میں یہ روایت ”متروک“ کہلاتی ہے، اسے فضائل میں بیان کرنا جائز نہیں ہے۔

اگر ایک شخص کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولنا ثابت ہو، تو ایسے شخص کی روایت بھی ”متروک“ کہلاتی ہے، جسے فضائل میں بیان کرنا جائز نہیں ہے، البتہ یہ قسم شاعت میں کم ہے۔

یہاں تک کی تصریحات سے آپ جان چکے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرط اول میں مذکور کذا میں اور متہمین سے حدیث کی دو انواع یعنی ”موضوع“ اور

”متروک“ مراد لی ہے، چنانچہ اس قسم کی روایتیں فضائل کے باب میں بیان کرنا جائز نہیں ہے، شرط اول میں مذکور لفظ ”فاحش الغلط“ سے حدیث کی ایک خاص نوع مراد ہے، اس نوع کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”منکر“ کا نام دیا ہے، موصوف لکھتے ہیں:

”جو شخص فاحش الغلط ہو یا کثرت سے غفلت کا شکار ہو یا اس کا فسق کھلا ہوا ہو، تو ایسے شخص کی حدیث ”منکر“ کہلاتی ہے۔“ ۱۔

خلاصہ کلام:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ شرط اول میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ فضائل میں تین قسم کی روایات بیان نہیں کر سکتے:

- (۱) من گھڑت
- (۲) متروک
- (۳) منکر

بالفاظ دیگر ان راویوں کی حدیث فضائل کے باب میں بیان کرنا جائز نہیں ہے:

- (۱) جو شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولنے میں معروف ہو۔
- (۲) جو شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولنے میں متہم ہو اور وہ قواعد دینیہ کے خلاف، کوئی روایت تنہا نقل کرے۔

- (۳) جو شخص اپنی عام گفتگو میں جھوٹ بولنے میں معروف ہو، اگرچہ اس شخص

سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو۔

- (۴) وہ شخص جو نقل روایت میں فاحش الغلط ہو، یا کثرت سے غفلت کا شکار

ہو یا کھلے فسق میں مبتلا ہو۔

یہ بھی واضح رہے کہ یہ تینوں قسمیں عام محدثین کے نزدیک بھی اسی ترتیب سے مردود ہیں، چنانچہ موضوع روایت تو بالاتفاق مردود ہے، متروک کے رد و قبول میں سلفاً و خلفاً اختلاف کی گنجائش نظر آتی ہے، اور منکر میں پھر یہی گنجائش کافی وسعت اختیار کر لیتی ہے، اس امر کی مزید وضاحت آگے آرہی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرط اول کو حافظ علائی رحمہ اللہ کے حوالے سے اتفاقی کہا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تاریخی حیثیت سے یہ جائزہ لیں کہ فضائل کے باب میں محدثین سلف نے شرط اول کی کس حد تک رعایت کی ہے۔

شرط اول کی عملی حیثیت:

سلف و خلف و ضاعین، متہم بالکذب اور فاحش الغلط راویوں سے احتراز کرتے رہے ہیں، یہ امر کسی توضیح کا محتاج نہیں ہے، البتہ ذیل میں اس کی چند مثالیں لکھی جاتی ہیں:

”احمد ابن سنان رحمہ اللہ حافظ ابن مہدی رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں: ابن مہدی رحمہ اللہ کسی شخص کی روایت ترک نہیں کرتے تھے، سوائے متہم بالکذب شخص اور ایسے شخص کی جس میں غلطی کا غلبہ ہو۔“

”علامہ ابن مبارک رحمہ اللہ لکھتے ہیں: احادیث لکھی جائیں گی، سوائے چار شخصوں کے:

(۱) روایت میں بہت غلطی کرنے والا شخص، جو غلطی میں مراجعت نہیں کرتا۔

(۲) کذاب۔

(۳) جو شخص بدعتی ہو اور بدعت کی طرف کسی کو دعوت دے۔

(۴) وہ شخص جو حدیث حفظ نہ کرے، اور پھر حفظ سے حدیث بیان کرنا شروع

کر دے۔“

امام العلیل حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے ”شرح علل الترمذی“ میں اس کے لئے باقاعدہ یہ عنوان قائم کیا ہے: ”الغلط الذي يؤد به الراوي أو يتركي“۔ (یعنی وہ غلطی جس سے راوی مردود یا متروک بن جاتا ہے) اس موضوع کے تحت ان حضرات کے اقوال ہیں:

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، امام شعبہ رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام دارقطنی رحمہ اللہ۔^۱

اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بعض ایسی نصوص بھی ملتی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلف باب فضائل میں، شرط اول میں شامل بعض راویوں کی احادیث قبول کر لیتے ہیں، چنانچہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی متہم بالکذب راوی، یا حدیث میں بنا بر غفلت و کثرت خطا ضعیف راوی، نقل روایت میں متفرد ہو، اور متعلقہ حدیث صرف اسی راوی سے مروی ہو، تو ان راویوں کی حدیث قابل احتجاج نہیں رہتی، امام ترمذی رحمہ اللہ کے اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ ان راویوں کی روایت شرعی احکام اور عملی امور میں حجت نہیں بن سکتی، البتہ ان میں بعض راویوں کی روایت رقائق اور ترغیب و ترہیب میں نقل کی جائے، تو بہت سے ائمہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ رقائق وغیرہ میں ضعف کی روایتیں نقل کی جاسکتی ہیں، ان ائمہ میں امام ابن مہدی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی ہیں۔“^۲

حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، امام العلیل حافظ ابو حاتم رحمہ اللہ سے بھی اسی قسم کا

^۱ شرح علل الترمذی: الغلط الذي يؤد به الراوي أو يتركي، ۱/ ۳۹۹، ت: دکتور ہمام عبد الرحمن سعید، مکتبۃ الرشید، الرياض، الطبعة ۱۴۲۱ھ۔

^۲ شرح علل الترمذی: رواية الضعفاء، والرواية عنهم، ۱/ ۳۷۱، ت: دکتور ہمام عبد الرحمن سعید، مکتبۃ الرشید، الرياض، الطبعة ۱۴۲۱ھ۔

مضمون نقل کرتے ہیں، موصوف لکھتے ہیں:

”ابو حاتم رحمہ اللہ کا یہ قول پہلے گزر چکا ہے کہ وہ شخص جو نقل روایت میں کثیر الغفلت ہو، تو ایسے شخص کی روایت احکام کے علاوہ (رقائق ترغیب و ترہیب) میں بیان کرنا جائز ہے، البتہ متہم بالکذب کی روایت صرف بیان حال کی صورت میں بیان کی جاسکتی ہے۔“ ۱

امام نووی رحمہ اللہ کے کلام سے بھی یہی ثابت ہے، آپ لکھتے ہیں:

”اشکال کیا جاتا ہے کہ یہ ائمہ باوجودیکہ جانتے ہیں کہ مغفلین، ضعفا اور متروکین کی احادیث سے احتجاج درست نہیں ہے، پھر بھی اپنی کتب میں ان کی احادیث کو ذکر کرتے ہیں۔“

امام نووی رحمہ اللہ نے اس اشکال کے چار جوابات دیے ہیں، چوتھے جواب میں آپ لکھتے ہیں:

”یہ محدثین ان راویوں سے ترغیب و ترہیب، فضائل اعمال، قصص، زہد اور مکارم اخلاق پر مشتمل روایات جن کا حلال حرام اور دیگر احکام سے تعلق نہیں ہے نقل کرتے رہتے ہیں اور حدیث کی اس نوع میں محدثین تسامح سے کام لیتے ہیں، اور اس کے بیان و عمل کو جائز سمجھتے ہیں، بشرطیکہ روایت من گھڑت نہ ہو۔“ ۲

علامہ امیر صنعانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”من گھڑت احادیث کے علاوہ دیگر احادیث مثلاً: وہی احادیث کے

۱۔ شرح علل الترمذی: الروایة عن الضعفاء، من اهل التهمة بالكذب والغفلة وكثرة الغفلة، ۱/۳۸۷،

ت: دكتور همام عبدالرحمن سعيد، مكتبة الرشيد الرياض، الطبعة ۱۴۲۱ھ۔

۲۔ شرح النووي على الصحيح لمسلم: الكشف عن معايير رواة الحديث، ۱/۲۵۱، الطبعة المصرية

بالأزهر، الطبعة الاولى ۱۳۳۷ھ۔

بارے میں ائمہ حدیث نے تساہل، اور ان احادیث کو ان کے ضعف کے اظہار کے بغیر بیان کرنے کو جائز کہا ہے، بشرطیکہ یہ احادیث احکام کے باب سے نہ ہوں۔“ ۱۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے صنّیع میں اسی امر کا اظہار کیا ہے، آپ لکھتے ہیں:

”حدیث انس رحمہ اللہ جو عسقلان کی فضیلت کے بارے میں ہے، یہ حدیث فضائل اعمال میں ہے، اور اس میں رباط فی سبیل اللہ پر ابھارا گیا ہے، اور حدیث کا مفہوم شرعاً و عقلاً محال بھی نہیں ہے، اور حدیث کو صرف اس وجہ سے باطل کہنا کہ یہ ابو عقال کی روایت میں سے ہے، قرین قیاس نہیں ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا احکام کے علاوہ، فضائل کی روایات میں تسامح کرنا تو معروف ہے۔“ ۲۔

حالانکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”تقریب التہذیب“ میں مذکورہ حدیث عسقلان کی سند میں موجود راوی ”ابو عقال ہلال بن زید“ کو ”متروک“ کہا ہے۔ ۳۔

نتیجہ:

ان نصوص سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ائمہ حدیث فضائل کے باب میں بعض ایسے راویوں کی روایت کو قبول فرما لیتے ہیں، جن کا ذکر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرط اول میں کیا ہے، بشرطیکہ وہ روایت احکام کے باب میں نہ ہو، بلکہ فضائل کے باب میں سے ہو۔

۱۔ توضیح الأفكار: ۸۲/۲، ت: صلاح بن محمد بن عریضہ، دار الکتب العلمیہ، بیروت، الطبعة الاولى

۱۴۱۷ھ۔

۲۔ القول المسمّی: الحدیث الثامن، ۲۷/۱، مکتبۃ ابن تیمیہ القاہرہ، الطبعة الاولى ۱۴۰۱ھ۔

۳۔ تقریب التہذیب: ص: ۵۷۵، رقم: ۷۳۶، ت: شیخ محمد عوامۃ، دار الرشید۔ سوریا، الطبعة

الرابعة ۱۴۱۸ھ۔

شرط ثانی کی وضاحت:

شرط ثانی میں کہا گیا تھا کہ روایت دین کے اصل عام کے تحت ہو، اس شرط سے گھڑی گئی بے اصل روایتیں نکل گئیں، اصل عام کی وضاحت کے لئے حافظ ابن دقیق العید رحمہ اللہ کی یہ تحریر انتہائی اہمیت کی حامل ہے:

”ہم نے جہاں کہیں حدیث ضعیف کے بارے میں یہ کہا ہے کہ حدیث ضعیف میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس پر اصل عام کے تحت ہونے کی وجہ سے عمل کیا جائے، تو اس عمل کی شرط یہ ہے کہ ان عموماً سے اخص کوئی ایسی دلیل اس روایت کے مقابلہ میں نہ ہو، جس میں اس سے منع کیا گیا ہو، مثلاً: رجب کے پہلی شب جمعہ میں مذکورہ نماز (بعض نوافل مراد ہے) کسی صحیح یا حسن حدیث سے ثابت نہیں ہے، سو جو شخص ان عموماً کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے جو نماز اور تسبیحات میں کے بارے میں وارد ہوئی ہے، اس حدیث پر عمل کرنا چاہے گا تو یہ فعل درست نہیں ہے، کیونکہ صحیح روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ جمعہ کی شب کو قیام کے لیے خاص کر دیا جائے، اور یہ حدیث صحیح اخص ہے ان عموماً کے مقابلے میں جو مطلق نماز کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں“۔ لہ

سابقہ نصوص سے اصل عام کی وضاحت ہو گئی، مثلاً: ایک شخص حدیث ضعیف کے بیان کے مطابق کسی وقت خاص اور ہیئت خاص کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہے، تو وہ مشہور احادیث جن میں نماز اور تسبیح کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اس خاص نماز کے لئے اصل عام کہلائے گی، اسی مثال سے اصل عام کی دیگر مثالیں بسہولت جانی جاسکتی

ہیں، البتہ ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ اصل عام مشروط ہے کہ کسی مقابل روایت سے معارض نہ ہو۔

شرطِ ثالث کی وضاحت:

شرطِ ثالث میں کہا گیا تھا حدیثِ ضعیف پر عمل کے وقت ثبوت کا اعتقاد نہ ہو، تا کہ آپ ﷺ کی جانب ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔

شرطِ ثالث کی تاریخی حیثیت:

یہ وضاحت تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی فرما چکے ہیں کہ شرطِ ثالث (اور اسی طرح شرطِ ثانی) حافظ ابن دقیق العید رحمہ اللہ اور حافظ ابن عبد السلام رحمہ اللہ نے اختیار فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت اس شرط کو ضروری نہیں سمجھتی، چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ بھی انہی لوگوں میں ہیں جو اسے شرط قرار نہیں دیتے، کیونکہ آپ ”الاذکار“ میں جا بجا یہ لکھتے ہیں کہ ”فضائل اعمال میں حدیثِ ضعیف پر عمل مستحب ہے“ انتہی، اور کسی عمل کا مستحب ہونا اس عمل کے آپ ﷺ سے ثبوت یا احتمالِ ثبوت اور پسندیدگی کی خبر دیتا ہے، معلوم ہوا کہ امام نووی رحمہ اللہ کے نزدیک شرطِ ثالث قطعاً ضروری نہیں، امام نووی رحمہ اللہ کے علاوہ امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام ابن الصلاح رحمہ اللہ، حافظ عراقی رحمہ اللہ، شیخ ابن ہمام رحمہ اللہ ان تمام محدثین نے فضائل کے باب میں حدیثِ ضعیف کے لئے صرف یہ شرط لگائی ہے کہ وہ موضوع نہ ہو، شرطِ ثانی و ثالث کا تذکرہ ان علماء کرام نے نہیں کیا، اور بعض دیگر قوی قرآن سے یہی امر مؤکد ہوتا ہے کہ سلف و خلف عام طور پر شرطِ ثانی و ثالث کو بابِ فضائل میں قبولیت کے لئے قید قرار نہیں دیتے، کیونکہ محدثین کی ایک جم غفیر نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حدیثِ ضعیف بیان کرتے وقت اس کے ضعف کی

صراحت کرنا ضروری نہیں ہے، چند محدثین کے نام یہ ہیں: علامہ طبری رحمہ اللہ، شیخ زکریا انصاری رحمہ اللہ، علامہ ابن وزیر یمنی رحمہ اللہ، حافظ سخاوی رحمہ اللہ، سید شریف جرجانی رحمہ اللہ، حافظ سیوطی رحمہ اللہ۔

ان تمام محدثین کا بیان ضعف کو ضروری نہ سمجھنا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حدیث ضعیف میں عدم ثبوت کا اعتقاد شرط نہیں ہے، کیونکہ جب عامۃ الناس سامعین کو یہ معلوم ہی نہ ہوگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو وہ احادیث میں ہرگز یہ امتیاز نہیں کر سکیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے ثبوت کا اعتقاد نہیں کرنا چاہیے، اور یہ روایت غیر ضعیف اور قابل اعتقاد ہے، اور اس عدم اعتقاد کو ان محدثین نے ہرگز مضر نہیں سمجھا، کیونکہ وہ اس امر کی صراحت کر چکے ہیں بیان ضعف ضروری ہی نہیں۔


نتیجہ کلام:

ان تمام دستاویزات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ باب فضائل میں اگرچہ حافظ ابن دقیق رحمہ اللہ اور حافظ ابن عبدالسلام رحمہ اللہ نے شرط ثانی و ثالث کو نقل کیا ہے، لیکن عام طور پر متقدمین و متاخرین نے اسے شرط قرار نہیں دیا، یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرائط ثلاثہ کے آخر میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ شرط اول اگرچہ بقول علامہ علائی رحمہ اللہ اتفاقی ہے، لیکن شرط ثانی و ثالث کے قائلین میں صرف حافظ ابن دقیق رحمہ اللہ اور حافظ ابن عبدالسلام رحمہ اللہ کا نام ذکر کیا ہے، واللہ اعلم۔

اس تمام تفصیل کے بعد اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ ہمارہ مقصد صرف اس بات کا اظہار ہے کہ ”شرائط ثلاثہ“ کی تاریخی حیثیت واضح ہو جائے، بالفاظ دیگر احقر کے سامنے اب تک سلف و خلف کی وہ عبارات جن کا تعلق ان شرائط ثلاثہ کے

اثبات و عدم اثبات سے ہے، وہ سب قارئین کرام کے سامنے پیش کر دی جائے، ان میں کسی ایک جانب کی ترجیح ہمارا موضوع نہیں ہے۔

رہی بات ہماری مذکورہ ”تحقیقات“ کی، اس کا معاملہ ”اقوال سلف بر روایت“ کی جمع و تالیف سے ہے، اور ظاہر ہے یہ امر ”شرائط ثلاثہ“ سے ہٹ کر روایات کے بارے میں سلف کے ”تعامل“ اور ”اجراء“ سے متعلق ہے، ان میں بعض مقامات پر استیناساً شرائط ثلاثہ کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور ”بناءً تحقیق“ سلف سے ”منقول“ ارشادات بر روایات“ ہیں۔



روایت نمبر: (۱)

سُنن کا ایک بڑا ذخیرہ، سقیم سندوں کی شکل میں محفوظ ہے، ان سقیم روایتوں کے لئے محدثین کرام نے ایسے فنی اصول وضع کیے ہیں جن کی روشنی میں، ان احادیث کو اُن کا فنی مقام دیا جاتا ہے، چنانچہ جمہور علماء کے نزدیک فضائل کے باب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، اور اس جوازِ عمل کے لئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تین بنیادی شرائط ذکر کی ہے، جن کو حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے ”القول البدیع“ میں ذکر کیا ہے، موصوف فرماتے ہیں:

”سمعتُ شيخنا ابن حجر أي العسقلاني المصري مَرَّأً - وكتبته لي بخطه يقول: شَرَطُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ ثَلَاثَةٌ: الْأَوَّلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الضَّعْفُ غَيْرَ شَدِيدٍ فَيُخْرِجُ مَنْ انْفَرَدَ مِنْ الْكَذَّابِينَ وَالْمُتَّهَمِينَ وَمَنْ فَحَشَ غَلَطُهُ وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُنْذَرِجًا تَحْتَ أَصْلٍ عَامٍ، فَيُخْرِجُ مَا يُخْتَرَعُ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ أَصْلٌ أَصْلًا، وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يُعْتَقَدَ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ ثَبُوتُهُ لِثَلَاثِئِنْ سَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْهُ - قَالَ: وَالْأَخِيرَانِ عَنِ ابْنِ السَّلَامِ وَابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ، وَالْأَوَّلُ نَقَلَ الْعَلَاءِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ“ - ۱

میں نے اپنے شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے کئی دفعہ سنا ہے - حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مجھے بذاتِ خود یہ شرائط لکھ کر بھی دیں - ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لئے تین شرائط ہیں: پہلی شرط اتفاقی ہے کہ ضعف شدید نہ ہو، لہذا اس شرط سے وہ کذا میں، متہمین اور فاحش الغلط رُوایۃ نکل گئے، جو نقلِ روایت میں منفرد (تہا) ہوں۔

دوسری شرط یہ ہے روایت دین کے اصل عام کے تحت داخل ہو، اس شرط سے وہ روایتیں نکل گئیں، جو گھڑی گئی ہوں اس طور پر کہ ان کی کوئی اصل نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حدیث پر عمل کرتے وقت ثبوت حدیث کا اعتقاد نہ ہو، تاکہ آپ ﷺ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے، جو آپ ﷺ نے نہ فرمائی ہو۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مزید فرمایا کہ آخری دو شرطیں، ابن عبد السلام رحمہ اللہ اور ابن دقیق العید رحمہ اللہ سے منقول ہیں، اور شرط اول پر علامہ علائی رحمہ اللہ نے علما کا اتفاق نقل کیا ہے۔

اس دینی انحطاط کے دور میں ان شرائط کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ محدثین کرام کے اسی منہج کے پیش نظر ذیل میں ایک ایسی حدیث کی فنی تحقیق ذکر کی جائی گی، جس میں مذکورہ شرائط میں سے شرط اول (روایت کا ضعف شدید سے خالی ہونا) مفقود ہے، جس کا مقتضی یہ تھا کہ اسے فضائل کے باب میں بھی بیان کرنے سے احتراز کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود یہ روایت زبان زد عام ہے۔

عنوان روایت:

ماں کی نافرمانی پر بیٹے کی حالت نزع میں کلمہ سے محرومی۔

تحقیق کا اجمالی خاکہ:

روایت کی تحقیق پانچ اجزاء پر مشتمل ہے:

۱- روایت اور اس کے مصادرِ اصلہ

۲- روایت پر ائمہ حدیث کا کلام

۳- متکلم فیہ راوی کے بارے میں ائمہ کے اقوال اور روایت کا فنی حکم

۴- روایت کا شاہد اور اس کا فنی حکم

۵- مکمل تحقیق کا حاصل اور روایت کا فنی حکم

روایت اور اس کے مصادرِ اصلہ:

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن احمد رحمہ اللہ ”مسند احمد“ لے میں لکھتے ہیں:

”وكان في كتاب أبي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا فَائِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا قَدْ اخْتُصِرَ يَقُولُ لَهُ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَهَا، فَقَالَ ﷺ: أَلَيْسَ كَانَ يَقُولُهَا فِي حَيَاتِهِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَمَا مَنَعَهُ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ؟... [كذا في نسخة مسند أحمد] فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ. فَلَمْ يُحَدِّثْ أَبِي بِهِذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، ضَرَبَ عَلَيْهِمَا مِنْ كِتَابِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِضْ حَدِيثَ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ“۔

يَعْنِي: ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد (امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ) کی کتاب میں یہ روایت تھی: یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ مجھے فائد بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے عبد اللہ بن ابی اونی رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! یہاں ایک لڑکا ہے، جس کی موت کا وقت قریب ہے، جب اسے کہا جاتا ہے کہ ”لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہو، تو وہ یہ کلمہ نہیں کہہ پاتا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا وہ اپنی (سابقہ) زندگی میں یہ کلمہ نہیں کہا کرتا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا: کیوں نہیں (یعنی زندگی میں تو وہ پڑھتا تھا)، آپ ﷺ نے فرمایا: پھر موت کے وقت کیا چیز اس کلمہ کو کہنے سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟..... [مسند احمد کے نسخے میں اسی

طرح حذف کا نشان ہے [پھر راوی نے مفصل روایت ذکر کی۔

(عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) پھر میرے والد (امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ) نے یہ دونوں احادیث (ایک تو یہی زیر تحقیق روایت ہے، اور دوسری روایت اس کے علاوہ ہے) بیان نہیں کی، اور ان دونوں احادیث کو اپنی کتاب میں ذکر کرنے سے رک گئے تھے، کیونکہ وہ فائدہ بن عبد الرحمن (جو ان دونوں روایتوں کی سند میں ہے) کی حدیث سے راضی نہیں تھے، اور فائدہ بن عبد الرحمن، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ”متروک“ (شدید کلمہ جرح) تھا۔
مسند احمد کی عبارت یہاں مکمل ہو گئی۔

روایت کا بقیہ مضمون:

آپ دیکھ چکے کہ ”مسند احمد“ میں تو یہ روایت اختصار سے ذکر کی گئی ہے، البتہ ”شعب الایمان“ میں اس کے بعد پھر یہ اضافہ ہے کہ اس نو جوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا کہ میں والدہ کی نافرمانی کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھ سکتا..... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو جوان کی والدہ سے کہا کہ اگر آگ جلا کر اس نو جوان کو اس میں ڈالا جائے تو کیا تم سفارش کرو گی؟ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا سمجھ گئی اور اپنے بیٹے سے رضامندی کا اظہار کر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ کی تلقین کی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَتَقَدَّهُ مِنَ النَّارِ“

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اسے جہنم سے بچا لیا۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف:

دوران تحقیق حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کا نام کثرت سے آئے گا، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آپ رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف لکھا جائے۔

حافظ ابن اثیر رحمہ اللہ ”أسد الغابة“ لہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ، خیبر اور بعد کے غزوات میں شریک رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہے، پھر کوفہ منتقل ہو گئے، اور کوفہ میں رہنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے آخری صحابی آپ رضی اللہ عنہ ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ۸۶ھ کوفہ میں ہوا ہے۔

روایت کے دیگر مصادرِ اصلیہ:

یہ روایت اسی سند کے ساتھ ان کتب میں بھی ہے:

”شعب الإيمان للبيهقي رحمہ اللہ“ ۲

”الضعفاء الكبير للعقيلي رحمہ اللہ“ ۳

”دلائل النبوة للبيهقي رحمہ اللہ“ ۴

”المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري

المالكي رحمہ اللہ“ ۵

”تاريخ دمشق لابن عساكر رحمہ اللہ“ ۶

لہ أسد الغابة: عبد الله بن أبي أوفى، باب العين والباء، ۱۸۱/۳، رقم: ۲۸۳۰، الشيخ علي محمد المعوض والشيخ أحمد الموجود، دار الكتب العلمية بيروت۔

۲ شعب الإيمان: ۲۹۰/۱۰، رقم: ۷۵۰۷، ت: مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۳ھ۔

۳ الضعفاء الكبير: فائد بن عبد الرحمن ۳/۳۳۰، رقم: ۱۵۱۶، ت: الدكتور عبد المعطي، دار الكتب العلمية-بيروت۔

۴ دلائل النبوة: باب ما جاء في الشاب الذي... ۶/۶۰۵، ت: الدكتور عبد المعطي، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى، ۱۴۰۸ھ۔

۵ المجالسة وجواهر العلم: ۲/۳۴۷، رقم: ۵۱۶، أبو عبيدة مشهور بن حسن، دار ابن حزم-بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۹ھ۔

۶ تاريخ دمشق: إبراهيم بن عبد الله بن الجنيّد... ۷/۵، ت: محب الدين أبو سعيد، دار الفكر-بيروت، ۱۴۱۵ھ۔

”التدوین فی تاریخ قزوین لعبد الکریم بن محمد القزوینی رحمہ اللہ“ ۱

”مساوی الأخلاق للمخراطی رحمہ اللہ“ ۲

یہ تمام سندیں، زیر بحث سند میں مذکور راوی فائد بن عبد الرحمن پر آ کر مشترک ہو جاتی ہیں۔

روایت پر ائمہ کا کلام:

زیر بحث روایت کو مختلف محدثین کرام نے اپنی کتب میں ذکر کرنے کے بعد روایت اور اس کی سند پر کلام کیا ہے، ذیل میں ان ائمہ حدیث کی عبارتیں اور آخر میں ان کا خلاصہ بھی لکھا جائے گا:

۱- امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن أحمد بن حنبل رحمہ اللہ تخریج روایت کے بعد فرماتے ہیں:

”وكان في كتاب أبي... فلم يحدث أبي بهذين الحديثين، ضرب عليهما من كتابه؛ لأنه لم يرض حديث فائد بن عبد الرحمن وكان عنده متروك الحديث“ ۳

ترجمہ: میرے والد کی کتاب میں یہ حدیث تھی..... پھر میرے والد (امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ) نے یہ دونوں احادیث بیان نہیں کی، اور ان دونوں احادیث کو اپنی کتاب میں ذکر کرنے سے رُک گئے تھے، کیونکہ وہ فائد بن عبد الرحمن (جو ان دونوں روایتوں کی سند میں ہے) کی حدیث سے راضی نہیں تھے، اور فائد بن عبد الرحمن، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک ”متروک“ (شدید جرح) تھا۔

۱۔ التدوین فی تاریخ قزوین: باب الثام، ۲/۳۶۹، ت: عزیز اللہ العطاری، دار الکتب العلمیۃ بیروت۔

۲۔ مساوی الأخلاق: باب ماجاء فی عقوق الوالدین ۱۲۰، رقم: ۲۵۱، ت: مصطفیٰ بن أبو النصر، مکتبۃ السوادی، ج۲، الطبعة الأولى، ۱۴۱۲ھ۔

۳۔ مسند أحمد: ۶/۳۶۲، رقم: ۱۹۶۳۱، عالم الکتب بیروت، الطبعة الأولى، ۱۴۱۹ھ۔

۲- حافظ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

حافظ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت فائد بن عبد الرحمن کے ترجمے میں ذکر کی ہے، روایت کے بعد لکھتے ہیں:

”ولا يتابعه [فائد] إلا من هو نحوه“۔^۱
فائد کی متابعت اُن جیسے لوگ ہی کرتے ہیں۔

۳- امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ تخریج روایت کے بعد لکھتے ہیں:

”نَفَرَدَ بِهِ فَائِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْوَرَقَاءِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ“۔^۲
فائد بن عبد الرحمن اس روایت کو نقل کرنے میں متفرد (تنہا) ہے اور وہ ”قوی“ نہیں ہے۔

ایک تعارض کی وضاحت:

واضح رہے کہ حافظ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حافظ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ فائد کی متابعت اس روایت میں اُن جیسے راوی نے کی ہے، یعنی فائد کے علاوہ کسی دوسرے راوی نے بھی یہ روایت فائد کے شیخ (سند میں مذکور حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ) سے نقل کی ہے، جبکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فائد کے علاوہ کسی اور نے یہ روایت نقل نہیں کی ہے، بہر حال یہاں دو احتمال ہیں:

۱- ممکن ہے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فائد کی متابعت سے واقف ہوں، لیکن متابعت کرنے والا راوی ساقط الاعتبار ہو، اس لئے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس متابعت کا اعتبار

^۱ الضعفاء الكبير: فائد بن عبد الرحمن، ۳/۳۳۰، رقم: ۱۵۱۶، ت: د۔ عبد المعطي، دار الكتب العلمية۔ بيروت۔

^۲ شعب الإيمان: ۱۰/۲۹۰، رقم: ۷۵۰۷، ت: مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد۔ الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۳ھ۔

نہیں کیا، اور فائدہ کو اس روایت میں متفرد (تہا) قرار دے دیا۔

۲۔ یہ امکان بھی ہے کہ حافظ عقیلی رحمہ اللہ کا یہ جملہ (فائدہ کی متابعت اُن جیسے لوگ کرتے ہیں) فائدہ کی جرح پر محمول ہو، اور اس میں متابعت سے متابعت اصطلاحی مراد نہ ہو، اب اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ فائدہ کی متابعت اُن جیسا شخص ہی کرے گا، چنانچہ اس احتمال کو اختیار کرنے کے بعد حافظ عقیلی رحمہ اللہ اور امام بیہقی رحمہ اللہ کے اقوال میں کوئی تعارض نہیں رہے گا۔

البتہ واضح رہے کہ تلاش بسیار کے باوجود بندہ کو فائدہ بن عبد الرحمن کا متابع نہیں مل سکا، نیز اس روایت کا ایک ناقص شاہد موجود ہے، جس کا ذکر عنقریب آئے گا۔

۴۔ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ ”کتاب الموضوعات“ لہ میں لکھتے ہیں:

”هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وفي طريقه فائدة۔ قال: أحمد بن حنبل: فائدة متروكة الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال ابن حبان رحمہ اللہ: لا يجوز الاحتجاج به، وقال العقيلي: لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله، وفي الإسناد داود بن إبراهيم، قال أبو حاتم الرازي: كان يَكْذِبُ“۔

یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنا ”صحیح“ نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں فائدہ ہے، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ”متروک الحدیث“ (کلمہ جرح) اور یحییٰ رحمہ اللہ نے ”لیس بشیء“ (کلمہ جرح) کہا ہے، ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فائدہ کے ذریعے احتجاج درست نہیں ہے، عقیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث میں فائدہ بن عبد الرحمن کی متابعت ان جیسے ہی دوسرے راوی کرتے ہیں (علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں) اور اس حدیث کی سند میں داؤد بن ابراہیم

ایک اہم وضاحت:

واضح رہے کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے دوراویوں کو کلام کا موضوع بنایا ہے: فائدہ بن عبد الرحمن اور داؤد بن ابراہیم۔ عنقریب ذکر کیا جائے گا کہ اس سند میں داؤد کی متابعت، فضیل بن عبد الوہاب نے کی ہے (یعنی فضیل بن عبد الوہاب نے بھی یہ روایت نقل کی ہے) اور فضیل بن عبد الوہاب سکری کو فی کو امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ثقہ کہا ہے؛ لہذا اس سند میں داؤد کا موجود ہونا متین حدیث کے لئے مضر نہیں ہے، البتہ دوسرا راوی فائدہ بن عبد الرحمن محدثین کرام کے نزدیک مجروح ہے۔ محدثین کرام کے نزدیک فائدہ بن عبد الرحمن متروک راوی ہے، جو تمام سندوں میں موجود ہے، فائدہ کے بارے میں ائمہ کے تفصیلی اقوال عنقریب آئیں گے۔

۵۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ ذہبی رحمہ اللہ ”تلخیص کتاب الموضوعات“ لہ میں رقم طراز ہیں:

”رواہ داؤد بن ابراہیم کذاب۔ ثنا جعفر بن سلیمان، ثنا (فائد)
العطار، عن ابن أبي أوفى“۔

اس حدیث کو داؤد بن ابراہیم کذاب نے نقل کیا ہے۔“

ماقبل میں گذر چکا ہے کہ داؤد کی متابعت، فضیل بن عبد الوہاب نے کی ہے (یعنی فضیل بن عبد الوہاب نے بھی یہ روایت نقل کی ہے اور فضیل بن عبد الوہاب ثقہ ہیں) اس لئے اس سند میں داؤد بن ابراہیم کا ہونا متن حدیث کے لئے مضرب نہیں ہے۔

۶- حافظ مندری رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ مُنذِرِی رحمۃ اللہ علیہ ”الترغیب والترہیب“ ۲ میں صیغہ مجہول سے روایت ذکر

١٤ تلخيص كتاب الموضوعات: ٢٨٠، رقم: ٥٤٤، عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية
بالمدينة المنورة، الطبعة ١٣٨٦هـ.

٢. الترغيب والترهيب: كتاب البر والصلة، ٢٨٠، رقم: ٣٦٩٦، دار ابن حزم، الطبعة الأولى ١٢٢٢هـ.

کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”رواہ الطَّبْرَانِي وَأَحْمَدُ مُخْتَصَرًا“۔

اس روایت کو طبرانی رحمہ اللہ اور احمد رحمہ اللہ نے مختصراً تخریج کیا ہے۔

ایک اہم تنبیہ:

واضح رہے کہ حافظ مُنْذَرِي رحمہ اللہ ”الترغیب والترہیب“ میں صیغہ مجہول سے جن احادیث کو ذکر کرتے ہیں، وہ ضعف کی دونوں قسموں پر مشتمل ہو سکتی ہیں (یعنی ضعف خفیف اور ضعف شدید)، حافظ مُنْذَرِي رحمہ اللہ نے اپنے طریقہ کار کو ”الترغیب والترہیب“ کے مقدمہ میں وضاحت سے لکھا ہے۔

۷۔ حافظ نور الدین بیہقی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ بیہقی رحمہ اللہ ”مجمع الزوائد“ لہ میں لکھتے ہیں:

”رواہ الطَّبْرَانِي وَأَحْمَدُ بِاخْتِصَارٍ كَثِيرٍ، وَفِيهِ: فَائِدُ أَبُو الْوَرَقَاءِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ“۔

اس روایت کو طبرانی رحمہ اللہ اور احمد رحمہ اللہ نے انتہائی اختصار کے ساتھ تخریج کیا ہے اور اس میں فائد ابو الورقاء ہے، جو کہ ”متروک“ (شدید جرح) ہے۔

۸۔ علامہ بُوصیری رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ بُوصیری رحمہ اللہ ”اتحاف الخيرة الماهرة“ لہ میں لکھتے ہیں:

”رواہ أحمد بن منيع، والطَّبْرَانِي واللفظ له، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وقال: لم يُحَدِّثْ أَبِي بهذا الحديث، ضَرَبَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِضْ حَدِيثَ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَتْرُوكٌ الْحَدِيثُ“۔

اس روایت کو احمد بن منیع رحمہ اللہ اور طبرانی رحمہ اللہ نے تخریج کیا ہے اور الفاظ

لہ مجمع الزوائد: کتاب البر والصلة، باب ما جاء في عقود...، ۸/۲۷۰، رقم: ۱۳۳۳، ت: الشيخ

عبد الله الدرويش، دار الفكر-بيروت، الطبعة الأولى ۱۳۲۵ھ۔

لہ اتحاف الخيرة الماهرة: کتاب ۵/۴۶، رقم: ۵۰۳۹، ت: أبو تميم ياسر، دار الوطن للنشر۔

الرياض، الطبعة ۱۳۲۰ھ۔

حدیث طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد اللہ بن أحمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ عبد اللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے یہ حدیث بیان نہیں کی، وہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کرنے سے رک گئے تھے، کیونکہ وہ فائدہ بن عبد الرحمن کی حدیث سے راضی نہیں تھے، اور فائدہ ان کے نزدیک ”متروک الحدیث“ (شدید جرح) تھا۔

۹- امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ”الفوائد المجموعۃ“ لے میں رقم طراز ہیں:

”... رواه العُقَيْلِيُّ عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعاً، وفي إسناده: متروك كذاب، وله طرق أخرى“۔

”..... عُقَيْلِيُّ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رحمۃ اللہ علیہ سے مرفوعاً نقل کی ہے اور اس کی سند میں متروک کذاب راوی ہے، اور اس کے دیگر طرق (سندیں) بھی ہیں۔

واضح رہے کہ عُقَيْلِيُّ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر طرق (سندوں) میں بھی، فائدہ بن عبد الرحمن مجروح راوی موجود ہے۔

۱۰- علامہ ابن عَرَّاق رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

حافظ ابن عَرَّاق رحمۃ اللہ علیہ ”تنزیہ الشریعة“ لے میں لکھتے ہیں:

”... (عق) ولا يَصِحُّ فِيهِ دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَاضِي قَرْوِينِ وَفِيهِ حَامِدُ الْعَطَّارِ مَتْرُوكٌ (تعقب) بَأَنَّ دَاوُدَ تَابَعَهُ فَضِيلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

لے الفوائد المجموعۃ: کتاب الأدب الزهد... ۲۳۱، رقم: ۳۸، ت: عبد الرحمن بن یحیی، دار الکتب العلمیہ۔ بیروت، الطبعة ۱۴۱۶ھ۔

لے تنزیہ الشریعة: کتاب الأدب الزهد... الفصل الثانی، ۲/۲۹۶، رقم: ۵۱، ت: عبد الوہاب عبد اللطیف و عبد اللہ محمد الصدیق، دار الکتب العلمیہ۔ بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۰۱ھ۔

أخْرَجَهُ الْخُرَاطُطِيُّ فِي مَسَاوِي الْأَخْلَاقِ وَحَامِدٌ تَابِعَهُ فَائِدُ أَبُو الْوَرَقَاءِ
أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ وَابْنُ أَبِي عَرَبٍ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ
وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ -

ایک تصحیف اور تسامح کی وضاحت:

حافظ ابن عَرَّاق کا کلام:

یہاں ایک اہم تسامح (بھول چوک) اور تصحیف (تبدیلی) کی نشاندہی ضروری ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حافظ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ مذکورہ عبارت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حافظ عَقْلِی رحمہ اللہ نے اس روایت کی تخریج کی ہے، اور روایت کی سند دو راویوں داؤد بن ابراہیم اور حامد العطار کی وجہ سے معلل اور متکلم فیہ ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس قول کا تعاقب کیا ہے کہ فضیل بن عبد الوہاب نے داؤد کی متابعت کی ہے یعنی یہی روایت فضیل نے جعفر بن سلیمان، عن عبد اللہ بن ابی اوفی کی سند سے نقل کی ہے (مزید تفصیل آگے آئے گی)، اور فضیل بن عبد الوہاب سکری کو فی کو امام ابو حاتم رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ثقہ کہا ہے، اس لئے اس سند میں داؤد کی موجودگی متن حدیث کیلئے مضرب نہیں۔ دوسری بات یہ کہی ہے کہ متروک راوی حامد العطار کی متابعت فائد ابو الورقاء نے کی ہے، یعنی یہی روایت حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رحمہ اللہ سے فائد بن ابو الورقاء نے بھی نقل کی ہے (مزید تفصیل آگے آئے گی)، لہذا سند میں حامد العطار کا ہونا بھی متن حدیث کیلئے مضرب نہیں۔

حافظ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ کے قول کی اصل سے مراجعت (یعنی امام سیوطی رحمہ اللہ کے کلام کا جائزہ):

اب تسامح کا تفصیلی بیان یہ ہے کہ حافظ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ کا علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے تعاقب کو بیان کرتے ہوئے یہ کہنا تو درست ہے کہ فضیل بن عبد الوہاب نے داؤد

کی متابعت کی ہے، چنانچہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ ”اللائی المصنوعہ“ لہ میں حافظ عقیلی رحمہ اللہ کی زیر بحث مسند روایت تخریج کر کے لکھتے ہیں:

”لَا يَصِحُّ - فائدمتروک، قال العُقَيْلِيُّ رحمہ اللہ: لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَدَاوُدُ كَذَّابٌ (قُلْتُ): دَاوُدُ لَمْ يُتَّفَرِّدْ بِهِ فَإِنَّ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ الْخَرِاطِيُّ فِي مَسَاوِي الْأَخْلَاقِ وَقَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجَنْجِيدِيِّ، حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبْعِيِّ، عَنْ فَائِدِ الْعَطَّارِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: لِمَنْ رَجُلًا خَصَرْتَهُ الْوَفَاءُ...“

یہ روایت ”صحیح“ نہیں ہے، فائد متروک راوی ہے، عقیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: فائد کی متابعت نہیں کی جاتی ہے، اور داؤد کذاب ہے (یہاں تک ابن جوزی رحمہ اللہ کا کلام ہے)، میں کہتا ہوں (یعنی علامہ سیوطی رحمہ اللہ) داؤد اس روایت کو نقل کرنے میں متفرد (تہا) نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث خرائطی رحمہ اللہ نے مساوی الأخلاق میں اس سند سے تخریج کی ہے: حدیثنا إبراہیم بن الجنیدی، حدیثنا فضیل بن عبد الوہاب، حدیثنا جعفر بن سلیمان الضبعی، عن فائد العطار قال سمعتُ عبد الله بن أبي أوفى يقول: أن رجلاً خَصَرْتَهُ الْوَفَاءُ...“

اس عبارت میں صاف موجود ہے کہ فضیل نے جعفر بن سلیمان، عن عبد اللہ بن ابی اوفی رحمہ اللہ کی سند سے یہ روایت نقل کی ہے، ثابت ہوا کہ داؤد کے علاوہ فضیل نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، اور داؤد اس روایت کو نقل کرنے میں تہا نہیں ہے۔

البتہ یہ کہنا درست نہیں کہ حامد العطار کی متابعت فائد ابو الوراق نے کی ہے، یعنی یہی روایت حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رحمہ اللہ سے فائد ابو الوراق نے بھی نقل کی ہے، کیونکہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ”اللائی المصنوعہ“ میں اس روایت کی تین سندیں ذکر ہے:

لہ اللائی المصنوعہ: ۲/۲۵۱، محمد عبد المنعم رابع، دار الکتب العلمیہ۔ بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۲۸ھ۔
 لہ ”اللائی المصنوعہ“ میں یہ لفظ ”فضل“ لکھا ہے لیکن ”مساوی الأخلاق“ کے نسخے میں ”فضیل“ ہے۔
 یہی صحیح ہے اور فضل تعحیف (تبدیلی) ہے۔

۱- حافظ خراگلی رحمہ اللہ کی سند

۲- امام بیہقی رحمہ اللہ کی سند

۳- امام طبرانی رحمہ اللہ کی سند

ان تینوں سندوں میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رحمہ اللہ سے نقل کرنے والے راوی، فائدہ ابو الورقاء کو ذکر کیا گیا ہے، اور تینوں ائمہ کی اپنی تصانیف میں بھی فائدہ مذکور ہے، اور نہ ہی علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ حامد العطار کی متابعت فائدہ ابو الورقاء نے کی ہے، یعنی یہی روایت حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رحمہ اللہ سے حامد العطار کے علاوہ فائدہ ابو الورقاء نے بھی نقل کی ہے۔

حافظ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ کے تسامح کی علت:

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی عبارت میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ حامد العطار کی متابعت فائدہ ابو الورقاء نے کی ہے، یعنی یہی روایت حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رحمہ اللہ سے فائدہ بن ابو الورقاء نے بھی نقل کی ہے، تو علامہ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ نے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات کیسے فرمادی کہ ”وحامد تابعہ فائدہ ابو الورقاء“ حامد کی متابعت فائدہ ابو الورقاء نے کی ہے؟

اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ”اللاکي المصنوعة“ کے نسخے میں موجود عُقْلِي رحمہ اللہ کی سند میں یا ”الضعفاء الكبير للعقيلي“ کے نسخے میں تصحیفاً (تبدیلی سے) یہ لفظ ”حامد العطار“ لکھا ہوگا، جیسا کہ حافظ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ کی مذکورہ عبارت سے یہی معلوم ہوتا ہے:

”(عق) ولا يصح، فيه داؤد بن ابراهيم قاضي قزوين وفيه حامد العطار متروك“۔

”اس روایت کی تخریج عُقْلِي رحمہ اللہ نے کی ہے، اور یہ روایت ”صحیح“ نہیں ہے، اس میں قزوين کا قاضی داؤد بن ابراہیم ہے، اور حامد العطار متروک راوی بھی ہے۔“

حالانکہ صحیح یہ ہے کہ سند میں مذکور یہ لفظ حامد العطار نہیں بلکہ ”فائد العطار“ ہے، اور حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ اسی تصحیف (تبدیلی) کی وجہ سے یہ سمجھے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی سندیں لا کر یہ بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ حامد العطار کی متابعت فائد ابو الورقاء نے کی ہے، یعنی یہی روایت عبد اللہ بن ابی اوفی رحمۃ اللہ علیہ سے فائد ابو الورقاء نے بھی نقل کی ہے، جیسا کہ ابن عَرَّاق رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ عبارت سے یہی معلوم ہوتا ہے: ”و حامد تابعه فائد أبو الورقاء أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب وقال: تفرد به فائد وليس بقوي“۔ اور فائد ابو الورقاء نے حامد کی متابعت کی ہے، جسے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج کیا ہے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”شعب الإیمان“ میں تخریج کیا ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے نقل کرنے میں فائد مفرد (تنہا) ہے اور فائد قوی نہیں ہے۔

تساح اور تصحیف کا خلاصہ:

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حافظ ابن عَرَّاق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ فائد ابو الورقاء نے کسی حامد نامی راوی کی متابعت کی ہے، مذکورہ تصحیف (تبدیلی) کی وجہ سے تساح (بھول چوک) پر مبنی ہے۔

روایت پر ائمہ حدیث کے کلام کا خلاصہ:

یہاں تک ان ائمہ حدیث کے اقوال لکھے گئے ہیں، جنہوں نے خاص اس زیر بحث روایت کو کلام کا موضوع بنایا ہے، ان محدثین کرام میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ان سب محدثین کرام نے صاف لفظوں میں فائد بن عبد الرحمن کی وجہ سے اس روایت کو ساقط الاعتبار کہا ہے، ان کے علاوہ حافظ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، اور حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت میں فائد بن عبد الرحمن کو ضعیف کہا ہے، اور آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ کلام کا مدار خاص طور پر فائد بن عبد الرحمن ہے، اس لئے

ذیل میں بحث کو مزید واضح کرنے کے لئے زیر بحث روایت سے قطع نظر، صرف فائدہ بن عبد الرحمن کے بارے میں دیگر ائمہ کے اقوال لکھے جا رہے ہیں۔

ابوالورقاء فائدہ بن عبد الرحمن پر ائمہ حدیث کا کلام:

۱- عبد اللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وكان في كتاب أبي... فلم يحدث أبي بهذين الحديثين، ضرب عليهما من كتابه لأنه لم يرض حديث فائد بن عبد الرحمن، وكان عنده متروك الحديث“۔^۱

میرے والد کی کتاب میں یہ حدیث تھی..... پھر میرے والد (امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے) یہ دونوں احادیث بیان نہیں کی، اور ان دونوں احادیث کو اپنی کتاب میں ذکر کرنے سے رک گئے تھے، کیونکہ وہ فائد بن عبد الرحمن (جوان دونوں روایتوں کی سند میں ہے) کی حدیث سے راضی نہیں تھے۔ اور فائد بن عبد الرحمن، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک ”متروک“ (شدید جرح) تھا۔

۲- حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ”إطراف المسند المعتبري بأطراف المسند الحنبلي“^۲ میں مذکورہ حدیث اور عبد اللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کلام نقل کر کے لکھتے ہیں:

”... ولم يرضق عبد الله ذلك، وقد أورد الطبراني من طريق عيسى بن يونس عن فائد بطوله“۔

”..... عبد اللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو نہیں لائے، اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے عیسیٰ بن یونس عن فائد کے طریق سے اسے تفصیل سے تخریج کیا ہے۔“

^۱ مسند أحمد بن حنبل: ۵۶۳/۶، رقم: ۱۹۶۳۱، عالم الکتاب بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۹ھ۔

- وضرب علی یدہ: أمسک - کذا في ”لسان العرب“ ۶۳۳/۱، ت: عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ۲۰۰۳ھ۔

^۲ إطراف المسند المعتبري: فائد أبو الورقاء، ۳۲۵/۳، رقم: ۴۰۲۷، ت: زهير بن ناصر، دار ابن كثير۔

بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۲ھ۔

۳- حافظ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”كَانَ مَعْنُ يَرْوِي عَنِ الْمَشَاهِيرِ وَيَأْتِي عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى بِالْمُعْضَلَاتِ، لَا يَجُوزُ الْإِحْتِجَاجُ بِهِ“۔^۱

فائدہ بن عبد الرحمن ان لوگوں میں ہے جو مشاہیر سے روایتیں نقل کرتے تھے، اور وہ ابن ابی اوفی رحمہ اللہ سے مُعْضَل (جس سند میں دو یا اس سے زائد راوی گرے ہوں) روایتیں بیان کرتے تھے، فائدہ کے ذریعے احتجاج جائز نہیں ہے۔

۴- امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”مُنْكَرُ الْحَدِيثِ“۔^۲

فائدہ بن عبد الرحمن ”مُنْكَرُ الْحَدِيثِ“ ہے (امام بخاری رحمہ اللہ یہ لفظ اکثر شدید جرح کے لئے استعمال کرتے ہیں)۔

۵- حافظ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أَبُو الْوَرَقَاءِ إِسْمُهُ فَائِدُ لَيْسَ بِثَقَّةٍ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ“۔^۳

ابو الورقاء کا نام فائدہ ہے جو ”لَيْسَ بِثَقَّةٍ“ (کلمہ جرح) اور ”لَيْسَ بِشَيْءٍ“ (کلمہ جرح) ہے۔

۶- امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”سَمِعْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ يَقُولَانِ: فَائِدُ أَبُو الْوَرَقَاءِ لَا يَشْتَغَلُ بِهِ، سَمِعْتُ

أَبِي يَقُولُ: فَائِدُ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ، لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ... وَأَحَادِيثُهُ عَنْ

أَبِي أَوْفَى بَوَاطِيلٌ لَا تَكَادُ تَرَى لَهَا أَصْلًا كَأَنَّهُ لَا يَشِبُّهُ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي

^۱ لے المجروحین لابن حبان: باب الفہام، ۲/۲۰۳، ت: محمود إبراهیم زاید، دار المعرفۃ بیروت۔
^۲ التاریخ الکبیر: باب الفہام، ۴/۲۳، رقم: ۹۹۳۳، ت: مصطفیٰ عبد القادر عطاء، دار الکتب العلمیۃ۔
 بیروت، الطبعة الثانية ۱۳۱۹ھ۔

^۳ الجرح والتعديل: باب الفہام، ۴/۱۱۱، رقم: ۱۲۰۲۰، ت: مصطفیٰ عبد القادر عطاء، دار الکتب العلمیۃ۔ بیروت، الطبعة الأولى ۱۳۲۲ھ۔

أوفى، ولو أن رجلاً خلف أن عامة حديثه كذب لم يحنت“۔^۱ لہ
میں نے اپنے والد (ابو حاتم رحمہ اللہ) اور ابو زرعہ رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ: ”لَا يَسْتَعْلَبُ بِهِ“ (کلمہ جرح) عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے
اپنے والد سے سنا: فائدہ ”ذاهب الحديث“ (کلمہ جرح) ہے، ان سے احادیث نہ
لکھی جائے..... اور فائدہ کی ابن ابی اوفی رحمہ اللہ سے منقول احادیث باطل ہیں، قریب
نہیں ہے کہ آپ کو ان احادیث کی کوئی اصل دکھائی دے، گویا کہ فائدہ کی عبد اللہ بن
ابی اوفی رحمہ اللہ سے منقول احادیث، عبد اللہ بن ابی اوفی رحمہ اللہ کی احادیث کے مشابہ نہیں
ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فائدہ کی اکثر احادیث جھوٹی ہیں تو وہ حاشا نہیں ہوگا۔

۷۔ حافظ عقیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ إِبرَاهِيمَ، سَأَلْتُهُ عَنْ
حَدِيثٍ لِفَائِدِ أَبِي الْوَرَقَاءِ فَقَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ، وَجَارِيَتُهُ تَضْرِبُ بَيْنَ
يَدَيْهِ بِالْعُودِ، قُلْتُ لِيَحْيَى: فَلِمَ كَتَبْتَ عَنْهُ؟ قَالَ: لِمَ كَتَبَ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ“۔^۲

محمد بن ایوب نے ہمیں بیان کیا ہے کہ میں نے مسلم بن ابراہیم کو سنا، اور ان
سے فائدہ ابو الوراق کی احادیث کے بارے میں پوچھا، تو مسلم نے بتایا کہ میں فائدہ
ابو الوراق کے پاس گیا، تو دیکھا کہ اس کے سامنے ان کی باندی سارنگی بجا رہی تھی، محمد
بن ایوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یحییٰ سے کہا (میرا گمان ہے کہ یہ لفظ مسلم ہے،
آزرقم الحروف، واللہ اعلم) آپ نے پھر ان سے روایتیں کیوں لکھی ہیں؟ تو انھوں
نے کہا کہ حماد بن سلمہ نے ان سے کیوں روایتیں نقل کی ہے؟۔

۱۔ الجرح والتعديل: باب الفاء، ۴/۱۱۱، رقم: ۱۲۰۲۰، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الکتب
العلمیۃ بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۲ھ۔

۲۔ الضعفاء الکبیر: فائدہ بن عبد الرحمن، ۳/۳۶۰، رقم: ۱۵۱۶، ت: الدكتور عبد المعطي، دار الکتب
العلمیۃ بیروت۔

۸- حاکم نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”یُرْوٰی عن ابن ابی اوفیٰ أحادیث موضوعة، روی عنه عیسیٰ بن یونس وغیرہ“۔^۱

ابن ابی اوفیٰ سے فائدہ من گھڑت روایتیں نقل کرتا تھا، فائدہ سے عیسیٰ بن یونس وغیرہ نے احادیث نقل کی ہے۔

۹- حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”وهو مع ضَعْفِهِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ“۔^۲

فائدہ کی احادیث ان کے ضعیف ہونے کے باوجود لکھی جائیں گی۔

۱۰- حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”متروک اَتَّهَمُوْهُ“۔ فائدہ ”متروک“ (شدید جرح) ہے، محدثین نے فائدہ کو مستہتم قرار دیا ہے۔^۳

۱۱- حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ترکوه“۔ محدثین نے فائدہ کو ”ترک“ (شدید جرح) کیا ہے۔^۴

ائمہ رجال کے اقوال کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم:

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ، حاکم نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ،

لہ المدخل إلى الصحيح: ۱۸۳، رقم: ۱۵۵، ت: د۔ ربيع هادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ۱۴۰۳ھ۔

لہ الكامل في الضعفاء: ۷۱۳، رقم: ۱۵۷۲، الشیخ عادل والشیخ علی محقق، دار الکتب العلمیة۔ بیروت، الطبعة الأولى، ۱۴۱۸ھ۔

لہ التقریب: ص: ۴۴۴، رقم: ۵۳۷۳، ت: شیخ محمد عوامة، دار الرشید۔ سوریا، الطبعة الرابعة، ۱۴۱۸ھ۔

لہ الکاشف: ۳۷۸/۲، رقم: ۴۵۰۳، عزت علی عید عطیة وموسیٰ محمد علی الموشی، دار الکتب الحدیثیة۔ القاهرة، الطبعة الأولى، ۱۳۹۲ھ۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ، ان سب محدثین کرام نے فائد بن عبد الرحمن کے بارے میں جرح کے شدید فنی الفاظ استعمال کیے ہیں، مثلاً:

ابن ابی اوفی سے فائد من گھڑت روایتیں نقل کرتا تھا (حاکم رحمہ اللہ)۔

فائد ”متروک“ (شدید کلمہ جرح) ہے، محدثین نے فائد کو متہم قرار دیا ہے (امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ)۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فائد کی اکثر احادیث جھوٹی ہیں تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ (ابو حاتم رحمہ اللہ)
فائد بن عبد الرحمن ”منکر الحدیث“ ہے (امام بخاری رحمہ اللہ یہ جملہ اکثر شدید جرح کے لئے استعمال کرتے ہیں)۔

ان کے علاوہ دیگر محدثین کرام نے بھی فائد کی تضعیف کی ہے، بہر حال ان نامور محدثین کے اقوال کی روشنی میں یہ کہا جائے گا کہ فائد بن عبد الرحمن کی یہ روایت اس خاص تناظر میں کہ فائد جیسا راوی اس روایت کے نقل کرنے میں متفرد ہے، کسی بھی صورت میں ضعف شدید سے خالی نہیں رہ سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ بیہقی رحمہ اللہ، علامہ بوسیری رحمہ اللہ، علامہ شوکانی رحمہ اللہ ان سب محدثین کرام نے فائد بن عبد الرحمن کی وجہ سے اس روایت کو ساقط الاعتبار کہا ہے، جیسا کہ روایت کہ بارے میں ائمہ کے اقوال کے تحت تفصیل آچکی ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک ضعیف روایت کو فضائل کے باب میں بیان کرنا جائز ہے، البتہ اس جواز میں بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ ضعیف روایت ضعف شدید سے خالی ہو، جس کی تفصیل ماقبل میں گذر چکی ہے، اور یہ روایت ائمہ کرام کی تصریحات کے مطابق، فائد بن عبد الرحمن کی وجہ سے اس خاص تناظر میں کہ فائد کے علاوہ کوئی دوسرا راوی اس کو نقل کرنے والا نہیں ہو، شدید ضعیف ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس روایت کو منسوب کرنا جائز نہیں ہے واللہ اعلم۔

پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ زیر بحث روایت کا ایک ناقص اور غیر معتبر شاہد بھی ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کے علاوہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے، ذیل میں اس شاہد (روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ) کی سند پر کلام اور آخر میں اس کا فنی حکم لکھا جائے گا۔

زیر بحث روایت کا شاہد:

فقہ ابو الیث سمرقندی رحمہ اللہ (۳۷۳ھ) نے ”تنبیہ الغافلین“ ۱۷ میں زیر بحث روایت کا ایک شاہد ذکر کیا ہے، یعنی یہی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، جو انتہائی مفصل ہے، لیکن اس روایت کی سند ناقص ہے، کیونکہ اس روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے ابان روایت کرتے ہیں، اور ابان کے بعد سند مذکور نہیں، نیز ابان سے مراد ابان بن ابی عیاش ہے۔

ابان بن ابی عیاش فیروز کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال:

علامہ شعیب بن حرب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

سمعتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: لَأَنْ أَشْرَبَ مِنْ بَوْلِ حِمَارٍ حَتَّى أُرْوِيَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ أَبِي عِيَاشٍ - ۱۷

میں نے شعبہ رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: میں ابان بن ابی عیاش سے روایت نقل کروں، مجھے اس سے زیادہ یہ پسند ہے کہ خوب سیراب ہو کر گدھے کا پیشاب پیوں۔

علامہ ابن ادریس رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قُلْتُ لَشُعْبَةَ: حَدَّثَنِي مَهْدِي بْنُ مِيمُونٍ، عَنْ سَلَمِ الْعُلُوِي قَالَ: رَأَيْتُ أَبَانَ بْنَ أَبِي عِيَاشٍ يَكْثُبُ عَنْ أَنَسٍ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ شُعْبَةُ: سَلَّمَ يَرَى

۱۷ تنبیہ الغافلین: باب حق الوالدین، ۵۸، إشاعت اسلام کتب خانہ محلہ جنگی پشاور۔
۱۸ میزان الاعتدال: ۱/۱۰، رقم: ۱۵، ت: علی محمد البجاوی، دار المعرفۃ بیروت۔

الہ لآلَ قَبْلَ النَّاسِ بَلِّغْتَيْنِ۔ ۱۷

میں نے شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہا: مجھے مہدی بن میمون نے سلم علوی سے نقل کیا، سلم فرماتے ہیں کہ میں نے ابان بن ابی عیاش کورات کے وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے احادیث لکھتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کے جواب میں شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا: سلم تو چاند بھی لوگوں سے دودن پہلے دیکھ لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابان ”متروک الحدیث“ (شدید جرح) ہے۔ ۱۸

امام یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ نے ابان کو ”متروک“ (شدید جرح) کہا ہے، اور ایک موقع پر ”ضعیف“ کہا ہے۔ ۱۹ امام ابواسحاق جُوْرَقَانِی رضی اللہ عنہ نے ابان کو ”ساقط“ (کلمہ جرح)، اور نسائی رضی اللہ عنہ نے ”متروک“ (شدید جرح) کہا ہے۔ ۲۰

حافظ ابن حِبَّان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”کان أَبَانٌ مِنَ الْعِبَادِ الَّذِي يَشْهَرُ اللَّيْلَ بِالْقِيَامِ، وَيَطُورِي النَّهَارَ بِالصِّيَامِ، سَمِعَ عَنْ أَنَسٍ أَحَادِيثَ، وَجَالَسَ الْحَسَنَ، فَكَانَ يَسْمَعُ كَلَامَهُ، وَيَحْفَظُ، فَإِذَا حَدَّثَ زُمَا جَعَلَ كَلَامَ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعاً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ...“۔ ۲۱

”ابان اُن عبادت گزار لوگوں میں تھا، جو رات نماز میں، اور دن روزے میں بسر کرتا تھا، ابان حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیثیں نقل کرتا اور حضرت حسن کے پاس بیٹھا بھی کرتا تھا، اور حسن رضی اللہ عنہ کا کلام سنتا، اسے یاد کرتا، پھر بیان کرتے ہوئے لا علمی میں حسن کے کلام کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کا کلام کر کے

۱۷ المصدر السابق۔

۱۸ المصدر السابق۔

۱۹ المصدر السابق۔

۲۰ المصدر السابق۔

۲۱ المصدر السابق۔

مرفوعاً (یعنی آپ ﷺ کا قول) بیان کر دیتا تھا.....“

حافظ ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: أَرَجَوَّاهُ لَا يَتَعَمَّدُ الْكِذْبَ...“۔ ۱۷

مجھے یہ امید ہے کہ ابان، جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا تھا.....“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابان کو ”متروک“ (شدید جرح) کہا ہے۔ ۱۸

حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابان ”متروک“ (شدید جرح) ہے، امام ابو

داؤد رحمہ اللہ (سليمان بن أشعث سجستاني) نے ابان کی روایت مقروناً (دوسری

سند کے ساتھ ملا کر) بیان کی ہے۔ ۱۹

ائمہ کے کلام کا خلاصہ اور مذکورہ شاہد کا فنی حکم:

ابان کے بارے میں ائمہ کے اقوال کا آپ نے مشاہدہ فرمایا، حاصل یہ رہا کہ امام شعبہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام جؤزقانی رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، امام سبکی بن معین رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، ان سب ائمہ رجال نے ابان کے بارے میں فنی جرح کے شدید جملے فرمائے ہیں، اسی طرح حافظ ابن حبان رحمہ اللہ اور حافظ ابن عدی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے کہ ابان سے جھوٹ ثابت ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ ”تنبیہ الغافلین“ کی اس روایت میں ابان بن ابی عیاش کے بعد سند ہی موجود نہیں، چنانچہ یہ روایت درحقیقت سنداً ثابت ہی نہیں ہے، بہر حال ابان بن ابی عیاش پر مشتمل یہ روایت کسی بھی طرح زیر بحث روایت کے لئے شاہد نہیں بن سکتی۔


۱۷ المصدر السابق۔

۱۸ التقریب: ص، ۸۷، رقم: ۱۳۲، ت: محمد عزام، دار الرشید، سوریا، الطبعة الرابعة ۱۳۱۸ھ۔

۱۹ الکاشف: ۱/ ۷۵، رقم: ۱۰۹، عزت علی عبد عطیة و موسی محمد علی الموشی، دار الکتب الحدیثیة۔ القاهرة، الطبعة الأولى ۱۳۹۲ھ۔

روایت کی پوری تحقیق کا خلاصہ اور فنی حکم:

آپ سابقہ تفصیل سے جان چکے ہیں کہ علماء کی تصریح کے مطابق، زیر بحث روایت ”ضعف شدید“ پر مشتمل ہے، اور ”تنبیہ الغافلین“ میں موجود شاہد خود ہی درجہ اعتبار سے ساقط اور ناقابل التفات ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق جمہور علماء کے نزدیک ضعیف روایت کو فضائل کے باب میں بیان کرنا جائز ہے، البتہ اس جواز میں بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ ضعیف روایت ضعف شدید سے خالی ہو، جیسا کہ تحقیق کی ابتداء میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اس لئے آپ رحمہم اللہ کے انتساب سے مذکورہ روایت کو بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ رحمہم اللہ کی جانب صرف ایسا کلام منسوب ہو سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو واللہ تعالیٰ اعلم۔



روایت نمبر: (۲)

قصہ گوئی انسانی تاریخ کی قدیم روایت ہے، جس میں قصہ خواں اپنی ملتے سازی کے جوہر دکھا کر لوگوں کے دلوں موم کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے جذبات برا بیچنے کرنے کے لئے کچھ قصہ گو من گھڑت واقعات سنا کر لوگوں سے داتحسین وصول کرتا ہے۔ اس فعل کی شاعت اگرچہ فطری ہے، مگر اسلام اپنے خاص تحفظات کی بنا پر اس کی شدید مذمت کرتا ہے، چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ ارشاد ہے:

”لم یکن القصص فی زمن رسول اللہ ﷺ ولا زمن أبی بکر ولا زمن عمر“۔ لہ

”رسول اللہ ﷺ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قصہ گوئی نہیں تھی (یعنی ایسی قصہ گوئی جو غیر ثابت و غیر شرعی امور پر مشتمل ہو)۔“

زیر بحث تبصرے کا پس منظر چار صفحات پر مشتمل ایک اشاعتی مضمون ہے، جو گزشتہ ایام میں نظر سے گزرا، اس میں انتہائی پرسوز انداز میں ایک قصہ پیش کیا گیا تھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو ثممہ عبد الرحمان نے نیکہ یہودی کے پاس شراب پی لی تھی، اور پھر باغ بنی نجار میں ایک عورت سے زنا کیا، پھر اس عورت نے ولد الزنا کو بھی جنم دیا اور بچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئی، بعد ازاں ابو ثممہ نے بھی زنا کا اقرار کر لیا، جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر اُفح نامی غلام نے حد نافذ کی اور سو کوڑے لگائے، آخر کار ابو ثممہ کا دم نکل گیا۔ چالیس دن بعد حضرت حدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ

نے خواب میں حضور انور ﷺ کی اس حال میں زیارت کی کہ ابو شحمہ بھی سبز پوشاک پہنے حضور ﷺ کے ساتھ کھڑے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اقامتِ حد کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تحسین کی اور ابو شحمہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائیہ کلمات کہے۔ آئندہ سطور میں ہم فنِ اصول حدیث اور ائمہ حدیث کے اقوال کی روشنی میں اس قصہ کا جائزہ لیں گے، پھر صحیح روایت کی تعیین کریں گے، ان شاء اللہ۔

عنوانِ قصہ:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے ابو شحمہ کو بطور حد کوڑے لگانا۔
تحقیق کا اجمالی خاکہ:

واضح رہے کہ زیر بحث روایت کی تحقیق چار بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے:

۱- روایت اور اس کے مصادرِ اصلہ

۲- روایت پر ائمہ حدیث کا کلام

۳- صحیح واقعہ کی تعیین

۴- اہم نتائج

ابو شحمہ عبدالرحمن بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف:

واضح رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عبدالرحمن نامی تین بیٹے تھے۔ زیر بحث قصہ، عبدالرحمن الأوسط ابو شحمہ کی طرف منسوب ہے۔

حافظ ابن کثیر (المتوفی ۷۴۷ھ) ”البدایہ والنہایہ“ لے میں لکھتے ہیں:

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لُھیّہ نامی خاتون سے نکاح کیا، عبدالرحمن الأوسط ابو شحمہ ایک قول کے مطابق انھیں کے بطن سے پیدا ہوئے، البتہ علامہ واقدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لُہیّہ ام ولد تھی، بیوی نہیں تھی۔“

روایت کے مصادرِ اصلیہ اور مراجع:

مذکورہ قصہ کو حسین بن ابراہیم جوز قانی رحمہ اللہ (المتوفی ۵۴۳ھ) نے ”الأباطیل والمناکیر“ میں اور ابوالعباس محب الدین الطبری رحمہ اللہ (المتوفی ۶۹۴ھ) نے ”الریاض النضرۃ“ ۱۷ میں بلا سند نقل کیا ہے، البتہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ (المتوفی ۵۹۷ھ) نے ”الموضوعات“ میں شیرازی کی مکمل سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے، نیز شیرازی کے علاوہ دو اور مزید سندیں بھی ذکر کی ہیں، جن میں یہی روایت مختصراً مذکور ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ (۹۱۱ھ) نے ”الدلائل المصنوعة“ میں یہ تینوں طریق نقل کیے ہیں۔

۱۔ پہلی سند..... حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ ”کتاب الموضوعات“ میں لکھتے ہیں:

”حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ طَاهِرٍ، أَنبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ صَالِحٍ فِي كِتَابِهِ، أَنبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قِرَاءَةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُبَيْدٍ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَشْرُوقٍ قَالَ: كَانَتْ امْرَأَةٌ تَدْخُلُ عَلَى آلِ عُمَرَ أَوْ مَنَزَلِ عُمَرَ وَمَعَهَا صَبِيٌّ...“ ۱۷

اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک بچہ لائی اور کہا کہ آپ کے بیٹے ابو ثممہ نے مجھ سے زنا کیا ہے اور یہ بچہ ان کی اولاد ہے۔ ابو ثممہ نے بھی زنا کا اقرار کر لیا، جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ثممہ پر حد نافذ کی، جس میں ۵۰ کوڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ۵۰ کوڑے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مازے۔

۱۷ الریاض النضرۃ فی مناقب العشرۃ: ۱۷۲، تذکرہ شذذہ فی دین اللہ و غلطہ علی من عصی اللہ، مکتبہ محمد نجیب الخانجی، مطبعۃ دار التالیف و من الکتاب الکبری، الطبعة الثانیة ۱۳۷۲ھ۔

۱۸ الموضوعات: کتاب المستشع من الموضوع علی الصحابة رضی اللہ عنہم باب ما روی أن عمر رضی اللہ عنہ جلد ۱، ۱۳/ ۲۷۹، رقم: ۲۶۹، ت: عبد الرحمن محمد جہان، الناشر محمد عبد المحسن صاحب المکتبہ السلفیة بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ۱۳۸۶ھ۔

روایت پر کلام:

۱..... علامہ جوز قانی رحمہ اللہ نے اسے باطل قرار دیا ہے۔ لہ

۲..... علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ روایت کے بعد لکھتے ہیں:

”هذا وَضَعَهُ الْقَضَّاصُ وَقَدْ أَبْدَوْا فِيهِ وَأَعَادُوا وَقَدْ شَرَحُوا وَأَطَالُوا“۔ ۱

یہ من گھڑت موضوع روایت ہے، جسے قصہ گوؤں نے گھڑ رکھا ہے، اور قصہ گو اپنی طرف سے اس میں باتیں بناتے، اضافے کرتے، اور خوب شرح و بسط سے اسے بیان کرتے رہے ہیں۔

۳..... حافظ ذہبی رحمہ اللہ ”تلخیص الموضوعات“ میں لکھتے ہیں:

”هذا وَضَعَهُ الْقَضَّاصُ يروي عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق
مُتَقَطْعًا“۔ ۲

یہ قصہ گو کی موضوع روایت ہے.....۔

۴..... علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ رقم طراز ہیں:

”موضوع وَضَعَهُ الْقَضَّاصُ، وفي الإسناد مَنْ هو مجهول وسعيد بن
مسروق من أصحاب الأعمش، فأين هو وحمزة“ [وہو تصحيف
والصحيح عمر]۔ ۳

یہ من گھڑت روایت ہے، اسے قصہ گو نے بنایا ہے، نیز سند میں مجہول راوی

لہ الأباطيل والمناكير والصباح والمشاير: ۱۸۳/۲، رقم: ۵۷۶، الناشر: إدارة المبعوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية بنارس، الطبعة الأولى ۱۴۰۳ھ۔

۱۔ الموضوعات: كتاب المستبشع من الموضوع على الصحابة رحمہم اللہ باب ما روي أن عمر رضي اللہ عنہ جلد ۱ بنا لہ حتى مات، ۲۷۵/۳، رقم: ۲۶۹، عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ۱۳۸۶ھ۔

۲۔ تلخیص الموضوعات: والمستبشع من الموضوع من الصحابة رحمہم اللہ، ۳۵۸، رقم: ۹۸۰، ت: أبو تميم ياسر، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۰ھ۔

۳۔ اللآلئ المصنوعة: ۱۹۳/۲، كتاب الأحكام والحدود، المكتبة الحسينية المصرية بالازهر، الطبعة الأولى۔

ہیں اور سعید بن مسروق اعمش کے ساتھیوں میں ہے، وہ کہاں اور حمزہ [یہ لفظ مصحف ہے، صحیح عمر ہے، از راقم الحروف] کہاں یعنی ان کا لقا (ملاقات) ثابت نہیں ہے۔

۲- دوسری سند... ”حَدَّثَنَا عَنْ هَارُونَ بْنِ طَاهِرٍ، أَنبَأَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّازِيُّ إِثْلَاءً، حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ الْمُرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ التَّيْمِيِّ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنِي عَبْدِ الْعَزِيزُ بْنُ الْحِجَّاجِ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ - هَكَذَا قَالَ - وَهُوَ عِنْدَ عَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ الْحِجَّاجِ، حَدَّثَنِي صَفْوَانٌ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: عَبْدُ اللَّهِ وَالْآخَرُ عُيَيْدُ اللَّهِ وَكَانَ يُكْنَى أَبَا شُحْمَةَ...“۔^۱

اس روایت میں یہ مضمون ہے کہ ابو شحمہ نے نسیکہ یہودی کی مجلس میں نیز پی، پھر بنی نجار کے ایک باغ میں ایک عورت سے زنا کیا۔

روایت پر کلام:

۱..... علامہ جوز قانی رحمہ اللہ نے اسے باطل قرار دیا ہے۔^۲

۲..... علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اس روایت کے بعد لکھتے ہیں:

”فإنَّ عبدَ القُدُّوسِ كَذَّابٌ قال ابنُ جَبَّانٍ رحمہ اللہ: كان يضع الحديث على الثقات لا يحلُّ كتب حديثه“۔^۳

۱۔ الموضوعات: كتاب المستبشع من الموضوع على الصحابة رحمہم اللہ باب ما روي أنَّ عمر رضي اللہ عنہ جلد ۱ ابتداءً له حتى مات ۲۵۵/۳، رقم: ۲۷۹، عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ۱۳۸۶ھ۔

۲۔ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: ۱۸۳/۲، رقم: ۵۷۶، الناشر، إدارة المبعوث الاسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية بنارس، الطبعة الأولى ۱۴۰۳ھ۔

۳۔ الموضوعات: كتاب المستبشع من الموضوع على الصحابة رحمہم اللہ باب ما روي أنَّ عمر رضي اللہ عنہ جلد ۱ ابتداءً له حتى مات ۲۵۵/۳، رقم: ۲۷۹، عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ۱۳۸۶ھ۔

بلاشبہ (اس سند میں مذکور) عبد القدوس کذاب ہے، ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عبد القدوس ثقات پر حدیثیں گھڑتا تھا، ان کی احادیث لکھنا جائز نہیں ہے۔
۳..... حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ ”تلخیص کتاب الموضوعات“ میں لکھتے ہیں:
”وَضَعَهُ الْجَهْلَةُ، لِیَبْکِیَ الْعَوَامُ وَالنِّسَاءُ“۔^۱

جاہلوں نے اسے وضع کیا ہے؛ تاکہ مرد و زن کو آبدیدہ کیا جائے۔
۴..... علامہ سیوطی رحمہ اللہ ”اللائی المصنوعة“ میں فرماتے ہیں۔
”عبد القدوس کذاب یَضَعُ وصفوان بینہ و بین عمر رحمہ اللہ جال“۔^۲
عبد القدوس کذاب ہے، روایتیں گھڑتا ہے، اور صفوان اور عمر رحمہ اللہ کے مابین رجال ہیں، یعنی سند میں انقطاع ہے۔

۳۔ تیسری سند..... ”حَدَّثْتُ عَنْ شَيْثُورِيَهْ بْنِ شَهْرِيَارِ الْحَافِظِ [كَذَا فِي الْأَصْلِ]، أَنبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ بَكِيرِ الْفَقِيهِ، أَنبَأَنَا أَبُو بَكْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ النَّيْسَابُورِي، أَنبَأَنَا أَبُو سَعْدِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي عَثْمَانَ الزَّاهِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ بَابُوِيَه الصَّرْفِي، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيْسَى، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ عَنْ شَيْبَلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: تَذَاكَرَ النَّاسُ فِي مَجْلِسِ ابْنِ عَبَّاسٍ رحمہ اللہ فَأَخَذُوا فِي فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ...“۔^۳

یہ روایت مفصل ہے، جسے قصہ گو کے انداز میں انتہائی ملمع سازی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اسی کا ترجمہ کر کے تشہیر کی گئی تھی جیسا کہ ماقبل میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

۱۔ تلخیص الموضوعات: المستبشع من الموضوع من الصحابة، ۳۵۸، رقم: ۹۸۰، ت: أبو تميم ياسر، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۰ھ۔

۲۔ اللائی المصنوعة: ۱۹۴/۲، كتاب الأحكام والحدود، المكتبة الحسينية المصرية بالأزهر، الطبعة الأولى۔

۳۔ الموضوعات: كتاب المستبشع من الموضوع على الصحابة رحمہم اللہ باب ما روي أن عمر رحمہ اللہ جلد ۱، بنا له حتى مات ۲۷۵/۳، رقم: ۲۶۹، ت: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ۱۳۸۶ھ۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو شحمہ نے نُسَیْکَہ یہودی کے پاس شراب پی کر باغ بنی نجار میں ایک عورت سے زنا کیا، پھر اس عورت نے اس زنا کے نتیجے میں ایک بچے کو جنم دیا، عورت بچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آ گئی، اور ابو شحمہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے زنا کا اقرار کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر اُفْلَح نامی غلام نے حد نافذ کی اور سو کوڑے لگائے، آخر کار ابو شحمہ کا دم نکل گیا۔ چالیس دن بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے خواب میں حضور انور ﷺ کی اس حالت میں زیارت کی کہ ابو شحمہ سبز پوشاک پہنے حضور ﷺ کے ساتھ کھڑے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اقامت حد کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تحسین کی، اور ابو شحمہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے کلمات کہے۔

روایت پر کلام:

۱..... علامہ جو ز قانی رحمہ اللہ نے اسے باطل قرار دیا ہے۔ ۱

۲..... علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اس روایت کے بعد لکھتے ہیں:

”فیہ مجاہیل، قال الذَّارِ قُطْنِي: حَدِثَ مُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِّ

أَبِي شَحْمَةَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ“۔ ۲

دار قُطْنِي رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ابو شحمہ کی حد کے بارے میں مجاہد رحمہ اللہ کی وہ

حدیث جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح نہیں ہے۔

۳..... علامہ سیوطی رحمہ اللہ ”اللائلی المصنوعة“ میں فرماتے ہیں۔

”موضوع فیہ مجاہیل“۔ ۳

لے الأباطیل والمناکیر والصّاح والمشاہیر: ۱۸۳/۲، رقم: ۵۷۶، الناشر، إدارة المبعوث الإسلامیة والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية بنارس، الطبعة الأولى ۱۴۰۳ھ۔

لے الموضوعات: کتاب المستبشع من الموضوع علی الصحابة، باب ما روي أن عمر رضی اللہ عنہ جلد ابن آله حتی مات، ۲۷۵/۳، رقم: ۲۶۹، عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر محمد عبد المحسن صاحب المکبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ۱۳۸۶ھ۔

لے اللائلی المصنوعة: ۱۹۳/۲، کتاب الأحكام والحدود، المکبة الحسينية المصرية بالازهر، الطبعة الأولى۔

یہ روایت موضوع ہے، اس میں مجہول راوی ہیں۔

۴..... حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ ”تلخیص کتاب الموضوعات“ میں لکھتے ہیں۔
 ”قال الذَّارِ قُطْنِي: حديث مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيحد أبي
 شحمة ليس بصحيح“۔^۱

دار قُطْنِي رحمہ اللہ نے کہا: ابو شحمة کی حد کے بارے میں مجاہد رحمہ اللہ کی حدیث جو ابن
 عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، صحیح نہیں ہے۔

۵..... حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ”الإصابة في تمييز الصحابة“ میں رقمطراز ہیں:

”جاء في خبر رواه أن أباه جلدته فمات، ذكره الجوزقاني“۔^۲
 ایک وہی خبر میں ہے کہ ابو شحمة کو ان کے والد نے کوڑے مارے تھے، جس
 سے ان کا انتقال ہو گیا، اسے جوزقانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔

نتائج:

ان تینوں طرق کے بارے میں ائمہ حدیث کے سابقہ اقوال کا خلاصہ یہ رہا کہ
 علامہ حسین بن ابراہیم جوزقانی رحمہ اللہ نے ”الأباطيل والمناكير“ میں اس واقعہ کو
 جعلی، باطل اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ علامہ جوزقانی کے بعد حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ
 نے ”الموضوعات“ میں، حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے ”تلخیص
 الموضوعات“ میں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”الإصابة في تمييز الصحابة“ میں،
 اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ”اللائي المصنوعة“ میں، ان سب محدثین
 نے علامہ جوزقانی رحمہ اللہ کی موافقت کی ہے اور اس واقعہ کو من گھڑت کہا ہے۔

^۱ تلخیص الموضوعات: والمستبشع من الموضوع من الصحابة، ۳۵۸، رقم: ۹۸۰، ت: أبو تمیم
 یاسر، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۰ھ۔

^۲ الإصابة في تمييز الصحابة: حرف الشين، القسم الثاني، أبو شحمة، ۱۰۱/۳، رقم: ۶۲۳، دار الكتب
 العلمية، بيروت۔

علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ:

سابقہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ابو ثممہ عبد الرحمان بن عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کی طرف منسوب مذکورہ قصہ باطل، موضوع اور من گھڑت ہیں، چنانچہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تینوں روایتوں پر تفصیلی کلام کے بعد لکھتے ہیں:

”وَضَعَهُ الْجُهَّالُ الْقَضَاصُ؛ لِيَكُونَ سَبِيًّا فِي تَبْكِيَةِ الْعَوَامِ وَالنِّسَاءِ، فَقَدْ أَجْدَعُوا فِيهِ وَأَتَوَابَكُلَّ قَبِيحٍ وَنَسَبُوا إِلَى عُمَرَ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ وَنَسَبُوا لِلصَّحَابَةِ إِلَى مَا لَا يَلِيقُ بِهِمْ، وَكَلِمَاتُهُ الرَّكِيكَةُ تَذُلُّ عَلَى وَضْعِهِ، وَيُغْدَهُ عَنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ يَذُلُّ عَلَى شَوْءٍ فَهَمَّ وَاضَعَهُ وَعَدَمَ فِقْهَهُ“۔ لہ

”یہ واقعہ جاہل قصہ گو نے گھڑ رکھا ہے، تاکہ عام لوگوں بالخصوص عورتوں کو آبدیدہ کیا جائے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے نئے نئے طریقے اپنائے، اور ہر قسم کی ناشائستہ باتیں لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دیں، جو انکے شایان شان نہیں اور ایسے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم پر نامناسب باتیں چسپاں کر دیں۔ اس روایت میں موجود رکیک جملے کھل کر بتا رہے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے، اور قصہ کے اندر موجود غیر شرعی پہلوؤں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا گھڑنے والا بد فہم، اور دینی سمجھ سے محروم آدمی تھا۔“

یہاں تک اس بات کی تحقیق لکھی گئی ہے کہ ابو ثممہ کی جانب منسوب سابقہ قصہ باطل ہے، البتہ ذیل میں ابو ثممہ کے واقعی قصے کی تفصیل، مستند تاریخی شواہد کی روشنی میں پیش کی جائے گی، جس سے معلوم ہوگا کہ صحیح واقعہ کیا تھا اور لوگوں نے اس واقعے میں کون کون سی غلط پیوند کاری کر رکھی ہے!

لہ الموضوعات: کتاب المستبشع من الموضوع علی الصحابہ رضی اللہ عنہم باب ما روي أن عمر رضی اللہ عنہ جلد ۱، ۲۷۵/۳، رقم: ۲۶۹، ت: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ۱۳۸۶ھ۔

صحیح واقعہ کی تعیین:

حافظ ابن سعد رحمہ اللہ اور حافظ زبیر بن بکار رحمہ اللہ کی تاریخی روایات: محدث علامہ ابن عزاۃ الکتابی رحمہ اللہ (المتوفی ۹۶۳ھ) نے ”تنزیہ الشریعة“ میں ابو ثممہ کی طرف منسوب من گھڑت روایات کو مسترد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس واقعہ کے بارے میں اصل بات وہ ہے جس کو زبیر بن بکار رحمہ اللہ اور ابن سعد رحمہ اللہ نے ”الطبقات“ میں ذکر کیا ہے:

”والذي ورد في هذا ما ذكره الزبير بن بكار وابن سعد في الطبقات وغيرهما أنّ عبد الرحمن الأوسط من أولادِ عُمَرُ ويكنى أبا شحمة كان بمِصْرَ غازٍ يَأْفَشِرُ لَيْلَةً نَبِيذًا فخرج إلى السكر فجاء إلى عُمَرُ بن العاص رضي الله عنه فقال له: أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ فامتنع فقال له: إِنِّي أَخْبِرُ أَبِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ فَضربه الحد في داره ولم يُخْرِجْهُ فكتب إليه عُمَرُ يَلُومُهُ ويقول: أَلَا فَعَلْتَ بِهِ مَا تَفْعَلُ بِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ - فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، ضربه فَاتَّفَقَ أَنَّهُ مَرِيضٌ فَمَاتَ -“

”عبد الرحمن الأوسط، جن کی کنیت ابو ثممہ ہے، حضرت عمر رضي الله عنه کے بیٹے ہیں۔ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ مصر میں مقیم تھے۔ ایک شب آپ نے نبیذ پی لی، جس کے اثر سے نشہ میں آ گئے، چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضي الله عنه کے پاس آ کر کہا کہ مجھ پر حد نافذ کر دیں، لیکن حضرت عمرو بن العاص رضي الله عنه پس و پیش کرنے لگے (شاید نبیذ کی وجہ سے)۔ (یہ دیکھ کر) ابو ثممہ نے کہا، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں واپس جا کر اپنے والد کو بتا دوں گا، (ان کا اصرار دیکھ کر) حضرت عمرو بن العاص رضي الله عنه نے گھر کے اندر ان پر حد نافذ کر دی، اور

اس کے لیے ان کو باہر نہیں لائے۔ (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر ملامت کی کہ آپ نے ابو ثحمة کے ساتھ وہ معاملہ کیوں نہیں کیا جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ (اس واقعہ کے بعد) پھر جب ابو ثحمة عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ آگئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ (تادیباً) کوڑے لگائے، پھر اس کے بعد ابو ثحمة اتفاقاً بیمار ہو گئے، اور اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔

امام عبدالرزاق رحمہ اللہ کی روایت:

یہ واقعہ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ (المتوفی ۲۱۱ھ) نے بھی اپنی ”مُصَنَّف“ میں اپنی سند کے ساتھ تخریج کر کے لکھا ہے:

”فَلَبِثَ شَهْرًا أَصْحَابُهُمْ أَصَابَهُ قَدْرُهُ فَمَاتَ فَحَسِبَ عَامَةُ النَّاسِ أَنَّ مَاتَ مِنْ جِلْدٍ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَمُتْ مِنْ جِلْدٍ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ“۔

”(ابو ثحمة کوڑے لگنے کے بعد) ایک ماہ تک تندرست رہے، پھر اس کے بعد (بیمار ہو کر) انتقال کر گئے۔ عام لوگ یہ غلط خیال کرنے لگے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کوڑوں سے انتقال کر گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کوڑوں سے ہرگز فوت نہیں ہوئے۔“

حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ کا تبصرہ:

یہی تفصیل حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ (المتوفی ۴۶۳ھ) نے بھی ”الاستیعاب فی معرفة الأصحاب“ میں لکھی ہے، البتہ ”الاستیعاب“ میں یہ اضافہ بھی ہے:

”...وأما أهل العراق فيقولون: إنَّه مات تحت سياطِ عمرٍ وذلك غلطٌ“۔ ۱

”..... اور عراقیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ابو شحمہ کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کوڑے لگنے کی وجہ سے ہوا ہے، حالاں کہ یہ غلط ہے۔“

اہم نتائج:

تذریۃ الشریعہ، مصنف عبدالرزاق رحمہ اللہ، اور استیعاب میں جن حقائق کو بیان کیا گیا ہے، ان سے دو بنیادی نتائج حاصل ہوتے ہیں:

۱..... ابو شحمہ عبدالرحمان کو ابتداء نبیذ نوشی کی وجہ سے کوڑے مارے گئے تھے، البتہ زنا کو ابو شحمہ کی طرف منسوب کرنا باطل اور من گھڑت ہے۔

۲..... مصر میں حد نافذ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں ابو شحمہ کو دوبارہ کوڑے تادیباً مارے تھے، اور ابو شحمہ کا انتقال اس حد کے بعد کوڑے کھانے سے نہیں ہوا، بلکہ ان کا انتقال عام طبیعی موت سے ہوا ہے؛ چنانچہ ”مصنف عبدالرزاق“ کے یہ الفاظ ہمارے قول کی دلیل ہے: ”فَلَبِثَ شَهْرًا صَحِيحًا ثُمَّ أَصَابَهُ قَذْرُهُ فَمَاتَ...“ یعنی (ابو شحمہ کوڑے لگنے کے بعد) ایک ماہ تک تندرست رہے پھر اس کے بعد (بیمار ہو کر) انتقال کر گئے، البتہ عراق میں یہ مشہور ہو گیا کہ ابو شحمہ کا انتقال کوڑے لگنے کی وجہ سے ہوا ہے، حالاں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔


یہی اس تاریخی واقعے کی حقیقت ہے، اس کے علاوہ دیگر پیوند کاری کا اسلامی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن قصہ گو لوگوں کو موقع ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے سابقہ طویل من گھڑت حکایت اس واقعہ پر چسپاں کر دیں۔

تحقیق کا خلاصہ:

آخر میں ہم علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی ایک عبارت پیش کرتے ہیں، جو اس پورے مضمون کا خلاصہ اور قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے:

”وَلَيْسَ بِعَجَبٍ أَنْ يَكُونَ شَرِبَ النَّبِيذِ مَتَأُولًا فَسَكِرَ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ، وَإِنَّمَا - لِمَا قَدِمَ عَلَى عَمْرٍ - ضَرَبَهُ ضَرْبٌ تَادِيْبٍ لَا ضَرْبٌ حَدٍّ، فَمَرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ، لَا مِنْ الضَّرْبِ وَمَاتَ - فَلَقَدْ أَبَدُوا فِيهِ الْقَضَاصَ وَأَعَادُوا -“^۱

”اور اس بات کا بھی پورا امکان ہے کہ ابو شحمہ نے نبیز جائز سمجھ کر پی ہو، اور بے اختیار نشہ میں آگئے ہوں، اور ابو شحمہ جب مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹے، تو آپ نے بطور تادیب ان کو کوڑے لگائے نہ کہ حد نافذ کرنے کے لیے، اس کے بعد ابو شحمہ (قضائے الہی سے) بیمار ہو گئے، یہ نہیں کہ کوڑے لگنے سے بیمار ہوئے، اور (اسی طبعی بیماری کے حالت میں) انتقال کر گئے، پھر قصہ گو نے (اپنی طرف سے) باتیں بنا کیں اور وہی اس میں اضافے بھی کرتے رہے۔“



۱۔ الموضوعات: کتاب المستبشع من الموضوع علی الصحابة رضی اللہ عنہم باب ما روي أن عمر رضی اللہ عنہ جلد ۱ بنا
 له حتى مات ۲۷۵/۳، رقم: ۲۶۹؛ عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر محمد عبد المحسن صاحب
 المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ۱۳۸۶ھ۔

روایت نمبر: (۳)

اسلامی تاریخ کا ہر آنے والا دور ایک مضبوط بندھن کے ساتھ عہد رسالت سے جڑا ہوا ہے، اس مبارک ربط کو محدثین کی اصطلاح میں ”اسناد“ کہا جاتا ہے، یہ سند نہ صرف مخبر صادق حضرت محمد ﷺ کے اقوال ہم تک پہنچاتی ہے، بلکہ ان احادیث کو اسی سند کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے امر دین (دینی معاملات) میں ”اسناد“ کا مقام ان لفظوں میں بیان کیا ہے:

”مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ أَمْرَ دِينِهِ بِإِسْنَادٍ، كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّقِي الشَّطْحَ بِلَا سَلَمٍ“۔^۱

جو شخص سند کے بغیر اپنے دین کو تلاش کرنا چاہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سیزھی کے بغیر چھت پر چڑھنے کا خواہشمند ہو۔

یہی وجہ ہے کہ محدثین کرام نے ”اسناد“ کی مضبوط باڑ خیر القرون ہی میں قائم کر لی تھی، تاکہ ذخیرہ احادیث کو خس و خاشاک سے بچایا جاسکے، چنانچہ آپ ﷺ کے انتساب سے صرف ایسی بات کی جاسکتی ہے جو کسی معتبر سند سے ثابت ہو، اسی تناظر میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک دوسرا قول سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے:

”... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَبْرَكٍ يَقُولُ: الْإِسْنَادُ

عِنْدِي مِنَ الدِّينِ، وَلَوْ لَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ: مَا شَاءَ، وَلَكِنْ إِذَا قِيلَ

لَهُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ يَقِي! [سَاكِنًا مَنقُطَعًا مَفْحَمًا] قَالَ عَبْدَانُ: ذَكَرَ-

أَيُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ - هَذَا عِنْدَ ذِكْرِ الزَّنَادِقَةِ وَمَا يَضْعُمُونَ مِنْ

الأحادیث۔“ لہ

”..... حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کے تلمیذ عبدالن بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: میرے نزدیک اسنادین میں سے ہے، اور اگر اسناد نہ ہوتی تو یقیناً ہر شخص جو چاہتا سو کہتا رہتا، لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ تو وہ خاموش، چپ کھڑا ہو جاتا ہے! عبدالن فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ نے یہ قول زنادقہ اور ان کی من گھڑت روایتوں پر گفتگو کے دوران فرمایا تھا۔“

بہر حال اسلاف کے اس منہج کو باقی رکھتے ہوئے، ہر فرد امت کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں حساس رہنے کی ضرورت ہے، اسی مقصود کے پیش نظر ذیل میں ایک ایسی ہی روایت پیش کی جا رہی ہے، جو اگرچہ کسی معتبر سند سے ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود یہ روایت زبان زد عام ہے، حالاں کہ آپ جان چکے ہیں کہ ایسی بے اصل حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا ہرگز جائز نہیں۔

روایت کا عنوان:

ایک بندہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ۲۴ سوالات کرنا۔

تحقیق کا اجمالی خاکہ:

اس روایت کی تحقیق چار بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے:

۱- روایت اور اس کے مصادر اصلہ

۲- سند کی تحقیق

۳- روایت کا فنی حکم

۴- زیر بحث روایت کا ایک غلط انتساب اور اس کا سبب

روایت اور اس کے مصادر:

علامہ علاء الدین علی المتقی الہندی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۹۷۵ھ) ”کنز العمال“ ۱۷ میں لکھتے ہیں:

”قال الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: ”وَجَدْتُ
الشيخ شمس الدين بن القَّمَاح في مجموع له، عن أبي العباس
المُسْتَعْفِرِي قال: قَصَدْتُ مِصْرَ أَرِيدُ طَلَبَ الْعِلْمِ مِنَ الْإِمَامِ أَبِي حَامِدٍ
الْمِصْرِيِّ وَتَمَشَّطْتُ مِنْهُ حَدِيثَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَمْرَنِي بِصَوْمِ سَنَةٍ، ثُمَّ
عَاوَدْتُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَخْبَرَنِي بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَشَايِخِهِ إِلَى خَالِدِ بْنِ
الْوَلِيدِ رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم...“

”علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ شمس الدین ابن
القماح رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ”مجموعہ“ میں یہ روایت ملی، جس میں ابو العباس
مستغفری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مروی تھا کہ میں نے ایک دفعہ علم کی تلاش میں ابو حامد
مصری کے پاس مصر جانے کا ارادہ کیا، وہاں پہنچ کر میں نے ان سے
حدیث خالد بن ولید رضي الله عنه کی التماس کی، انھوں نے مجھے ایک سال
روزے رکھنے کا حکم فرمایا، پھر میں نے اس بارے میں ان سے دوبارہ
گزارش کی، تو انھوں نے اپنے شیخ سے حضرت خالد بن ولید رضي الله عنه تک کی
سند کے ساتھ مجھے یہ حدیث بیان کی:

حضرت خالد بن ولید رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں دنیا و آخرت کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں،

آپ ﷺ نے فرمایا: جو چاہے پوچھو، اس پر وہ شخص کہنے لگا: ”يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَعْلَمَ النَّاسِ“۔ اے اللہ کے نبی! میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اتَّقِ اللَّهَ، تَكُنْ أَعْلَمَ النَّاسِ“۔ اللہ کا خوف اختیار کر لو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ وہ شخص کہنے لگا: ”أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ“۔ میں لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”كُنْ قَنَعًا تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ“۔ قناعت اختیار کرو، لوگوں میں سب سے غنی بن جاؤ گے۔ وہ شخص کہنے لگا: ”أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ خَيْرَ النَّاسِ“۔ میں لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ، فَكُنْ نَافِعًا لَهُمْ“۔ لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو، چنانچہ تو بھی لوگوں کو نفع پہنچانے والا بن جا۔

وہ کہنے لگا: ”أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَعْدَلَ النَّاسِ“۔ میں لوگوں میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”أَحِبِّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ أَعْدَلَ النَّاسِ“۔ جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لئے پسند کر، تو لوگوں میں سب سے بڑا عادل بن جائے گا۔

وہ کہنے لگا: ”أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَخْصَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى“۔ میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”كَثِيرٌ ذَكَرَ اللَّهَ، تَكُنْ أَحْضَرَ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ“۔
 اللہ کا ذکر کثرت سے کر، تو اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ خاص بن جائے گا۔
 وہ کہنے لگا: ”أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ“۔ میں ان لوگوں میں ہونا پسند
 کرتا ہوں، جو احسان والے (صفت احسان کے ساتھ متصف) ہیں۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”أَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ
 يَرَاكَ“۔ اللہ کی عبادت ایسے کر، گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہیں بھی دیکھ
 رہا ہے، تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔
 وہ کہنے لگا: ”أَحِبُّ أَنْ يَكْمُلَ إِيْمَانِي“۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل
 ہو جائے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”حَسِّنْ خَلْقَكَ يَكْمُلْ إِيْمَانُكَ“۔ اپنے اخلاق اچھے
 بنا لے، تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔
 وہ کہنے لگا: ”أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُطِيعِينَ“۔ میں اللہ کے فرماں بردار بندوں
 میں سے بننا چاہتا ہوں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”أَذِفِرْ أَرْضَ اللَّهِ تَكُنْ مُطِيعاً“۔ اللہ کے فرائض کو بجالاؤ،
 اللہ کے مطیع بن جاؤ گے۔

وہ کہنے لگا: ”أَحِبُّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ نَقِيّاً مِنَ الذُّنُوبِ“۔ میں چاہتا ہوں کہ گناہوں
 سے پاک صاف ہو کر اللہ سے ملوں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”إِغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ مُنْتَظِهُراً، تَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَمَا عَلَيْكَ ذَنْبٌ“۔ غسل جنابت خوب صفائی سے کیا کر، (ایسا کرنے پر) تو روزِ
 قیامت اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

وہ کہنے لگا: ”أَحِبُّ أَنْ أَحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الثُّورِ“۔ میں چاہتا ہوں روزِ

قیامت مجھے نور میں اٹھایا جائے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”لَا تَظْلِمُ أَحَدًا، تُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النُّورِ“۔ کسی پر ظلم مت کر، روزِ قیامت تجھے نور میں اٹھایا جائے گا۔

وہ کہنے لگا: ”أَحِبُّ أَنْ يَرْحَمَنِي رَبِّي“۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمادے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”إِرْحَمْ نَفْسَكَ وَإِرْحَمْ خَلْقَ اللَّهِ، يَرْحَمَكَ اللَّهُ“۔ اپنے آپ پر رحم کھا، اور اللہ کی مخلوق پر رحم کر، اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔

وہ کہنے لگا: ”أَحِبُّ أَنْ تَقِلَّ ذُنُوبِي“۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہو جائیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، تَقِلَّ ذُنُوبُكَ“۔ اللہ سے بخش مانگ، تیرے گناہ کم ہو جائیں گے۔

وہ کہنے لگا: ”أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ“۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے معزز بن جاؤں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”لَا تَشْكُونَ اللَّهَ إِلَى الْخَلْقِ تَكُنْ أَكْرَمَ النَّاسِ“۔ لوگوں کے سامنے اللہ کی شکایت ہرگز مت کر، تو معزز ترین شخص بن جائے گا۔

وہ کہنے لگا: ”أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَجْبَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“۔ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”أَحِبِّ مَا أَحَبَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَابْغُضْ مَا أَبْغَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ“۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہو تو بھی اسے پسند کر، اور اللہ اور اس کے رسول جس چیز سے بغض رکھیں، تو بھی اس سے بغض رکھ۔

وہ کہنے لگا: ”أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ آمِنًا مِنْ مَسْخَطِ اللَّهِ“۔ میں اللہ کی ناراضگی سے مامون رہنا چاہتا ہوں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”لَا تَغْضَبْ عَلَى أَحَدٍ، تَأْمَنُ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ۔“ کسی پر غصہ مت ہو، تو اللہ کے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رہے گا۔

وہ کہنے لگا: ”أَحِبُّ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتِي۔“ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اجْتَنِبِ الْحَرَامَ، تُسْتَجَبْ دَعْوَتُكَ۔“ حرام سے پرہیز کر، مستجاب الدعوات بن جائے گا۔

وہ کہنے لگا: ”أَحِبُّ لَا يُفْضَحْنِي اللَّهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ۔“ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گواہوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”احْفَظْ فَرْجَكَ كَيْلَا تُفْتَضَّحَ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ۔“ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، تاکہ تو گواہوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔

وہ کہنے لگا: ”أَحِبُّ أَنْ يَشْتُرَ اللَّهُ عَلَيَّ غُيُوبِي۔“ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اشْتُرْ غُيُوبَ إِخْوَانِكَ، يَشْتُرَ اللَّهُ عَلَيْكَ غُيُوبَكَ۔“ اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈال، اللہ تیرے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔

وہ کہنے لگا: ”مَا الَّذِي يَمْحُو عَنِّي الْخَطَايَا؟“۔ کون سی چیز میرے گناہوں کو مٹانے والی ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”الدُّمُوعُ وَالْخُضُوعُ وَالْأَمْرَاضُ۔“ آنسو اور عاجزی اور بیماریاں۔ وہ کہنے لگا: ”أَيُّ حَسَنَةٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ؟“۔ اللہ کے نزدیک کون سی نیکی سب سے افضل ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”حُسْنُ الْخُلُقِ وَالتَّوَاضُّعُ وَالصَّبْرُ عَلَى الْبَلَاءِ وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ۔“ اچھے اخلاق، تواضع، مصیبت پر صبر اور اللہ کے فیصلے پر رضا مندی۔

وہ کہنے لگا: ”أَيُّ سَيِّئَةٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟“۔ اللہ کے نزدیک کون سی برائی سب سے بڑی ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا، ”سُوءُ الْخُلُقِ وَالشَّحُّ الْمُطَاعُ“۔ بد اخلاقی اور وہ بخل جس کی اطاعت کی گئی ہو۔

وہ کہنے لگا، ”مَا الَّذِي يَسْكُنُ غَضَبَ الرَّحْمَنِ؟“۔ رحمن کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز کیا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”إِخْفَاءُ الصَّدَقَةِ وَصَلَةُ الرَّحِمِ“۔ چھپ کر صدقہ کرنا اور صلہ رحمی۔

وہ کہنے لگا: ”مَا الَّذِي يُطْفِئُ نَارَ جَهَنَّمَ؟“۔ دوزخ کی آگ کو بجھانے والی چیز کیا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا، ”الصَّوْمُ“ روزہ۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۹۱۱ھ) نے ”جامع الأحادیث“ لے میں یہ روایت نقل کی ہے، پھر یہی روایت شیخ علاء الدین علی المتقی البہندی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۹۷۵ھ) نے ”کنز العمال“ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ سند پر کلام:

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول زیر بحث روایت میں کل تین راویوں کا ذکر ہے:

۱۔ قاضی شمس الدین ابن القماح رحمۃ اللہ علیہ

۲۔ ابو العباس جعفر بن محمد بن المعتمر بن محمد بن المستغفر النخعی المستغفری رحمۃ اللہ علیہ

۳۔ ابو حامد المصری رحمہ اللہ

پہلے ان تینوں راویوں کے مختصر حالات لکھے جائیں گے، تاکہ روایت کی اسنادی حیثیت سمجھنا آسان رہے:

۱۔ قاضی شمس الدین ابن القماح رحمہ اللہ

قاضی شمس الدین ابن القماح رحمہ اللہ، علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ کے شیخ ہیں، موصوف کے بارے میں علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ ”طبقات الشافعية الكبرى“ لے میں لکھتے ہیں:

”محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة، شيخنا في ”صحيح مسلم“
القاضي شمس الدين أبو المعالي ابن القماح صاحب المجاميع
المفيدة، مولده سنة ست وخمسين وستمائة... وكان ذكياً
القرية، قوي الحافظة، حافظاً لكثير من الفقه، حسن الحفظ
للقرآن، كثير التلاوة. وحكم بالقاهرة مدة نيابة. توفي في ربيع
الأول سنة إحدى وأربعين وسبعمائة بالقاهرة.“

”..... موصوف کئی مفید مجموعوں کے حامل تھے، آپ کی ولادت ۶۵۶ھ میں ہوئی ہے..... آپ ذکی الفطرت، قوی حافظے والے، اکثر فقہی مضامین کے حافظ، قرآن کے اچھے حافظ اور کثرت سے تلاوت کرنے والے تھے، آپ نیابتاً قاہرہ میں قاضی تھے، آپ کا انتقال ۷۴۱ھ میں قاہرہ میں ہوا۔“

ایک اہم نکتہ:

قاضی شمس الدین ابو المعالی ابن القماح رحمہ اللہ کے اس مختصر تعارف میں قابل غور امر یہ ہے کہ موصوف کے پاس ایسے مفید مجموعے موجود تھے جن سے لوگ عام طور پر واقف

تھے، زیر بحث روایت میں بھی علامہ سیوطی رحمہ اللہ قاضی شمس الدین ابن القماح کے اسی مجموعے سے روایت نقل کر رہے ہیں، اگرچہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی قاضی شمس الدین ابن القماح سے سماعت نہیں ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ایک اور مقام پر بھی اس مجموعے کا ذکر کیا ہے، چنانچہ آپ ”الشماريخ في علم التاريخ“ لہ میں لکھتے ہیں:

”... قُلْتُ: وَوَقَفْتُ عَلَى مَا يَعْصِدُ الْأَوَّلَ، فَرَأَيْتُ بِحَظِّ ابْنِ الْقَمَاحِ فِي مَجْمُوعٍ لَهُ...”

”..... میں (علامہ سیوطی رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ میں ایک ایسی دلیل سے واقف ہوں جو پہلے قول کو ترجیح دیتی ہے، چنانچہ میں نے ابن القماح کے مجموعے میں ان کی یہ تحریر دیکھی ہے.....“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”الذُرُّ الْكَامِنَةُ“ لہ میں موصوف کے حالات مزید تفصیل سے لکھے ہیں، ان میں اس ”مجموعہ“ کا ذکر بھی ہے، ملاحظہ ہو:

”وله مجاميع كثيرة مشتملة على فوائد غزيرة“

شمس الدین ابن القماح کے پاس ایسے کئی مجموعے تھے جو بہت سے فوائد پر مشتمل تھے۔

۲- ابو العباس جعفر بن محمد بن المعتمر بن محمد بن المستغفر النسفی المستغفری، خطیب سَف:

علامہ سَمْعَانِی رحمہ اللہ موصوف کے بارے میں ”الأنساب“ لہ میں لکھتے ہیں:

”كَانَ فَقِيهًا فَاضِلًا وَمُحَدِّثًا مُكْثِرًا صَدَّقَ بِرَأْيِهِ إِلَى فَهْمٍ وَمَعْرِفَةٍ

لہ الشماريخ في علم التاريخ: ذكر مبدا التاريخ الهجري، ۱/۱۲، ت: عبد الرحمن حسن محمود، مكتبة الآداب القاهرة۔

لہ الذُرُّ الْكَامِنَةُ في أعيان المائة الثامنة: حرف الميم، ۲/۱۸۵، ۳۳۳۸، ت: الشيخ عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۸ھ۔

لہ الأنساب: باب الميم والسين، ۵/۱۷۰، رقم: ۹۸۵۱، ت: محمد عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۹ھ۔

وإِثْقَانٍ، جمع الجموع، وَصَنَّفَ التصانيف وأَحْسَنَ فيها، و كان قد رَحَلَ إلى خُرَاسَانَ وَأَقَامَ بِمَرْوَ وَسَرَّخْسَ مُدَّةً وَأَشْتَرَعَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ زَاهِرِ بْنِ أَحْمَدَ السَّرَّخْسِيِّ وَمَا جَا وَزَه... وَلَمْ يَكُنْ بِمَرْوَ وَرَاءَ النَّهْرِ فِي عَصْرِهِ مَنْ يَجْرِي مَجْزَاهُ فِي الْجَمْعِ وَالتَّصْنِيفِ وَفَهَّمَ الْحَدِيثَ، وَكَانَتْ وَلَدَاتُهُ سَنَةَ خَمْسِينَ وَثَلَاثُمِائَةٍ، وَوَفَاتَهُ سَلَخَ جُمَادَى الْأُولَى اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعُمِائَةٍ، وَزُرْتُ قَبْرَهُ بِنَسْفٍ عَلَى طَرَفِ الْوَادِي -“

ابوالعباس نسف کے خطیب تھے، آپ فقیہ، فاضل، بہت زیادہ احادیث بیان کرنے والے، اور صدوق تھے، فہم اور معرفت و اتقان کا مرجع تھے، بہت سے علوم کے جامع، اور اچھی تصنیف و تالیف سے آراستہ تھے۔

آپ خراسان تشریف لے گئے، اس کے بعد مرو اور سرخس میں ایک عرصہ قیام پذیر رہے، جہاں ابوالی زاہر بن احمد سرخسی سے خوب احادیث حاصل کیں، اور موصوف سرخس سے آگے نہیں گئے..... ابوالعباس المستغفری کے زمانے میں علاقہ ماوراء النہر میں تصنیف و تالیف اور فہم حدیث میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، آپ کی پیدائش ۳۵۰ھ اور وفات اواخر جمادی الاولیٰ ۴۳۲ھ میں ہوئی ہے، اور میں نے (یعنی علامہ شمس العالیؒ) نسف میں وادی کے کنارے ان کی قبر دیکھی ہے۔

۳- ابو حامد المصری:

اس روایت کے مطابق موصوف حافظ ابوالعباس المستغفریؒ کے شیخ ہیں، لیکن تلاش بسیار کے باوجود موصوف کے حالات کتب رجال وغیرہ میں معلوم نہیں ہو سکے۔
سند کی تحقیق:

سند کا یہ اجمالی خاکہ ملحوظ رہے تاکہ آئندہ تفصیل آسانی سے سمجھ میں آجاسکے:

امام سیوطیؒ (المولود ۸۴۹ھ - المتوفی ۹۱۱ھ) شمس الدین ابن القیصرؒ (المولود ۶۵۶ھ - المتوفی ۷۴۱ھ) ابوالعباس المستغفریؒ

(المولود بعد ۳۵۰ھ - المتوفی ۴۳۲ھ)۔ ابو حامد المصری رحمہ اللہ (ابو العباس المستغفری رحمہ اللہ کے شیخ)..... حضرت خالد رحمہ اللہ بن الولید (المتوفی ۲۱ھ) امام سیوطی رحمہ اللہ اور شمس الدین ابن القماح کے مابین سند:

اب ہم سند کا جائزہ لیتے ہیں، امام سیوطی رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش (۸۴۹ھ) ہے اور آپ یہ روایت شمس الدین ابن القماح رحمہ اللہ کے ”مجموعے“ سے نقل کر رہے ہیں، جن کی تاریخ وفات (۷۴۱ھ) ہے، ظاہر ہے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی شمس الدین ابن القماح رحمہ اللہ سے حدیث کی سماعت نہیں ہے، صرف ”مجموعہ“ سے بلا سماعت حدیث ذکر کی ہے، بالفاظ دیگر امام سیوطی رحمہ اللہ اور شمس الدین ابن القماح کے درمیان اتصال نہیں ہے، یہ بھی واضح رہے کہ اگرچہ کسی کتاب کی شہرت کے بعد، صاحب کتاب تک بعد والوں کی سند کا متصل ہونا ضروری نہیں رہتا، لیکن مذکورہ سند میں جس ”مجموعہ“ کا ذکر ہے، وہ شہرت کے اس مرتبے سے یکسر خالی ہے؛ اس لئے یہاں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ صاحب کتاب تک سند کی ضرورت نہیں ہے۔

شمس الدین ابن القماح اور ابو العباس المستغفری رحمہ اللہ کے مابین سند:

شمس الدین ابن القماح، جن کی تاریخ پیدائش (۶۵۶ھ) ہے، وہ ابو العباس المستغفری رحمہ اللہ سے ”عنہ“ (یعنی صیغہ عن کے ساتھ روایت نقل کی ہے، سماعت حدیث کی وضاحت نہیں فرمائی) کے ساتھ روایت نقل کر رہے ہیں، ابو العباس المستغفری رحمہ اللہ کی وفات (۴۳۲ھ) ہے، ثابت ہوا کہ شمس الدین ابن القماح رحمہ اللہ اور ابو العباس المستغفری رحمہ اللہ کے مابین دو صدی سے زائد تک سند منقطع ہے۔ پھر سند میں مذکور ابو العباس المستغفری رحمہ اللہ (المولود بعد ۳۵۰ھ) کے شیخ ابو حامد المصری رحمہ اللہ کا ترجمہ کتب رجال میں نہیں ملتا۔

ابو حامد مصری اور حضرت خالد بن الولیدؓ کے مابین سند:

مذکورہ سند میں اگرچہ یہ لکھا گیا ہے کہ ابو حامد مصریؓ نے اپنے شیخ سے حضرت خالد بن الولیدؓ (التوفی ۲۱ھ) تک سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی، لیکن سند کے راویوں کو عملاً ذکر نہیں کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ صرف سند کا تذکرہ ہی ثبوت حدیث کے لئے کافی نہیں ہوتا، بلکہ حدیث کا ثبوت یا عدم ثبوت سند کے راویوں پر موقوف ہوتا ہے، جس سے یہ روایت ابو حامد مصریؓ سے (آخر خالد بن الولیدؓ) تک خالی ہے۔

سند کا خلاصہ:

خلاصہ سند یہ رہا کہ شمس الدین ابن القحاحؓ (المولود ۶۵۶ھ - التوفی ۷۴۱ھ) اور خالد بن الولیدؓ (التوفی ۲۱ھ) تک صرف دور راویوں کا نام صراحتاً ذکر کیا گیا ہے، ایک ابو العباس المستغفریؓ (المولود بعد ۳۵۰ھ - التوفی ۴۳۲ھ)، دوسرے ابو حامد مصریؓ، جن کا ترجمہ بھی کتب رجال میں نہیں ملتا، ان کے علاوہ سند میں کسی کا نام مذکور نہیں ہے، اور احادیث میں صحت و سقم کا معیار سند کے راوی ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال اور فنی تفصیلات کو سامنے رکھ کر، رد و قبول کا مرحلہ طے کیا جاتا ہے، اس لئے اس حدیث کے ثبوت کے لئے مذکورہ سند بالکل کافی نہیں ہے۔

ایک اہم نکتے کی وضاحت:

زیر بحث قصے میں یہ ہے کہ ابو العباس المستغفریؓ نے ابو حامد مصریؓ سے یہ حدیث مصر میں حاصل کی ہے، حالانکہ علامہ سمعانیؓ کا قول ماقبل میں گذر چکا ہے کہ ابو العباس المستغفریؓ نصف کے خطیب تھے، اس کے بعد مرو اور سرخس تک تشریف لائے ہیں لیکن سرخس سے آگے آپ نہیں گئے، حالانکہ زیر بحث روایت میں ہے کہ آپ اس روایت حصول میں سرخس سے آگے مصر تک گئے،

بہر حال علامہ سَمْعَانِی رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ تصریح اس روایت کے بالکل متضاد ہے، جس سے اس روایت کا ساقط الاعتبار ہونا اور بھی مؤکد ہو جاتا ہے۔

روایت کا فنی مقام اور حکم:

آپ تفصیل سے جان چکے ہیں کہ زیر بحث روایت کی سند ہی ثابت نہیں ہے؛ کیونکہ پوری سند میں صرف دو راویوں کا نام مذکور ہیں، جن میں سے ایک کا تو ذکر ہی کتب رجال وغیرہ میں نہیں ملتا، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف ایسا کلام ہی منسوب ہو سکتا ہے جو پایہ ثبوت تک پہنچ چکا ہو، بصورت دیگر روایت قابل التفات و بیان نہیں رہتی، چنانچہ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ ”المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للعلامة علي القاري“ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

”... وإذا كان الحديث لا إسناده له، فلا قيمة له ولا يلتفت إليه، إذا الإعتقاد في نقل كلام سيدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إلينا، إنما هو على الإسناد الصحيح الثابت أو ما يقع موقعه، وما ليس كذلك فلا قيمة له“۔

”..... اور جب حدیث کی سند ہی نہ ہو، تو وہ بے قیمت اور غیر قابل التفات ہے؛ کیونکہ ہماری جانب ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نقل کرنے میں اعتماد صرف اسی سند پر ہو سکتا ہے، جو صحیح سند سے ثابت ہو یا جو اس کے قائم مقام ہو، اور جو حدیث ایسی نہ ہو تو وہ بے قیمت ہے۔“


خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت کسی ”معتبر سند“ سے ثابت نہیں ہے؛ اس لئے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔

زیر بحث روایت کا ایک غلط انتساب اور اس کا سبب:

واضح رہے کہ زیر بحث روایت بعض کتابوں میں ”مسند أحمد“ کی طرف

منسوب کر کے لکھی گئی ہے، لیکن یہ نسبت بالکل غلط ہے؛ کیونکہ مسند احمد میں مسند خالد بن الولید لے کے تحت کل ۱۴ روایتیں ہیں، (رقم الحدیث: ۱۶۹۳۵ سے رقم الحدیث: ۱۶۹۳۸ تک) جن میں اس روایت کا کوئی ذکر نہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مسانید، سنن، معاجم غرض یہ کہ ہماری جستجو کے مطابق متون حدیث اور اجزاء حدیثیہ میں کہیں بھی یہ روایت مسند امویہ موجود نہیں ہے، صرف امام سیوطی رحمہ اللہ کے حوالہ سے اس روایت کا ذکر ملتا ہے، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

ہمارے ایک محترم ساتھی مولانا اسد اللہ صاحب نے اس غلط انتساب کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ ”کنز العمال“، ”منتخب مسند أحمد“ کے بعض نسخوں میں اس کے حاشیہ پر چھپی ہے، چنانچہ ”کنز العمال“ کی ایسی کئی احادیث ہیں، جو ”مسند أحمد“ کی جانب منسوب ہوتی رہی ہیں، ممکن ہے کہ ”کنز العمال“ کی زیرِ بحث روایت بھی اسی وجہ سے ”مسند أحمد“ کی جانب منسوب ہوئی ہو، اور بظاہر یہی وجہ ہے کہ بعض کتابوں میں اس حدیث کے حوالے میں (کنز العمال، مسند أحمد) یعنی دونوں حوالوں کو ایک ساتھ لکھا گیا ہے، واللہ اعلم۔



روایت نمبر: (۴)

خاتم الانبیاء سرور کونین حضرت محمد ﷺ کی حیات مبارکہ کا ہر جزء انسانیت ساز پیغام سے لبریز ہے۔ آپ کی کمالِ عبدیت رحمتِ عرش بریں کا فیضان ہے، جو تا قیامت شریعتِ اسلامیہ کے محفوظ منہج پر انسانیت کو سامانِ رشد و ہدایت پہنچانے کی ضامن ہے۔ آپ ﷺ کے جامع، معیاری اور نجات دہندہ شب و روز، اسانید و تواتر کے مامون اور معتبر راستے سے ہم تک پہنچے ہیں، اس لئے عدل و صلاح پر مشتمل، اس اسلامی تاریخ کو تخلیط و تدلیس کی قطعاً حاجت نہیں، بلکہ دینی علوم میں اس افراط کو سم قاتل سمجھا جاتا ہے، چنانچہ جامع العلوم علامہ عبدالحی لکھنوی (۱۳۰۴ھ) لکھتے ہیں:

”وَلْيَحْذَرِ الْقَضَاءُ وَالْخُطْبَاءُ الْأُمُورَ الزَّاجِرُونَ حَيْثُ يُنْسَبُونَ
كثِيرًا مِنَ الْأُمُورِ إِلَى الْحَضْرَةِ الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي لَمْ يَبْثُ وجودُهَا فِيهَا
وَيَنْظُرُونَ أَنَّ فِي ذَلِكَ أَجْرًا عَظِيمًا؛ لِإثْبَاتِ فَضْلِ ذَاتِ الْمُقَدَّسَةِ وَغُلُوِّ
قَدْرِهَا، وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ فِي الْفَضَائِلِ النَّبَوِيَّةِ الَّتِي تُبَيَّنُّ بِالْأَحَادِيثِ
الصَّحِيحَةِ غُنْيَةً عَنْ تِلْكَ الْأَكَاذِبِ الْوَاهِيَةِ...“۔ لہ

”امروز جر کرنے والے قصہ گو اور خطباء کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ وہ حضور اقدس ﷺ کی جانب ایسی بہت سے باتیں منسوب کرتے ہیں جو آپ سے ثابت نہیں ہیں (یعنی معتبر سند سے ثابت نہیں ہے)، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اجر عظیم ہے؛ کیوں کہ اس میں آپ کی فضیلت اور علو شان کا بیان ہے اور وہ یہ نہیں جانتے کہ جو فضائل نبویہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، وہ ان وہابی جھوٹے فضائل سے مستغنی کرنے والے ہیں.....“۔

آپ ﷺ کے عدل کی نظیر تلاش کرنا ایک بے سود امر ہے، آپ ﷺ سراپا انصاف کے پرتو ہیں، جس کا ثبوت اسلامی مُسند روایتیں اور ان کا تواثر ہے، اس لیے شریعت ایسی حکایات کی مداخلت ہرگز برداشت نہیں کرتی جن کا کوئی شرعی ثبوت نہ ہو، بلکہ من گھڑت روایت کو بیان کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں؛ اس لئے ہماری مجالس میں جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ فکر آخرت اور اسلامی تعلیمات سے مزین ہوں، وہاں اسے غیر معتبر اور من گھڑت حکایات سے بچانا بھی اہم ترین فریضہ ہے، چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر ذیل میں آپ ﷺ کے عدل و انصاف پر مشتمل ایک ایسی ہی روایت ذکر کی جائے گی، جو من گھڑت ہونے کے باوجود زبان زعام ہے؛ اس لئے اس کو بیان کرنے سے شدت سے احتراز کرنا چاہیے۔

روایت کا عنوان:

آپ ﷺ کا وصال سے قبل اپنی ذات پر قصاص اور بدلہ دلوانا۔

تحقیق کا اجمالی خاکہ:

واضح رہے کہ اس حدیث کی تحقیق چار اجزاء پر مشتمل ہے:

۱- مصادرِ اصلیہ سے حدیث کی تخریج

۲- روایت پر ائمہ حدیث کا کلام

۳- متہم راوی پر ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال

۴- گزشتہ تفصیلات سے ماخوذ روایت کا حکم

مصادرِ اصلیہ سے روایت کی تخریج:

امام سلیمان بن احمد الطبرانی رحمۃ اللہ علیہ (۳۶۰ھ) ”المعجم الکبیر“ میں لکھتے ہیں:

”حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، ثنا عَبْدُ الْمُنْعَمِ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ سِنَانٍ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُثَنَّى، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضی اللہ عنہ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عباس رضی اللہ عنہ فی قول اللہ عز و جل: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ...﴾۔^۱
 ”المعجم الكبير“ کی مذکورہ روایت پانچ سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، ہم
 یہاں واقعے کو اختصاراً ذکر کریں گے۔

جب سورت ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ نازل ہوئی، تو آپ ﷺ نے
 مہاجرین و انصار کو مسجد میں جمع فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمایا، پھر کچھ گفتگو کرنے کے
 بعد فرمایا:

”أَنَا أَنشِدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِحَقِّي عَلَيْكُمْ، مَنْ كَانَتْ لَهُ قَبْلِي مَظْلَمَةٌ فَلْيَقُمْ،
 فَلْيَقْتَضِ مَنِّي قَبْلَ الْقِصَاصِ فِي الْقِيَامَةِ“۔

میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اور تمہیں میرے حق کا واسطہ ہے کہ جس شخص پر
 میں نے کوئی زیادتی کی ہو، تو قیامت میں قصاص لینے سے پہلے ابھی آ کر اپنا بدلہ مجھ
 سے لے۔

آپ ﷺ نے یہ جملہ تین مرتبہ دہرایا، آخر ایک بوڑھا شخص جسے عکاشہ کہا جاتا
 تھا، اٹھ کر سامنے آیا اور کہا کہ اگر آپ بار بار یہ بات نہ فرماتے، تو میں اس کام کی
 جرأت نہیں کرتا، پھر اس نے اپنا قصہ بیان کیا کہ ایک غزوے سے واپسی پر میری
 اونٹنی آپ ﷺ کے قریب پہنچی، تو میں نیچے اتر گیا اور آپ ﷺ کی ران پر بوسہ لینے
 کے لئے آپ ﷺ کے قریب ہوا، آپ ﷺ نے ایک چھڑی اٹھا کر میرے پہلو میں
 چھو دی، نہ جانے آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا یا آپ اونٹنی کو مارنا چاہتے تھے،
 آپ ﷺ نے فرمایا:

”أَعِذُكَ بِجَلَالِ اللَّهِ أَنْ يَتَّعَمِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالضَرْبِ“۔

میں تمہیں اس بات سے اللہ کی پناہ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ﷺ تمہیں جان

بوجھ کر ماریں۔

پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے بلال! جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پتلی لمبی چھڑی لے آؤ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سر پر ہاتھ رکھے، یہ واویلا کرتے ہوئے گئے: ”ہذا رسول اللہ ﷺ يعطِي القِصاصَ مِنْ نَفْسِهِ“۔ یہ اللہ کے رسول اپنے پر قصاص دلوانا چاہتے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پتلی لمبی چھڑی مانگی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں کہ میرے والد کو چھڑی سے کیا کام؟ نہ تو یہ حج کے ایام ہیں اور نہ یہ کسی غزوہ کا موقع ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: آپ ﷺ اس چھڑی سے اپنے پر قصاص دلوانا چاہتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ کون شخص ہے، جو آپ ﷺ سے قصاص لینا چاہ رہا ہے؟ اے بلال! حسنین رضی اللہ عنہما سے کہو، اس شخص سے کہہ دیں کہ ہم سے بدلہ لے لو، مگر اسے حضور ﷺ سے قصاص نہیں لینے دینا۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مسجد آ کر چھڑی حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے چھڑی عکاشہ کو تھادی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ منظر دیکھا تو عکاشہ سے کہا: ہم تمہارے سامنے حاضر ہیں، ہم سے بدلہ لے لو، لیکن حضور ﷺ سے قصاص مت لو۔

آپ ﷺ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا: ”امضِ یا أبا بکر! وأنت يا عمر! فامضِ فقد عَزَفَ اللَّهُ مَكَانَكُما وَمَقَامُكُما“۔

اے ابو بکر جانے دو، اور اے عمر تم بھی جانے دو، اللہ تعالیٰ تم دونوں کا مرتبہ اور مقام پہچان چکے ہیں۔

پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اور کہا: اے عکاشہ! میری پیٹھ اور پیٹ حاضر ہے، چاہے بدلے میں سو چھڑیاں مار لو، مگر رسول اللہ ﷺ سے قصاص مت لو، آپ ﷺ نے فرمایا: ”يا علي! افْعَدْ فقد عَزَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَقَامَكَ وَنَيْتَكَ“۔

اے علی! بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقام اور نیت کو پہچان لیا ہے۔

پھر حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور کہا: اے عکاشہ! ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ہم سے قصاص لینا ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصاص لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین علیہ السلام سے فرمایا:

”أَفْعُدْ يَا فَرَّةَ عَيْنِي! لَا نَسِيَّ اللَّهُ لَكُمَا هَذَا الْمَقَامَ“

اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک! تم بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس مقام کو فراموش نہیں فرمایا۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عکاشہ! اگر مارنا چاہتے ہو تو مارو۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ! اُس وقت میرا پیٹ برہنہ تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹالیا، مسلمانوں کی چیخیں بلند ہو گئیں اور کہنے لگے، دیکھو تو! کیا عکاشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتا ہے؟ جب عکاشہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برہنہ پیٹ پر پڑی، تو لپک کر آپ کے پیٹ کا بوسہ لیا، اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس کا جی چاہے گا کہ آپ سے بدلہ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّمَا أَنُضْرِبَ، وَإِنَّمَا تُنْعَفُو“

یا تو مارو، اور یا معاف کر دو۔

پھر عکاشہ نے کہا کہ میں آپ کو اس امید پر معاف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت مجھے بھی معاف کر دے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَفِيقِي، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا الشَّيْخِ“

جو شخص جزت میں میرے ساتھی کو دیکھنا چاہے تو وہ اس بوڑھے شخص کو دیکھ لے، چنانچہ لوگوں نے کھڑے ہو کر عکاشہ کی پیشانی پر بوسہ دینا شروع کر دیا اور انہیں مبارک باد دی۔

اس کے بعد اس روایت میں دیگر مضامین بھی تفصیل سے ذکر کئے گئے ہیں۔ امام ابو نعیم اصمہانی رحمہ اللہ (۴۳۰ھ) نے ”حلیۃ الأولیاء“ لے میں امام طبرانی رحمہ اللہ سے ان کی سند کے مطابق اس روایت کی تخریج کی ہے۔

روایت پر ائمہ حدیث کا کلام:

مقدمین و متاخرین ائمہ حدیث نے ”المعجم الكبير“ کی زیر بحث روایت کا فنی مقام ان کتب میں ذکر کیا ہے:

- ۱- ”کتاب الموضوعات“ تالیف حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ (۵۹۷ھ)۔
- ۲- ”مجمع الزوائد ومنبع الفوائد“ تالیف حافظ نور الدین رحمہ اللہ (۸۰۷ھ)۔
- ۳- ”الآلآی المصنوعة في الأحادیث الموضوعة“ تالیف علامہ جلال الدین سیوطی (۹۱۱ھ)۔
- ۴- ”تنزیہ الشریعة المرفوعة عن الأحادیث الموضوعة“ تالیف علامہ ابن عَرَّاق (۹۶۳ھ)۔
- ۵- ”الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة“ تالیف علامہ عبدالحی لکھنوی (۱۳۰۴ھ)۔

ذیل میں ان محدثین کرام کا کلام تفصیل سے لکھا جائے گا:

۱- حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ (۵۹۷ھ) رقمطراز ہیں:

”هذا حديث موضوع محال كفا للهِ مَنْ وَضَعَهُ وَقَبَّحَ مَنْ يَشِينُ الشَّرِيعَةَ بِمِثْلِ هَذَا التَّخْلِيطِ الْبَارِدِ، وَالْكَلَامِ الَّذِي لَا يَلِيْقُ بِالرَّسُولِ ﷺ وَلَا بِالصَّحَابَةِ رضي الله عنهم، وَالْمُتَّهَمِ بِهِ عَبْدُ الْمُنْعَمِ بْنِ إِدْرِيسَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَانَ يَكْذِبُ عَلَى وَهْبٍ، وَقَالَ يَحْيَى: كَذَّابٌ، خَبِيثٌ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَأَبُو دَاوُدَ رحمہ اللہ: لَيْسَ بِثَقَّةٍ، وَقَالَ ابْنُ جَبَّانٍ: لَا يَحِلُّ الْإِحْتِجَاجُ بِهِ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هُوَ أَبُوهُ مَثْرُوكَانُ“۔^۱

^۱ کتاب الموضوعات: ۱/۲۹۷، باب ذکر وفاته رحمہ اللہ، تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان، ناشر:

یہ موضوع اور محال روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھڑنے والے کو اس کی سزا دے، اور اللہ اس شخص کا بُرا کرے جو شریعت کو ایسی سرد (بے بنیاد) ملاوٹوں اور رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان سے بعید باتیں لا کر عیب دار بنائے۔ اس حدیث میں عبدالمنعم بن ادریس متہم ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عبدالمنعم، وہب پر جھوٹ بولتا تھا۔ یحییٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وہ کذاب، خبیث شخص ہے۔ ابن المدینی رحمہ اللہ اور ابوداؤد رحمہ اللہ نے عبدالمنعم کو ”لیس بثقة“ (جرح) کہا ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں: عبدالمنعم سے احتجاج جائز نہیں ہے۔ دارقطنی فرماتے ہیں: عبدالمنعم اور اس کے والد دونوں ”متروک“ (شدید جرح) ہیں۔

۲- حافظ نور الدین بیہقی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ نور الدین بیہقی رحمہ اللہ (۸۰۷ھ) لکھتے ہیں: ”رواہ الطبرانی، وفیہ: عبد المنعم بن ادریس، وهو کذاب، وضاع“۔ لہ طبرانی رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے، اور سند میں عبدالمنعم بن ادریس ہے، جو کذاب (جھوٹا)، روایت گھڑنے والا ہے۔

۳- علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا کلام:

امام سیوطی رحمہ اللہ (۹۱۱ھ) تحریر فرماتے ہیں: ”موضوع، آفته عبد المنعم“۔ ۴

یہ من گھڑت روایت ہے، اس میں عبدالمنعم آفت (کلمہ جرح) ہے۔

۵ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ۱۱/۶۰۵، رقم: ۱۳۲۵۳، عبد اللہ محمد الدرویش، دار الفکر۔ بیروت، الطبعة الأولى ۱۳۲۵ھ۔

۶ اللائی المصنوعة: ۱/۲۵۷، محمد عبد المنعم رابع، دار الکتب العلمیة۔ بیروت، الطبعة الثانية ۱۳۲۸ھ۔

۴- علامہ ابن عَرَّاق رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ ابن عَرَّاق رحمۃ اللہ علیہ (۹۶۳ھ) لکھتے ہیں:

” (نع) في ”الحلیة“ من طریق عبد المُنعم بن إدريس، وهو المُنعم به“۔^۱

ابونعیم الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ”حلیۃ الأولیاء“ میں عبد المُنعم بن ادريس کی سند سے تخریج کی ہے، اور وہی (عبد المُنعم) اس میں متہم ہے۔

۵- علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۰۴ھ) لکھتے ہیں:

”الحديث المذكور بتمامه في كتاب الموضوعات لابن الجوزي، قال ابن الجوزي: هذا موضوع، وأفته عبد المُنعم، انتهى۔ أي عبد المُنعم بن إدريس بن سنان الراوي عن أبيه، عن وهب، وعنه محمد بن أحمد بن البراء، وعنه سليمان بن أحمد الطبراني، وعنه أبو نعیم، وأثره عليه الشیوطي في ”الآلای المصنوعة في الأحادیث الموضوعة“، وابن عَرَّاق في ”تنزيه الشريعة“ عن الأحادیث الموضوعة...“۔^۲

مذکورہ حدیث مکمل کتاب ”الموضوعات لابن الجوزي“ میں موجود ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ موضوع روایت ہے اور اس میں عبد المُنعم آفت ہے۔۔۔۔۔“

روایت پر محدثین کے کلام کا خلاصہ:

سابقہ نصوص کا حاصل یہ ہے کہ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ

^۱ تنزیہ الشریعة: کتاب المناقب والمثالب، الفصل الأول، ۳۳۱/۱، رقم: ۱۳، ت: عبد الوہاب عبد اللطیف و عبد اللہ محمد الصدیق، دار الکتب العلمیہ۔ بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۰۱ھ۔
^۲ الآثار المرفوعة: ۳۰/۱، ناشر: دار الکتب العلمیہ۔ بیروت۔

سُیوٹلی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عَرّاق رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالحی لکھنوی اس سب محدثین کرام کے نزدیک یہ من گھڑت روایت ہے، اور سند میں مذکور عبد المنعم بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گھڑا ہے، اب ذیل میں مذکور روایت سے قطع نظر، عبد المنعم کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال پیش کیے جائیں گے، تاکہ ائمہ رجال کے اقوال کی روشنی میں بھی روایت کا جائزہ لیا جاسکے۔

عبد المنعم بن ادریس بن سنان بن کلّیب (۲۲۸ھ) کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال:

حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ (۷۴۸ھ) ”میزان الاعتدال“ میں لکھتے ہیں:
 ”مشہور قضاص، لیس یُعْتَمَدُ علیہ، تَرَکَہُ غَیْرُ وَاحِدٍ، وَأَفْضَحُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، فَقَالَ: كَانَ يَكْذِبُ عَلَى وَهْبِ بْنِ مُنْتَبِهٍ، وَقَالَ الْبَخَارِيُّ: ذَاهِبُ الْحَدِيثِ...، وَقَالَ ابْنُ جَبَانَ: يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى غَيْرِهِ“۔
 یہ مشہور قصہ گو ہے، غیر معتمد شخص ہے، کئی محدثین نے اسے ترک کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عبد المنعم کے بارے میں صاف کہا ہے کہ وہ وہب بن منبہ پر جھوٹ بولتا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ذاہب الحدیث“ (کلمہ جرح) کہا ہے..... ابن جَبَانَ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عبد المنعم اپنے والد اور ان کے علاوہ دوسروں پر احادیث گھڑتا تھا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ (۸۵۲ھ) ”لسان المیزان“ میں لکھتے ہیں:
 ”نقل ابن أبي حاتم، عن إسماعيل بن عبد الكريم، مات إدریس، وعبد المنعم رَضِيعٌ، وكذا قال أحمد، إذ سُئِلَ عنه: لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئاً، وقال عبد الخالق بن منصور، عن ابن معین: الكَذَّابُ الْخَبِيثُ، قيل له: يَا أَبَا زَكْرِيَّا! بِمَ عَرَفْتَهُ؟ قال: حَدَّثَنِي شَيْخٌ صَدَقَ، أَنَّهُ رَأَاهُ فِي

زمن أبي جعفر يَطْلُب هذه الكتب من الورّاقين، وهو اليوم يدعيها، فقيل له: إنه يروي عن معمر، فقال: كذاب۔

وقال الفلاس: متروك، أخذ كتب أبيه، فحدث بها، ولم يسمع من أبيه شيئاً، وقال البرذعي، عن أبي رُزعة: واهي الحديث، وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث، وقال ابن المديني: ليس بثقة، أخذ كُتُباً فرواها، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الساجي: كان يشتري كتب السيرة، فيرويه، ماسمِعها من أبيه، ولا بعضُها“۔ لہ

ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اسماعیل بن عبدالکریم سے نقل کیا ہے کہ عبدالنعم کے والد اور یس کا انتقال عبدالنعم کی شیرخوارگی کی حالت میں ہوا تھا، یہی بات احمد رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے، جب ان سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو انھوں نے کہا: عبدالنعم نے اپنے والد سے کچھ نہیں سنا۔

عبدالخالق بن منصور، ابن معین رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ عبدالنعم کذاب خبیث ہے، جب ان سے پوچھا گیا: آپ نے اسے کیسے پہچان لیا؟ ابن معین رحمہ اللہ نے کہا مجھے: ایک سچے شیخ نے کہا تھا کہ میں نے عبدالنعم کو ابو جعفر کے زمانہ میں کتب فروشوں سے کتابیں طلب کرتے دیکھا تھا، آج انھیں کتابوں کا وہ دعوے دار ہے، پھر ابن معین رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ وہ معمر سے روایت نقل کرتا ہے، ابن معین رحمہ اللہ نے کہا: وہ جھوٹا ہے۔

فلاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبدالنعم ”متروک“ (شدید جرح) ہے، اپنے والد کی کتابیں لے کر ان سے حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی، حالاں کہ اس نے اپنے والد سے کچھ نہیں سنا۔

برذعی رحمہ اللہ نے ابو رزعة رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ عبدالنعم ”واہی الحديث“ (کلمہ جرح) ہے۔

ابو احمد حاکم رحمہ اللہ نے اسے ”ذاهب الحدیث“ (کلمہ جرح) کہا ہے۔
ابن ندیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عبد المنعم ثقہ نہیں ہے، کتابیں لے کر اس میں سے
احادیث بیان کرنا شروع کر دی۔

ساجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عند المنعم سیرت کی کتابیں خرید کر ان سے روایتیں بیان
کرتا تھا، ان روایتوں کو اس نے اپنے والد سے نہیں سنا، حتیٰ کہ بعض حدیثیں بھی نہیں سنیں۔
ائمہ رجال کے اقوال کا خلاصہ:

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، حافظ ابن حبان رحمہ اللہ، امام ابو
زُرْعہ رحمہ اللہ، حافظ دارقطنی رحمہ اللہ، حافظ فلاس رحمہ اللہ، حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ، علامہ سیوطی،
حافظ بیہقی رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ، حافظ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ ان سب محدثین کرام نے عبد المنعم
بن ادریس کے بارے میں جرح کے شدید ترین جملے استعمال فرمائے ہیں، مثلاً:

عبد المنعم، وہب پر جھوٹ بولتا تھا (امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ)۔

وہ کذاب خبیث شخص ہے (امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ)۔

عبد المنعم اپنے والد اور ان کے علاوہ دوسروں پر احادیث گھڑتا تھا (حافظ ابن
حبان رحمہ اللہ)۔

سند میں عبد المنعم بن ادریس ہے، جو کذاب، روایت گھڑنے والا ہے (حافظ
بیہقی رحمہ اللہ)۔

یہ من گھڑت روایت ہے، اس میں عبد المنعم آفت ہے (حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ،
علامہ سیوطی رحمہ اللہ)۔

”متروک“ (دارقطنی رحمہ اللہ، حافظ فلاس رحمہ اللہ)۔

”واہی الحدیث“ (امام ابو زُرْعہ رحمہ اللہ)۔

یہ مشہور قصہ گو ہے، غیر معتمد شخص ہے، کئی محدثین نے اسے ترک کیا ہے (حافظ

”مستہم“ (حافظ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ)۔

بہر حال ائمہ رجال کے ان اقوال کی روشنی میں زیر بحث روایت کا باطل ہونا ایک واضح امر ہے۔

دواہم نکات:

محدثین عظام رحمہم اللہ کا سابقہ تفصیلی کلام ہی اس روایت کو باطل اور من گھڑت کہلانے کے لیے کافی ہے، البتہ دواہم نکات اس حدیث سے خاص تعلق رکھتے ہیں، جن کی موجودگی اس روایت کے من گھڑت ہونے کو اور بھی مؤکد کر دیتی ہے۔

..... امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، حافظ ابن حبان رحمہ اللہ اور علامہ ساجی رحمہ اللہ نے صاف لفظوں میں یہ بات بیان کی ہے کہ عبد المنعم نے اپنے والد سے حدیث کی سماعت نہیں کی، اور وہ والد کی طرف منسوب کر کے احادیث گھڑتا تھا، واضح رہے کہ عبد المنعم زیر بحث حدیث میں اپنے والد سے ہی روایت نقل کر رہا ہے۔

..... دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب پر مشتمل ہے اور علامہ ساجی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق عبد المنعم سیرت کی کتابیں خرید کر ان سے روایتیں گھڑتا تھا۔

روایت کا فنی حکم:

ائمہ حدیث کی تصریحات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، لہذا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے بیان کرنا قطعاً جائز نہیں۔

واضح رہے کہ یہ قصہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے دن، صف درست کرتے ہوئے ایک صحابی سواد بن غزیر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چھری چب گئی تھی، سواد بن غزیر رضی اللہ عنہ کے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا، سواد بن غزیر رضی اللہ عنہ آپ کے بدن سے چٹ گئے، آپ نے خوش ہو کر بھلائی کی دعا دی۔ (”الاستیعاب فی معرفة الأصحاب“، ”الاصناف“، ”تتمیم المستدرک“، ”معجم الصحابة“)

راہِ نمبر: (۵)

علوم الحدیث ساٹھ سے زائد علوم پر مشتمل ہے، جن میں تحقیق حدیث کی انتہائی حدود ”علل الحدیث“ کہلاتی ہے۔ علم حدیث کی اس شاخ کا اپنا علیحدہ مقام ہے، جو حدیث کی صحت و سقم، روایات کی جرح و تعدیل سے بالکل منفرد ہے، اس کی شرافت و اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس علم میں ”ثقات“ (قابل اعتماد راویوں) کی روایتیں موضوع بحث بنتی ہیں، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک حدیث ظاہری طور پر ”علت“ (حدیث کی صحت پر اثر انداز ہونے والے بعض امور) سے محفوظ نظر آتی ہے، اور ہر شخص کی نگاہ میں وہ مقبول و صحیح (قابل استدلال) ہوتی ہے، لیکن امام علیل اس فن کی روشنی میں بعض ایسی مخفی علتوں کو آشکارا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حدیث غیر مقبول بن جاتی ہے۔ پھر یہ علم کئی جہات پر منقسم ہے، جس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ”ثقات“ کی روایتوں میں بعض اوقات حدیث کے وصل و ارسال (سند کا متصل یا مرسل ہونا) یا وقف و رفع (یعنی آپ ﷺ کا قول یا صحابی رضی اللہ عنہ کا قول) کا اختلاف واقع ہو جاتا ہے، اس اختلاف کو ماہر علیل اپنی فہم ثاقب، معرفتِ تامہ، اور کثرتِ ممارست سے سلجھاتا ہے، اس مضمون کو حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے:

”... والوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات وتزجيح بعضهم على

بعض عند الاختلاف، إماماً في الإسناد، وإماماً في الوصل والإرسال،

وإماماً في الوقف والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته

وإتقانه (و کثرتہ ممارستہ) الوقوف على دقائق عِلَلِ الحديث“۔ لے

”..... دوسری قسم: اختلاف کی صورت میں ثقات کے مراتب کو پہچاننا اور ان میں کسی ایک کو ترجیح دینا ہے، ثقات کا یہ اختلاف یا تو اسناد میں ہوگا، یا حدیث کے موصول یا مرسل (سند کا متصل یا مرسل) ہونے میں، یا حدیث کے مرفوع یا موقوف (آپ ﷺ کا قول یا صحابی رضی اللہ عنہ کا قول) ہونے میں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی صورت ہوگی۔ اور اس اختلاف میں ترجیح کی اہلیت، معرفت و اتقان کے ساتھ ساتھ، وقائق علی الحدیث میں کثرتِ ممارست سے حاصل ہوتی ہے۔“

ایک اہم وضاحت:

اس اقتباس میں ”علم علی“ کا تعارف انتہائی اختصار سے کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ آئندہ پیش کی جانے والی تحقیق کو علم علی سے صرف یہ مناسبت ہے کہ اگر ایک حدیث مرفوع اور موقوف دونوں طریق (خواہ یہ حدیثیں غیر ثقہ راویوں سے) سے مروی ہو، اور محدثین کرام کے سامنے ایسے قرائن اور دلائل ظاہر ہو جائیں، جس کی روشنی میں وہ کسی ایک جانب کو دوسرے پر ترجیح دے دیتے ہیں، البتہ علم علی میں مرفوع و موقوف کا اختلاف منفرد انداز کا ہوتا ہے، کیونکہ علم علی میں صرف ثقات کی حدیثیں زیرِ تحقیق ہوتی ہیں، اور ان کی علتوں کی نشاندہی ایک پیچیدہ مرحلہ ہے، جس کی وضاحت صرف ماہرینِ علم ہی کر پاتے ہیں، تفصیلات کے لئے کتبِ علم دیکھی جاسکتی ہیں، خصوصاً ”شرح علی الترمذی“ میں علامہ ابنِ رجب حنبلی رحمہ اللہ نے انتہائی سہل طریقے پر اس فن کی بیشتر جزئیات پر تبصرہ فرمایا ہے۔

اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔

روایت کا عنوان:

”فِكْرَةُ سَاعَةِ خَيْرٍ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً“

”ایک گھڑی کا غور و فکر ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔“

تحقیق کا اجمالی خاکہ:

واضح رہے کہ اس حدیث کی تحقیق پانچ اجزاء پر مشتمل ہے:

۱- مصادرِ اصلیہ سے حدیث کی تخریج

۲- روایت پر ائمہ حدیث کا کلام

۳- متکلم فیہ راوی پر ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال

۴- گزشتہ تفصیلات سے ماخوذ روایت کا حکم

۵- خاتمہ، اس میں مزید دو مشہور بے سند حدیثوں کو ذکر کیا گیا ہے۔

حدیثِ مرفوع اور حدیثِ موقوف کی عام فہم تعریف:

اس حدیث کی تحقیق میں لفظِ مرفوع اور موقوف بہت کثرت سے استعمال ہوگا، اس لئے ذیل میں حدیثِ مرفوع اور حدیثِ موقوف کی عام فہم تعریف لکھی جاتی ہے:

حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ اپنے ”مقدمہ“ لے میں مرفوع اور موقوف کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وهو ما أُصِيفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً۔

جو بات (قول، فعل، تقریر) خاص آپ ﷺ کے انتساب سے بیان کی جائے، وہ مرفوع ہے۔

وهو ما يُروى عن الصحابة رضي الله عنهم مِنْ أفعالهم وأقوالهم ونحوها...۔

صحابی رضی اللہ عنہ سے منقول اقوال و افعال وغیرہ، موقوف کہلاتے ہیں.....۔

زیرِ بحث روایت کی مختلف سندوں کا اجمالی خاکہ:

مذکورہ روایت مختلف الفاظ (جو کہ آگے آرہے ہیں) اور سندوں سے مروی ہے، ان تمام طرق کا حاصل یہ ہے:

- ۱- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کے مرفوع طرق۔
 - ۲- حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کے موقوف طرق۔
 - ۳- حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول اور عمرو بن قیس المملائی رضی اللہ عنہ کا اپنی بلاغات (یعنی بلغنی کذا۔ جس میں راوی یہ کہے کہ فلاں نے مجھے یہ خبر دی ہے) میں اس کو نقل کرنا۔
 - ۴- حضرت ”سَریّ مَقْطِیّ رضی اللہ عنہ“ کا قول۔
- ذیل میں ہر روایت اور اس کے فنی حکم کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔

مرفوع طرق:

یہ کل دو ہیں:

۱- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مرفوع طریق:

علامہ ابوالشیخ الاصبہانی رضی اللہ عنہ ”العظْمَة“ لے میں لکھتے ہیں:

”حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، حدثنا عثمان بن عبد الله القرشي، حدثنا إسحاق بن نجیح المَلْطِیّ، حدثنا عطاء الخُزَّاساني، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: ”تفكرو ساعة خَيْرٌ من عبادة ستين سنة“۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”ایک گھڑی کا غور و فکر، ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔“

یہ روایت ابوالشیخ الاصبہانی رضی اللہ عنہ کے مذکورہ طریق کے مطابق ”کتاب الموضوعات لابن الجوزي“ لے اور ”اللائی المصنوعة“ لے میں بھی مذکور ہے۔

لے العظْمَة: ما ذکر من الفضل فی التفكير فی ذلک: ۲۹۹/۱، رضاء اللہ عنہ من محمد إدریس، دار العاصمة۔ ریاض۔
لے الموضوعات: ۱۳۳/۳، باب ثواب الفكر، عبد الرحمن محمد بن عثمان، الناشر محمد عبد المحسن، المدينة المنورة، الطبعة الأولى ۱۳۸۶ھ۔

لے اللائی المصنوعة: ۲۷۶/۲۔ محمد عبد المنعم رابع، دار الکتاب العلمية۔ بیروت، الطبعة الثانية ۱۳۲۸ھ۔

واضح رہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ مرفوع روایت پر ائمہ حدیث کا کلام آگے آئے گا۔

یہاں ہم روایت میں مذکور دو راویوں، یعنی إسحاق بن نجیح اور عثمان بن عبد اللہ کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال تفصیل سے نقل کریں گے، تاکہ ائمہ حدیث نے مذکورہ روایت پر جو کلام کیا ہے، اسے سمجھنا آسان ہو جائے (جس کی تفصیل عنقریب آئے گی)۔

۱- إسحاق بن نجیح الأزدي أبو صالح:

امام أحمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”إسحاق بن نجیح المَلَطِيّ مِنْ أَكْذَبِ النَّاسِ...“۔^۱

إسحاق بن نجیح المَلَطِيّ، ”أكذب الناس“ (شدید جرح کا کلمہ) ہے۔۔۔۔۔

امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”كُذِّبَ، عَدُوُّ اللَّهِ (اللہ کا دشمن)، رجل سوء (برا شخص)، خبيث“۔^۲

امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”رَوَى عَجَائِبَ وَضَعْفَهُ“۔^۳

إسحاق عَجَائِبِ بیان کرتا تھا، نیز علی بن مدینی رحمہ اللہ نے إسحاق کی ”ضعیف“ کی ہے۔

ابراہیم بن یعقوب جوزجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”غير ثقة، ولا من أَوْعِيَةِ الْأَمَانَةِ“ (کلمہ جرح)۔^۴

امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”منكر الحديث“ (کلمہ بجرح)۔^۵

امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”متروك الحديث“ (شدید جرح)۔^۶

حافظ ابو احمد ابن عدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”وهذه الأحاديث التي ذكرتها مع

سائر الروايات عند إسحاق بن نجیح عَمَرُ رَوَى عَنْهُ، فَكُلُّهَا مَوْضُوعَاتٌ

^۱ تہذیب الکمال: ۸۱/۲، رقم: ۳۸۲، ت: الشیخ أحمد علی وحسن أحمد، دار الفکر - بیروت، الطبعة ۱۴۱۳ھ۔

^۲ المصدر السابق۔

^۳ المصدر السابق۔

^۴ المصدر السابق۔

^۵ المصدر السابق۔

^۶ المصدر السابق۔

وَضَعَهَا هُوَ...“

اسحاق بن نجیح کے اپنے مروی عنہم (جن سے حدیث نقل کی جائے) سے یہ تمام حدیثیں، جن کو میں نے ذکر کیا ہے، اور دیگر روایتیں تمام تر من گھڑت ہیں، ان روایتوں کو اسحاق ہی نے وضع کیا ہے.....“۔ ۱

حافظ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ذُجَالٌ مِنَ الدَّجَالَةِ، يَضَعُ الْحَدِيثَ صِرَاحًا“۔ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، صاف حدیثیں گھڑتا تھا۔ ۲

حافظ ابوالاحمد حاکم رحمہ اللہ نے اسحاق کو ”منکر الحدیث“ (کلمہ بجرح) کہا ہے۔ ۳

حافظ برقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: اسحاق جھوٹ کی طرف منسوب ہے۔ ۴

حافظ ابوسعید نقاش رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”مَشْهُورٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ“۔ اسحاق حدیث تراشنے میں شہرت یافتہ ہے۔ ۵

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ“۔ محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ اسحاق حدیثیں گھڑتا تھا۔ ۶

حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”فِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ نَجِيحٍ كَذَّابٌ...“ اس روایت میں اسحاق بن نجیح کذاب ہے..... ۷

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”كَذَّبُوهُ“۔ محدثین نے اسحاق بن نجیح کو کذاب

کہا ہے۔ ۸

۱۔ الکامل فی الضعفاء: ۱/ ۵۳۰، رقم: ۱۵۵، الشیخ عادل والشیخ علی محمّد، دار الکتب العلمیة۔ بیروت، الطبعة الأولى ۱۳۱۸ھ۔

۲۔ تہذیب التہذیب: ۱/ ۱۲۹، ابن ابراہیم زبّی وعادل مرشد، مؤسّسة الرسالة۔ بیروت، الطبعة ۱۳۱۶ھ۔

۳۔ المصدر السابق۔

۴۔ المصدر السابق۔

۵۔ تلخیص کتاب الموضوعات: ص: ۳۰۵، رقم: ۸۳۷، عبدالرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة ۱۳۸۶ھ۔

۶۔ التقریب: ص: ۱۰۳، رقم: ۳۸۸، محمد عوّامة، دار الرشید۔ سوريا، الطبعة الرابعة ۱۳۱۸ھ۔

اسحاق بن نجیح کے بارے میں ائمہ رجال کے کلام کا خلاصہ:
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مذکورہ مرفوع طریق میں موجود اسحاق بن نجیح کے
 بارے میں ائمہ رجال کے اقوال آپ کے سامنے آچکے ہیں، ان اقوال سے ہی بخوبی
 اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مذکورہ مرفوع روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ساقط الاعتبار اور ناقابل
 بیان ہے، بہر حال مذکورہ مرفوع روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں محدثین کرام
 کے صریح اقوال آپ آئندہ ملاحظہ فرمائیں گے، اسی روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً میں
 ایک دوسرے راوی عثمان بن عبد اللہ کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال کا جاننا بھی
 ضروری ہے، ذیل میں انھیں اقوال کو لکھا جاتا ہے:

۲- عثمان بن عبد اللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان:

حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”وكان ضعيفاً والغالب على حديثه
 المناكير“۔ عثمان بن عبد اللہ ضعیف ہے، اس کی حدیثوں میں اکثر ”مناکیر“ ہیں۔ لہ
 حافظ ابن حبان رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”روى عن الليث بن سعد، ومالك، وابن
 لهيعة ويضع عليهم الحديث“۔ عثمان بن عبد اللہ، لیث بن سعد، مالک اور ابن
 لہیعہ سے احادیث نقل کرتا، اور ان پر احادیث گھڑتا تھا۔ ۱

حافظ ابن عدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”وهذه الأحاديث عن ابن لهيعة التي
 ذكرناها لا يروونها غير عثمان بن عبد الله هذا، وله "عثمان" غير ما ذكرنا من
 الأحاديث، أحاديث موضوعات“۔ ۲

جن حدیثوں کو میں نے ذکر کیا ہے، ان حدیثوں کو ابن لہیعہ سے عثمان ہی نقل

۱- تاریخ بغداد: ۱۳/۱۶۰، رقم: ۶۰۰۶، ت: الذکور بشار عواد، دار الغرب الاسلامی۔ بیروت،
 الطبعة ۱۴۲۲ھ۔

۲- المجروحین: عثمان بن عبد اللہ المغربي، ۲/۱۰۲، ت: محمود إبراهیم زاید، دار المعرفۃ بیروت۔
 ۳- الكامل: ۴/۳۰۲، رقم: ۱۳۳۶، الشیخ عادل والشیخ علی محمّد، دار الکتب العلمیۃ۔ بیروت،
 الطبعة الأولى ۱۴۱۸ھ۔

کرنے والا ہے، اور عثمان کی ان مذکورہ حدیثوں کے علاوہ بھی من گھڑت روایتیں ہیں۔

حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”مَتَّهَمٌ“۔ ۱۔

عثمان بن عبد اللہ المغربی ”متہم“ (شدید جرح) ہے۔

۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت:

ابو منصور الدیلمی رحمہ اللہ نے ”مسند الفردوس“ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت تخریج کی ہے، جس میں ”سِتِّينَ سَنَةً“ (ساٹھ) کے بجائے ”ثمانين سَنَةً“ (اٹھ) کے الفاظ ہیں، مسند الفردوس (یعنی بالسند) کی عدم دستیابی کے باعث میں اس سند پر مطلع نہیں، البتہ علامہ عراقی رحمہ اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس مرفوع روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

”وإسناده ضعیف جدًا“ اس حدیث کی سند شدید ضعیف ہے۔ ۲۔

اسلئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول یہ طریق بھی ساقط الاعتبار ہے، کیونکہ (عنقریب تفصیل سے آئے گا) جمہور علماء کے نزدیک، ضعیف حدیث پر فضائل کے باب میں عمل کرنا جائز ہے، البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تفریح کے مطابق اس جوازِ عمل کے لئے اتفاقی شرط یہ ہے کہ حدیث ضعیف، ضعفِ شدید سے خالی ہو۔

مرفوع حدیثوں کا خلاصہ اور ان کا فنی حکم:

گزشتہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سابقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے دونوں مرفوع طرق، شدید ترین مجروح راویوں پر مشتمل ہیں، اسلئے یہ مرفوع سندیں، فضائل کے باب میں بھی قابل بیان نہیں ہیں، بہر حال اس حوالے سے مزید تفصیل آگے بھی آئے گی، جس میں محدثین کرام نے

۱۔ المغنی فی الضعفاء: عثمان بن عبد اللہ بن عمرو: ۶۰۵/۱، رقم: ۳۰۳۳ ت: الذکور نور الدین عثر، إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر۔

۲۔ انظر، اتحاف السادة المتقين: كتاب التفكير: ۳۰۵/۱۳، دار الكتب العلمية بیروت۔

خاص ان مرفوع روایتوں کے ساقط الاعتبار ہونے کی تصریح کی ہے۔
یہاں تک مرفوع روایتوں پر کلام کا ایک حصہ مکمل ہو گیا، آئندہ موقوف طرق کی تحقیق لکھی جائے گی۔
موقوف طرق:

اس روایت کے موقوف طرق تین ہیں:

۱۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت

۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت

۳۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت

ذیل میں ہر موقوف روایت کو لکھا جائے گا، پھر آخر میں ان کا خلاصہ اور فنی حکم لکھا جائے گا۔

۱۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا موقوف طریق:

حافظ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اپنی ”مُصَنَّف“ لے میں لکھتے ہیں:

”حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مَرْثَةَ، عن سالم بن أبي الجعد، عن أم الدرداء رضی اللہ عنہا عن أبي الدرداء رضی اللہ عنہ قال: ”تفكر ساعة خير من قيام ليلة“۔“ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا غور و فکر رات بھر قیام سے بہتر ہے۔“

یہی روایت ”شعب الإيمان للبيهقي“ ۳، ”الزهد لأحمد بن حنبل“ ۳ اور ”طبقات الكبرى لابن سعد“ ۴ میں مختلف سندوں سے تخریج کی گئی ہے، اور

لے المصنف لابن أبي شيبة: ۱۹/۱۷۹، رقم: ۳۵۷۲۸، ت: الشيخ محمد عزام، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، الطبعة الثانية ۱۴۲۸ھ۔

۳ شعب الإيمان: ۱/۲۶۱، رقم: ۱۱۷، ت: الدكتور عبد العلي، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۳ھ۔

۴ الزهد لأحمد بن حنبل: زهد أبي الدرداء رضی اللہ عنہ ص: ۱۷۳، دار الكتب العلمية - بيروت۔

۵ طبقات الكبرى لابن سعد: تسمية من نزل بالشام: ۳۹۶/۹، الدكتور علي محمد عمر، المكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى ۱۴۲۱ھ۔

تمام سندیں زیر بحث سند میں مذکور ”ابو معاویہ“ پر آکر مشترک ہو جاتی ہیں۔

۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا موقوف طریق:

حافظ ابوالشیخ الاصبہانی رحمہ اللہ ”العظْمَة“ ۱۷ میں رقمطراز ہیں:

”حدثنا جعفر بن عبد الله بن الصباح، حدثنا محمد بن حاتم

المؤدب، حدثنا عمار بن محمد، عن ليث، عن سعيد بن جبیر، عن

ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ”تفكر ساعة خير من قيام ليلة“۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے ”ایک گھڑی کا غور و فکر رات بھر قیام سے

بہتر ہے۔“

۳۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا موقوف طریق:

علامہ سیوطی رحمہ اللہ ”اللائی المصنوعة“ ۱۷ میں رقمطراز ہیں:

”قال الديلمي، أنبأنا أحمد بن نصر، أنبأنا طاهر بن ملة، حدثنا صالح

بن أحمد، حدثنا علي بن إبراهيم القزويني، حدثنا إبراهيم بن

إسحاق النيسابوري، حدثنا محمد بن جعفر الودكاني، حدثنا سعيد

بن ميسرة سمعت أنس بن مالك يقول: ”تفكر ساعة في

اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ألف سنة“۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک فرماتے ہیں ”ایک گھڑی شب و روز کے بدلنے میں

غور و فکر کرنا، ہزار برس کی عبادت سے بہتر ہے۔“

سعيد بن ميسرة کے بارے میں ائمہ کے اقوال:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کی مذکورہ سند میں ایک راوی سعيد بن ميسرة ہے،

۱۷ العظْمَة: ما ذكر من الفضل في التفكير في ذلك: ۱/ ۲۹۷، ت: رضا، اللہ بن محمد إدريس، دار

العاصمة۔ بیروت۔

۱۷ اللائی المصنوعة: ۲/ ۲۷۶، محمد عبد المنعم رابع، دار الكتب العلمية۔ بیروت، الطبعة الثانية

جن کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ”لسان المیزان“ ۱ء میں لکھتے ہیں:
 ”قال البخاري: عنده مناكير وقال أيضاً منكر الحديث وقال ابن
 جبران: يروي الموضوعات - وقال الحاكم: روى عن أنس
 موضوعات وكذبه يحيى القطان“۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سعید بن مسیرہ کے پاس ”مناکیر“ ہیں، اور امام
 بخاری رحمہ اللہ نے سعید کو ”منکر الحدیث“ (کلمہ بھرج) بھی کہا ہے۔
 حافظ ابن جبران رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیرہ احادیث گھڑتا تھا۔ اور
 حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سعید، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نسبت سے حدیثیں گھڑتا تھا۔
 امام یحیی القطان رحمہ اللہ نے سعید کو جھوٹا قرار دیا ہے۔

موقوف طرق کا خلاصہ:

ثابت یہ ہوا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا موقوف طریق سعید بن مسیرہ کی
 وجہ سے قابل التفات نہیں، البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے موقوف
 طرق میں کوئی ایسا راوی نہیں جو شدید ضعیف ہو، اس لئے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہ
 کے یہ موقوف طرق قابل بیان ہیں، بہر حال ان موقوف طرق کے بارے میں محدثین
 کرام کے تفصیلی اقوال آپ آئندہ عبارتوں میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

اقوال و بلاغات:

یکل تین ہیں:

۱۔ حضرت حسن رحمہ اللہ کا طریق:

علامہ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ ”المصنف“ ۲ء میں لکھتے ہیں:

۱۔ لسان المیزان: ۴۸/۳، رقم: ۳۴۹۰، الشیخ عبد الفتاح أبو غنّہ، دار البشائر الإسلامية، الطبعة
 الأولى ۱۴۲۳ھ۔

۲۔ المصنف لابن أبي شيبه: ۳۴۳/۱۹، رقم: ۳۶۳۷۱، ت: الشیخ محمد عوامة، إدارة القرآن
 والعلوم الإسلامية، الطبعة الثانية ۱۴۲۸ھ۔

”حدثنا محمد بن فضیل عن العلاء عن الحسن رضی اللہ عنہ قال: تَفَكَّرَ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ“۔ ”حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک گھڑی کا غور و فکر رات بھر قیام سے بہتر ہے۔“

یہ روایت اسی سند کے ساتھ ”الزهد لأحمد بن حنبل“ ۱ میں بھی تخریج کی گئی ہے۔
۲۔ حضرت سمری سقطی کا قول:

ملا علی قاری رحمہ اللہ ”المصنوع“ ۱ میں لکھتے ہیں:
حدیث ”تَفَكَّرَ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ“۔ لیس بحديث إنما هو مِنْ
كَلَامِ السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔

حدیث: ”ایک گھڑی کا غور و فکر، سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔“ یہ
حدیث نہیں ہے، بلکہ سمری سقطی کا کلام ہے۔
مجھے اس قول کی سند نہیں مل سکی۔ (ازراقم الحروف)

۳۔ بلاغاتِ عمرو بن قیس ملاحی:

حافظ ابوالشیخ الاصبہانی رحمہ اللہ ”العظْمَة“ ۱ میں لکھتے ہیں:
”حدثنا محمد بن يحيى المزورى، حدثنا إسحاق بن الفنذر، حدثنا
يحيى بن المتوكل أبو عقيل، عن عمرو بن قيس الملائي قال: بَلَّغَنِي
أَنَّ تَفَكَّرَ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ دَهْرٍ مِنَ الدَّهْرِ“۔

عمرو بن قیس ملائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ”ایک گھڑی
کا غور و فکر، ایک زمانہ دراز کے عمل سے افضل ہے۔“

۱۔ الزهد لأحمد بن حنبل: زهد أبي الدر داہ رحمہ اللہ ص: ۱۷۳، دار الکتب العلمیہ بیروت۔

۲۔ المصنوع: ص: ۸۲، رقم: ۹۲، ت: الشیخ عبدالفتاح أبو غدة، ایچ۔ ایم۔ سعید کمپنی، کراچی۔ پاکستان۔

۳۔ العظْمَة: ما ذکر من الفضل فی التفکر فی ذلک: ۲۹۷/۱، رضاء اللہ بن محمد إدريس، دار

العاصمة۔ ریاض۔

ابو عبد اللہ عمرو بن قیس السملانی الکوفی کا مختصر تعارف:

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، حافظ عیسیٰ، امام ابو حاتم رحمہ اللہ، امام ابو زرہ رحمہ اللہ، ان سب محدثین نے موصوف کی توثیق کی ہے، ابن جبران رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”کان من ثقات أهل الكوفة و مثقینہم، و عباد اہل بلدہ و قرائہم۔“

عمرو بن قیس رحمہ اللہ کوفہ کے ثقہ اور متقن لوگوں میں تھے، اور ان کا شمار شہر کے عبادت گزار اور قراء لوگوں میں ہوتا تھا، آپ کا انتقال ۱۴۰ھ کے چند سال بعد ہوا ہے۔ لہٰذا اقوال و بلاغات کا خلاصہ اور ان کا فنی حکم:

اس مضمون پر مشتمل اقوال حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت سمری سقلی رحمہ اللہ سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ عمرو بن قیس رحمہ اللہ کی بلاغات (جس میں راوی کہتا ہے کہ فلاں سے مجھے یہ خبر پہنچی ہے) میں بھی یہ مضمون ثابت اور قابل بیان ہے۔ ایک اہم تنبیہ:

یہاں تک زیر بحث روایت کے مرفوع و موقوف طرق اور بلاغات کی تفصیل سامنے آچکی ہے، جن میں مرفوع، موقوف طرق، اور بلاغات کا فنی حکم بھی کافی حد تک سامنے آچکا ہے، ذیل میں ان محدثین کرام کے اقوال لکھے جائیں گے، جنہوں نے اس روایت کے مرفوع و موقوف طرق اور بلاغات پر کلام کرتے ہوئے ان کا فنی حکم بھی بیان کیا ہے، گزشتہ تفصیلات سمجھنے کے بعد اب ان اقوال کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، ان اقوال کے بعد ان کا خلاصہ اور آخر میں تمام مرفوع و موقوف طرق اور بلاغات کے فنی احکام کا خلاصہ لکھا جائے گا۔

روایت پر محدثین کا کلام:

۱- حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ ”الموضوعات“ لے میں لکھتے ہیں:

”وفي الإسناد كذا بان...“۔ یعنی سند میں دو جھوٹے ہیں.....“، اس کے بعد حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اسحاق بن نجیح اور عثمان بن عبد اللہ القرشی کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال جرح ذکر کئے ہیں، جسے ہم ماقبل میں تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔

۲- حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ ذہبی رحمہ اللہ ”تلخیص الموضوعات“ لے میں تحریر فرماتے ہیں: ”فيه إسحاق بن نجیح كذاب عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة“۔ اس حدیث میں اسحاق بن نجیح کذاب ہے.....“۔

۳- علامہ عبد الرؤف المناوی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ عبد الرؤف المناوی رحمہ اللہ ”التيسير بشرح الجامع الصغير“ لے میں رقمطراز ہیں: ”(أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة) بإسناد وإيه بل قيل موضوع“۔ ابو الشيخ رحمہ اللہ نے ”كتاب العظمة“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ”واھی“ (کلمہ جرح) سند کے ساتھ اس حدیث کی تخریج کی ہے، بلکہ اسے موضوع کہا گیا ہے۔

۴- حافظ شوکانی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ شوکانی رحمہ اللہ ”الفوائد المجموعة“ لے میں تبصرہ فرماتے ہیں: ”رواه أبو

لے الموضوعات: باب ثواب الفكر، ۱۳۳/۳، ت: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية۔ المدينة المنورة، الطبعة الأولى ۱۳۸۶ھ۔

لے تلخیص الموضوعات: ص: ۳۰۵، رقم: ۸۳۷، ت: أبو تمیم یاسر، مكتبة الرشيد الرياض۔

لے التيسير: ۳۳۶/۲، مكتبة الإمام الشافعي۔ الرياض، الطبعة الثالثة ۱۴۰۸ھ۔

لے الفوائد المجموعة: كتاب الزهد...، ص: ۲۳۲، رقم: ۷۷، ت: عبد الرحمن بن يحيى، دار الكتب

العلمية۔ بيروت، الطبعة ۱۴۱۲ھ۔

الشیخ عن أبي هريرة مرفوعاً وفي إسناده عثمان بن عبد الله القرشي وإسحاق بن نجیح المَلَطِي كَذَّابَانِ وَالْمُتَّهَمُ بِهِ أَحَدُهُمَا۔ ابوالشیخ رحمہ اللہ نے یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کی ہے، اور حدیث کی سند میں عثمان بن عبد اللہ قرشی وإسحاق بن نجیح مَلَطِي کذاب ہیں، اور اس حدیث میں دونوں میں سے کوئی ایک متہم ہے۔

۵۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا کلام:

ملا علی قاری رحمہ اللہ ”المصنوع“ لہ میں لکھتے ہیں: ”حدیث: تَفَكَّرُوا سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ۔“۔ لیس بحديث، إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔“

حدیث ”ایک گھڑی کا غور و فکر، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے“، یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ سری سقطی رحمہ اللہ کا کلام ہے۔

۶۔ علامہ محمد بن درویش الحوت رحمہ اللہ کا کلام:

موصوف ”أسنى المطالب“ لہ میں تحریر فرماتے ہیں:

حدیث ”تَفَكَّرُوا سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ۔ أَوْ سَتِينَ سَنَةٍ۔ وَبَلْفُظْ ”فَتَفَكَّرُوا سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ۔“۔ يُنْسَبُ إِلَى السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ وَيُنْسَبُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ وَإِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ رضی اللہ عنہ وَلَيْسَ مِنَ الْمَرْفُوعِ۔“

حدیث: ”ایک گھڑی کا غور و فکر، ایک سال یا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے“، اور بعض حدیثوں میں یہ الفاظ آئے ہیں: ”ایک گھڑی کا غور و فکر رات بھر عبادت سے بہتر ہے“۔ اس حدیث کا انتساب سری سقطی رحمہ اللہ کی طرف ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے، البتہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے۔

۷۔ علامہ اسماعیل بن محمد العجلمونی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ عجمونی رحمہ اللہ ”کشف الخفاء ومزید الإلباس“ ۱۷ میں رقمطراز ہیں:
 ”تَفَكَّرُ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ - وفي لفظ: ”سِتِّينَ سَنَةً“ ذكره الفاكهاني
 بلفظ: فَكَّرَ سَاعَةً وقال: إِنَّهُ مِنْ كَلَامِ السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ، وفي لفظ: ”سِتِّينَ
 سَنَةً“، وذكره في الجامع الصغير بلفظ: ”فَكَّرُهُ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَتِينَ
 سَنَةً“، وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي الدرداء رضي الله عنهما بلفظ: ”فِكْرُهُ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ
 عِبَادَةِ سَتِينَ سَنَةً“۔

حدیث: ”ایک گھڑی کا غور و فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے“، بعض
 روایتوں میں (سال کی جگہ) ساٹھ برس کا ذکر ہے، علامہ فاکہانی رحمہ اللہ نے
 (تفکر ساعۃ کی جگہ) ”فکر ساعۃ“ کے لفظوں سے اس کی تخریج کی ہے، اور کہا
 ہے کہ یہ سری سقطی رحمہ اللہ کا قول ہے، (اور اسی طرح) بعض روایتوں میں
 (سال کی جگہ) ساٹھ برس کا ذکر ہے۔

اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ”الجامع الصغير“ میں یہ الفاظ ذکر کیے ہیں: ”ایک
 گھڑی کا غور و فکر ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے“، اور یہ حدیث حضرت ابن
 عباس رضي الله عنهما اور حضرت ابو الدرداء رضي الله عنهما سے ان الفاظ سے منقول ہے: ”ایک گھڑی کا
 غور و فکر ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے“۔

۸۔ علامہ عراقی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ عراقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”آخر جه ابن حبان رحمہ اللہ في كتاب العظيمة من حديث أبي هريرة بلفظ
 سِتِّينَ سَنَةً بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ
 وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بلفظ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ“۔ ۷

یہ روایت ابن جہان رضی اللہ عنہ نے ”کتاب العظْمَة“ میں سندِ ضعیف کے ساتھ ان لفظوں سے تخریج کی ہے: ”سِتِّینَ سَنَةً“ (ساٹھ برس) اور ابن جوزی رضی اللہ عنہ نے ”الموضوعات“ میں ابن جہان رضی اللہ عنہ کی سند سے اسے ذکر کیا ہے، اور ابوالشیخ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے طور پر اس کی تخریج کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں ”خِیْرٌ مِنْ قِیَامِ لَیْلَةٍ“۔ ”..... رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے“۔

۹- حافظ ابن عَرَّاق رضی اللہ عنہ کا کلام:

علامہ ابن عَرَّاق رضی اللہ عنہ ”تنزیہ الشریعة“ لہ میں رقمطراز ہیں: ”(بخ) فی العِظْمَةِ مِنْ حَدِیْثِ أَبِي هُرَیْرَةَ رضی اللہ عنہ وَفِیْهِ عِثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاسْحَاقُ بْنُ نَجِیْحٍ (تعقب) بِأَنَّ الْحَافِظَ الْعِرَاقِيَّ اقْتَصَرَ فِي تَخْرِیْجِ الْإِحْيَاءِ عَلَى تَضْعِیْفِهِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِیْثِ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الدَّیْلَمِيُّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ قِیْسٍ الْمَلَائِمِيِّ بَلَّغَنِي أَنَّ تَفَكُّرَ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ ذَهْرٍ مِنَ الدَّهْرِ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي الْعِظْمَةِ“۔

یہ روایت ابوالشیخ رضی اللہ عنہ نے ”کتاب العِظْمَةِ“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً تخریج کی ہے، اور اس حدیث میں عثمان بن عبد اللہ و اسحاق بن نجیح ہیں۔ (ابن عَرَّاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ) تعاقب کیا گیا ہے (مراد یہ ہے کہ علامہ سیوطی رضی اللہ عنہ نے علامہ ابن جوزی رضی اللہ عنہ کا تعاقب کیا ہے) کہ حافظ عراقی رضی اللہ عنہ نے احادیثِ احیاء کی تخریج میں اسے ضعیف کہنے پر اقتصار کیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اس کا شاہد بھی ہے (یہاں شاہد سے مراد حضرت انس رضی اللہ عنہ کا موقوف طریق ہے، کیوں کہ علامہ سیوطی رضی اللہ عنہ نے اللاحی میں اس موقوف روایت ہی کو بطور شاہد ذکر کیا ہے) جسے دیلمی رضی اللہ عنہ نے تخریج کیا ہے، اور عمرو بن قیس ملائی کی بلاغات میں ہے: ”ایک گھڑی کا غور و فکر ایک زمانہ دراز کے عمل سے افضل ہے“، اس روایت کو ابوالشیخ رضی اللہ عنہ

نے تخریج کیا ہے۔

واضح رہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تعاقب ”اللائی المصنوعة“ لہ میں اسی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، جس کی مزید وضاحت آگے آئے گی۔

حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً کے بارے میں ائمہ کرام کے کلام کا خلاصہ:

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد الرؤف المناوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات کے مطابق حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً موضوع ہے، اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن درویش الخوت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً کے مرفوع (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) ہونے کی نفی کی ہے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن عثر اق رحمۃ اللہ علیہ کا تعاقب:

اس روایت کے مرفوع ہونے کو جن محدثین عظام نے من گھڑت اور موضوع قرار دیا ہے، ان کے اقوال تفصیل سے گزر چکے ہیں، البتہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً کے موضوع ہونے کی نفی کی ہے، اور حافظ ابن عثر اق رحمۃ اللہ علیہ نے ”تنزیہ الشریعہ“ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اعتماد کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کو ہم تفصیل سے لکھیں گے، تاکہ تعاقب کی وضاحت ہو سکے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا تعاقب دو امور پر مشتمل ہے:

۱- علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً کو محض ضعیف کہا ہے، موضوع نہیں کہا، چنانچہ فضائل کے باب میں اس روایت کو بیان کرنا درست ہے۔

۲- اسی طرح حافظ ابن عثر اق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے سابقہ تعاقب کی تائید کی ہے، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری دلیل یہ ذکر کی ہے کہ حدیث ابی

ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً کے مضمون پر مشتمل موقوف روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جسے امام دیلمی رحمہ اللہ نے تخریج کیا ہے، دوسرے لفظوں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی موقوف روایت، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً کیلئے شاہد ہے، چنانچہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً کے ثبوت کو اس شاہد سے مزید تقویت ملتی ہے اور حافظ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ نے بھی علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے ان دونوں تعاقبات پر اعتماد کیا ہے۔

تعاقبات پر تبصرہ:

ان تعاقبات کے جائزے سے قبل، اصول حدیث کے دو قواعد کا جاننا ضروری ہے:

۱۔ جمہور علماء کے نزدیک ضعیف حدیث پر فضائل کے باب میں عمل کرنا جائز ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس جوازِ عمل کے لئے اتفاقی شرط یہ قرار دی ہے کہ حدیث ضعیف ضعیف شدید سے خالی ہو، چنانچہ حافظ سخاوی رحمہ اللہ ”القول البدیع“ لہ میں فرماتے ہیں: سَمِعْتُ شَيْخَنَا ابْنَ حَجَرَ أَيَّ الْعَسْكَلَانِي الْمَصْرِيِّ مِزَاراً - وَكَتَبَهُ لِي بِخَطِّهِ - يَقُولُ: شَرَطُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ ثَلَاثَةٌ: الْأَوَّلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الضَّعْفُ غَيْرَ شَدِيدٍ فَيُخْرِجُ مَنْ انْفَرَدَ مِنَ الْكَذَّابِينَ وَالْمُتَّهَمِينَ وَمَنْ فَحَشَ غَلَطُهُ ...“

”میں نے اپنے شیخ حافظ ابن حجر سے کئی دفعہ سنا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مجھے اپنی تحریر سے یہ شرائط لکھ کر بھی دیں۔ ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لئے تین شرائط ہیں: پہلی شرط اتفاقی ہے کہ ضعیف شدید نہ ہو، لہذا اس شرط سے وہ کذابین، متہمین اور فاحش الغلط نکل گئے، جو نقل روایت میں منفرد ہوں.....“

۲۔ ایک دوسرا فنی قاعدہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ ائمہ حدیث ”ضعیف“ کا اطلاق ضعیف خفیف اور ضعیف شدید دونوں پر کر لیا کرتے ہیں (یہ محض اطلاق کی حد تک

ہے، عملاً یہ دونوں الگ الگ قسمیں ہیں) کتب مشہرات و موضوعات میں اس کا بخوبی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، اس لئے ایسے مقامات پر جہاں مطلقاً ضعیف کہا گیا ہو، شواہد کو دیکھتے ہوئے ضعیف کی تعیین، خفیف یا شدید سے کی جاتی ہے۔

پہلے تعاقب پر تبصرہ:

اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ واضح رہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا تعاقب اور علامہ ابن عَرَّاق کا اس پر تقریر اور اعتماد محل نظر ہے، کیونکہ آپ ائمہ حدیث کی سابقہ تفصیلات کی روشنی میں جان چکے ہیں کہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً میں عثمان بن عبد اللہ القرشی اور اسحاق بن نجیح رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں راوی انتہائی شدید جرح سے مقدوح ہیں، خصوصاً اسحاق بن نجیح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، ابوسعید النقاش رحمۃ اللہ علیہ، حافظ برقی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کے شدید ترین صیغے (الفاظ) استعمال کیے ہیں، مثلاً:

”كَذَّبَ النَّاسُ“۔ (امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ)

”كَذَّابٌ، عَدُوٌّ لِلَّهِ (اللہ کا دشمن)، رَجُلٌ سُوءٌ (بُرا شخص)، خَبِيثٌ“۔

(یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ)

جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا، صاف حدیثیں گھڑتا تھا۔ (ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ)

اسحاق حدیث تراشنے میں شہرت یافتہ تھا۔ (ابوسعید النقاش رحمۃ اللہ علیہ)

اسحاق جھوٹ کی طرف منسوب ہے۔ (حافظ برقی رحمۃ اللہ علیہ)

”مُتْرُوكُ الْحَدِيثِ“۔ (امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ)

”مُنْكَرُ الْحَدِيثِ“۔ (امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ)

”..... ان روایتوں کو اسحاق ہی نے وضع کیا ہے.....“۔ (حافظ ابوالاحد ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ)

اس روایت میں اسحاق بن نجیح کذاب ہے۔ (حافظ ذہبی رحمہ اللہ)

محدثین نے اسحاق بن نجیح کو کذاب کہا ہے۔ (حافظ ابن حجر رحمہ اللہ)

یہ بھی واضح رہے کہ علامہ زین الدین عراقی رحمہ اللہ (۸۰۶ھ) متاخرین محدثین میں ہیں، جن کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ روایات سند میں متقدمین کے کلام کی طرف مراجعت اور ان پر اعتماد کریں، زیر بحث سند میں انہیں متقدمین و متاخرین ائمہ رجال کا عثمان بن عبد اللہ القرشی اور اسحاق بن نجیح رحمہ اللہ پر شدید کلام آپ مشاہدہ کر چکے ہیں، اس لیے جب علامہ عراقی رحمہ اللہ کا مطلق قول ”یاسناد ضعیف“، ضعف خفیف اور ضعف شدید دونوں کا احتمال رکھتا ہے، تو اس کا وہی معنی مراد لینا چاہیے جو کم از کم ان کے مراجع (یعنی اقوال متقدمین) سے بالکل خارج نہ ہو بلکہ ان میں کسی کے موافق ہو، چنانچہ بے غبار بات یہی ہے کہ اس زیر بحث سند کے بارے میں علامہ عراقی رحمہ اللہ کے قول ”یاسناد ضعیف“ میں ضعف سے مراد ضعف شدید ہے، نہ کہ ضعف خفیف اور آپ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بھی جان چکے ہیں کہ فضائل کے باب میں ضعیف حدیث کو بیان کرنے کے لئے اتفاقی شرط یہ ہے کہ وہ شدید ضعف سے خالی ہو، چنانچہ ان تمام قرآن قویہ کی روشنی میں، قرین قیاس یہی ہے کہ علامہ عراقی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً شدید ضعیف اور ناقابل بیان ہے۔

دوسرے تعاقب پر تبصرہ:

نیز علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً کے لیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے موقوف طریق کو بطور شاہد ذکر کرنا بھی محل نظر ہے، کیونکہ اس موقوف سند میں ایک راوی سعید بن مسیرہ بھی ضعف شدید سے خالی نہیں (سعید بن مسیرہ کے بارے میں تفصیل ”لسان المیزان“ کے حوالے سے گزر چکی ہے)، البتہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے موقوف طرق، معتبر سند سے ثابت ہیں، اور یہ طرق

حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً کے لئے شاہد بن سکتے ہیں بلکہ شاہد ہیں، اور یہ بھی واضح رہے کہ اصول حدیث کے مطابق یہ موقوف شواہد، اگرچہ حکماً مرفوع ہیں (کیونکہ اس حدیث میں آخرت کے ثواب پر مشتمل مضمون ہے، جو شارع علیہ السلام ہی کا کلام ہو سکتا ہے) اور موقوفاً قابل بیان بھی ہیں، لیکن ان شواہد کے ثبوت سے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حقیقتاً مرفوع ہونا لازم نہیں آتا، حقیقی مرفوع روایت کا ثبوت صرف اس وقت ہوگا، جب وہ روایت بذات خود کسی معتبر سند سے ثابت ہو جائے، دوسرے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسے کلام کا انتساب ہو سکتا ہے جو بذات خود کسی معتبر سند سے ثابت ہو جائے، اور آپ تفصیل سے جائزہ لے چکے ہیں کہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً ساقط الاعتبار ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کو منسوب کرنا بھی درست نہیں ہے، اگرچہ یہ روایت موقوفاً ثابت اور قابل بیان ہے۔

نتائج:

ابتدا میں ہم نے زیر بحث حدیث کے طرق کو چار حصوں پر تقسیم کیا تھا پھر ان کو تفصیل سے لکھا، اب یہاں ہر قسم کے نتائج ذکر کئے جائیں گے:

۱- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کی طرف منسوب مرفوع طرق ساقط الاعتبار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اس روایت کو بیان کرنا جائز نہیں۔ واضح رہے کہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً کے الفاظ یہ ہیں:

”تفکر ساعة خیر من عبادة ستين سنة“۔

ایک گھڑی کا غور و فکر ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔

حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ مرفوعاً میں ”ستين سنة“ (ساٹھ برس) کی جگہ ”ثمانين سنة“ (اسی سال) کے الفاظ ہیں۔

۲- حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے موقوف طرق ثابت ہیں اور انہیں موقوفاً بیان کرنا درست ہے (دونوں آثار کے الفاظ آگے آئیں گے)۔

ایک اہم وضاحت:

یہاں ایک اہم بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مذکورہ موقوف طرق مرفوع کے حکم میں ہیں؛ کیونکہ اس میں مذکورہ مضمون صاحب شریعت ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، جس سے ان طرق کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، البتہ مرفوع طریق ثابت نہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اسے بیان کرنا درست نہیں ہے، بہر حال حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے موقوف طرق کے الفاظ یہ ہیں:

”تفکر ساعة خیر من قیام لیلۃ“ ایک گھڑی کا غور و فکر ساری رات کی عبادت

سے بہتر ہے

البتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا موقوف طریق سعید بن مسیرہ کی وجہ سے قابل التفات نہیں، اس لیے اسے بھی بیان نہیں کر سکتے، اثر کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

”تفکر ساعة في اختلاف الليل والنهار خیر من عبادۃ ألف سنة“۔

شب و روز کے بدلنے میں ایک گھڑی کا غور و فکر، ہزار برس کی عبادت سے

بہتر ہے۔

۳- یہ بھی ثابت ہے کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

”تفکر ساعة خیر من قیام لیلۃ“۔ ایک گھڑی کا غور و فکر رات بھر کی عبادت

سے بہتر ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ قول غالباً آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے بلا نسبت نقل کیا ہے۔

۴- اس مضمون کا بلاغات عمرو بن قیس رضی اللہ عنہ الملای رضی اللہ عنہ میں ہونا بھی ثابت ہے، جس

کے الفاظ دوسروں سے مختلف ہیں، یعنی عمرو بن قیس رضی اللہ عنہ الملای رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”بَلَعْنِي أَنْ تَفْكَرَ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ ذَهْرٍ مِنَ الذَّهَرِ“۔

مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ”ایک گھڑی کا غور و فکر، ایک زمانہ دراز کے عمل سے بہتر ہے“۔

۵۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ کا قول ہونا بھی ثابت ہے، جس کے الفاظ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھے ہیں: ”تفکر ساعة خیر من عبادة سنة“۔ ایک گھڑی کا غورو فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔
بعض محدثین نے حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ کی طرف اس کے علاوہ دوسرے الفاظ بھی منسوب کئے ہیں۔

خاتمہ:

یہاں تمہ میں ہم دو حکایتیں نقل کر کے ان کا فنی مقام ذکر کریں گے۔ یہ دونوں حکایتیں بھی چونکہ ”تفکر“ (غورو فکر) کے سابقہ مضامین پر مشتمل ہیں، اس لئے یہاں اسے ضمناً ذکر کیا جا رہا ہے۔

۱۔ پہلی حکایت:

اسماعیل حقی بن مصطفیٰ الاستانولی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تفسیر روح البیان“ لے میں یہ حکایت بلا سند صیغہ مجہول ”روی“ کے ساتھ ذکر کی ہے، یہ تفسیر ”تفسیر حقی“ کے نام سے بھی مشہور ہے، اس حکایت کا حاصل یہ ہے:

حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا ”تفکر ساعة خیر من عبادة سنة“۔
”ایک گھڑی کا غورو فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے“۔

پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا: ”تفکر ساعة خیر من عبادة سبع سنين“ ”ایک گھڑی کا غورو فکر سات سال کی عبادت سے بہتر ہے“۔

پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ

حدیث سنائی: ”تفکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة“۔ ”ایک گھڑی کا غور و فکر ستر برس کی عبادت سے بہتر ہے۔“

حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ عرض کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان سب نے سچ کہا ہے، انہیں میرے پاس بلاؤ۔ جب یہ حضرات حاضر خدمت ہو گئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”کیف تفکرک؟ وفیما ذاک؟“ تمہاری فکر کیسی تھی اور کس چیز کے بارے میں تھی؟۔

جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ (آل عمران: ۱۹۱) سَبَّحْهُمْ؛ ”اور وہ لوگ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں“۔ میں غور کر رہا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: ”فَإِنَّ تَفَكَّرَكَ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ“۔ ”بلا شبہ تمہارا غور و فکر، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا: ”تَفَكَّرِي فِي الْمَوْتِ، وَهَوْلِ الْمَطْلَعِ“۔ لے

میری سوچ و فکر موت، اور روز قیامت حاضری کے خوف میں ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تفکرک خیر من عبادة سبع سنین“۔ ”تمہارا غور و فکر، سات سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“

پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے غور و فکر کی وجہ دریافت کی، تو آپ نے عرض کیا: ”تَفَكَّرِي فِي النَّارِ وَفِي أَهْوَالِهَا، وَأَقُولُ: يَا رَبِّ! اجْعَلْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْعَظَمِ بِحَالِي يَمْلَأُ [كذا في الأصل والصحيح تملأ] النَّارُ مِنِّي حَتَّى تَصْدُقَ

لے المَطْلَعُ: یرید بہ الموقف يوم القيامة أو ما يشرّف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت، فشبهه بالمطلع الذي يشرّف عليه من موضع عالي۔ کذا في لسان الغرب: طلع، ۲۸۳/۸، ت: عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية۔ بیروت، الطبعة الأولى ۲۰۰۳ھ۔

وَعَذَابُكَ، وَلَا تُعَذِّبْ أُمَّةً مُّحَمَّدٍ فِي النَّارِ۔ یعنی میں جہنم اور اس کی ہولناکیوں کو سوچتے سوچتے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اے میرے رب! روز قیامت میرے جسم کو اتنا بڑا کر دیجئے کہ دوزخ کی ساری آگ بس میرے ہی جسم کا احاطہ کئے ہو (اور دیگر امتیوں کو جلانے کے لئے آگ باقی ہی نہ رہے) تاکہ آپ کا وعدہ سچا ہو جائے، لیکن امت محمد ﷺ کو دوزخ کی آگ کے عذاب میں مبتلا نہ فرمائیں۔

اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تفکّرک خیر من عبادۃ سبعین سنۃ۔“ ”تمہارا غور و فکر کرنا ستر برس کی عبادت سے بہتر ہے۔“ پھر فرمایا: ”أَرَأَيْتَ أُمَّتِي بَأْتِي أَبُو بَكْرٍ۔“ ”میری امت میں لوگوں پر سب سے زیادہ شفیق ابو بکر ہیں۔“

۲- دوسری حکایت:

یہ واقعہ عام طور پر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے سارے مدینہ والوں کی دعوت کی، اسی دوران اچانک رسول اللہ ﷺ کی نظر ایک صحابی پر پڑی، جو کسی گہری سوچ میں تھے، آپ ﷺ نے پوچھا: عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے مدینہ والوں کی دعوت کی ہے اور تم یہاں بیٹھے کیا غور و فکر کر رہے ہو؟ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے: یا رسول اللہ! میں یہاں اسی فکر میں بیٹھا ہوں کہ کیسے آپ ﷺ کا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے؟ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر عبدالرحمن ہزار سال بھی مدینہ والوں کی دعوت کرتا رہے، تو تمہارے ثواب کو نہیں پاسکتا۔

حکایات کا فنی حکم:


ان دونوں حکایتوں کا فنی حکم یہ ہے کہ یہ بے سند ہیں، اور رسول اللہ ﷺ کی طرف صرف ایسا امر ہی منسوب ہو سکتا ہے، جو پایہ ثبوت تک پہنچ چکا ہو، بصورت دیگر وہ روایت قابل التفات و بیان نہیں رہتی، چنانچہ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ ”المصنوع

في معرفة الحديث الموضوع للعلامة عليّ القاري “ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

”وإذا كان الحديث لا إسناد له، فلا قيمة له ولا يلتفت إليه، إذا لا اعتماد
 في نقل كلام سيدنا رسول الله ﷺ إلينا، إنما هو على الإسناد
 الصحيح الثابت أو ما يقع موقعه وما ليس كذلك فلا قيمة له“۔^۱

اور جب حدیث کی سند ہی نہ ہو، تو وہ بے قیمت، اور غیر قابل التفات ہے،
 کیونکہ ہماری جانب ہمارے آقا رسول اللہ ﷺ کے کلام کو نقل کرنے میں
 اعتماد صرف اسی سند پر ہو سکتا ہے، جو صحیح سند سے ثابت ہو یا جو اس کے قائم
 مقام ہو، اور جو حدیث ایسی نہ ہو تو وہ بے قیمت ہے۔

حاصل یہ ہے کہ یہ دونوں حکایتیں کسی معتبر سند سے ثابت نہیں ہیں؛ چنانچہ ان کو
 رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔



روایت نمبر: (۶)

سُنن کا ایک بڑا ذخیرہ سقیم سندوں کی شکل میں محفوظ ہے، ان سقیم روایتوں کے لئے محدثین کرام نے ایسے فنی اصول وضع کیے ہیں، جن کی روشنی میں ان احادیث کو اُن کا فنی مقام دیا جاتا ہے، چنانچہ جمہور علما کے نزدیک فضائل کے باب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس جوازِ عمل کے لئے تین بنیادی شرائط ذکر کی ہیں، جن کو حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے ”القول البدیع“ میں نقل کیا ہے، موصوف فرماتے ہیں:

”سمعتُ شيخنا ابن حجر أي العسقلاني المصري مزاراً - وكتبه لي بخطه يقول: شَرَطُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ ثَلَاثَةٌ: الْأَوَّلُ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الضَّعْفُ غَيْرَ شَدِيدٍ فَيُخْرِجُ مَنْ أَتَقَرَّدَ مِنَ الْكَذَّابِينَ وَالْمُتَّهَمِينَ وَمَنْ فَحَشَ غَلَطُهُ. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُنْذَرٍ جَاءَتْحَتِ أَصْلُ عَامٍ، فَيُخْرِجُ مَا يُخْتَرَعُ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ أَصْلٌ أَصْلًا. وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يُعْتَقَدَ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ ثَبُوتُهُ؛ لِثَلَاثٍ تُنْسَبُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْهُ. قَالَ: وَالْأَخِيرَانِ عَنِ ابْنِ السَّلَامِ وَابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ، وَالْأَوَّلُ نَقْلُ الْعَلَائِي الْأَتْفَاقِ عَلَيْهِ“۔

میں نے اپنے شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے کئی دفعہ سنا ہے - اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مجھے اپنی قلم سے یہ شرائط لکھ کر بھی دیں - ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لئے تین شرائط ہیں: پہلی شرط اتفاقی ہے کہ ضعف شدید نہ ہو، لہذا اس شرط سے وہ کذابین اور متہمین اور فاحش الغلط رواۃ نکل گئے، جو

نقل روایت میں منفرد (تہا) ہوں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ روایت دین کے اصل عام کے تحت داخل ہو، اس شرط سے وہ روایتیں نکل گئیں جو گھڑی گئی ہوں، اس طور پر کہ ان کی کوئی اصل نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حدیث پر عمل کرتے وقت ثبوت حدیث کا اعتقاد نہ ہو، تاکہ آپ ﷺ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے، جو آپ ﷺ نے نہ فرمائی ہو۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مزید فرمایا: آخری دو شرطیں ابن عبد السلام رحمہ اللہ اور ابن دُقیق العید رحمہ اللہ سے منقول ہے، اور شرط اول پر علامہ علائی رحمہ اللہ نے علما کا اتفاق نقل کیا ہے۔ اس دینی انحطاط کے دور میں ان شرائط کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ محدثین کرام کے اسی منہج کے پیش نظر، ذیل میں ایک ایسی حدیث کی فنی تحقیق ذکر کی جائی گی، جس میں مذکورہ شرائط میں سے شرط اول مفقود ہے جس کا مقتضی یہ تھا کہ اسے فضائل کے باب میں بھی بیان کرنے سے احتراز کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود یہ روایت زبان زد عام ہے۔

تحقیق روایت:

آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو اس حالت میں پاؤں کہ میں عشاء کی نماز میں مشغول ہوں اور سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں، اسی دوران میری والدہ مجھے پکار کر کہے: اے محمد! تو میں جواب اپنی والدہ سے کہوں گا: حاضر ہوں!“۔

تحقیق کا اجمالی خاکہ:

واضح رہے کہ اس حدیث کی تحقیق چار اجزاء پر مشتمل ہے:

۱- حدیث کی تخریج

- ۲- روایت پر ائمہ حدیث کا کلام
 ۳- متہم راوی پر ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال
 ۴- گزشتہ تفصیلات سے مانخوذ روایت کا حکم

تخریج حدیث:

امام بیہقی رحمہ اللہ (المتوفی ۴۳۵ھ) ”شعب الایمان“ لے میں رقمطراز ہیں:
 أخبرنا أبو الحسن بن بشران أن أبو جعفر الرزاز، نا يحيى بن جعفر، أنا
 زيد بن الحباب، نا ياسين بن معاذ، نا عبد الله بن قزير عن طلق بن
 علي رحمہ اللہ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ”لو أدركتُ والديَّ أو
 أخذتهما وأنا في صلاة العشاء وقد قرأتُ فيها بفاتحة الكتاب، تُنادي يا
 مُحَمَّد! أحبُّها إليك“۔ ياسين بن معاذ ضعيف۔

ترجمہ: حضرت طلق بن علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کو
 فرماتے ہوئے سنا: ”اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو اس
 حالت میں پاؤں کہ میں عشاء کی نماز میں مشغول ہوں اور سورہ فاتحہ پڑھ
 چکا ہوں، اسی دوران میری والدہ مجھے پکار کر کہے: اے محمد! تو میں جواب
 اپنی والدہ سے کہوں گا: میں حاضر ہوں!“۔ (امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں)
 اس روایت میں یاسین بن معاذ ضعیف راوی ہے۔

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ (۵۹۷ھ) نے ”الموضوعات“ لے میں یہی روایت
 اس سند سے ذکر کی ہے: ”أنا أبو الحسن علي بن أحمد الموحّد، أنا نا هناد بن
 إبراهيم النسفي، حدثنا أبو الحسن عفيف بن محمد الخطيب، حدثنا أبو بكر

لے شعب الایمان: الخامس والخمسون من شعب الایمان، ۲۸۳/۱۰، رقم: ۷۴۹۷، الدكتور عبد
 العلي، مكتبة الرشيد الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۳ھ۔

لے الموضوعات: باب بر الوالدین: ۸۵/۳، عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة
 المنورة، الطبعة ۱۳۸۶ھ۔

محمد بن أحمد بن حبيب، حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا أبو بكر ياسين بن معاذ، حدثنا عبد الله بن قرين، عن طلحة بن علي رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: لو أدر كُتُ والذي أو أحدهما... الحديث۔

واضح رہے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی ذکر کردہ دونوں سندوں میں راوی أبو بكر ياسين بن معاذ الزيات متکلم فیہ ہے، جن کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال عنقریب تفصیل سے لکھے جائیں گے۔

نسخوں کے اختلاف پر مشتمل دواہم تنبیہات:

یہاں اختلاف نسخ سے متعلق دواہم قابل ذکر ہیں:

۱۔ ”شعب الإيمان“ کی سند میں یاسین بن معاذ، عبد اللہ بن قریر سے اس روایت نقل کرنے والے ہیں، لیکن حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ”کتاب الموضوعات“ یہ لفظ عبد اللہ بن قرین لکھا ہے، واضح رہے کہ صحیح عبد اللہ بن قریر ہے، اور عبد اللہ بن قرین تصحیف (تبدیلی) ہے، کیونکہ حافظ ابن ماکولا رحمہ اللہ نے ”الإكمال في رفع الارتياب“ لہ میں عبد اللہ بن قریر کے عنوان سے ترجمہ قائم کیا ہے، پھر لکھتے ہیں: ”حَدَّثَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْيَمَانِيِّ، رَوَى عَنْهُ يَاسِينَ الزِّيَّاتُ“۔ یعنی عبد اللہ بن قریر، طلحہ بن علی رحمہ اللہ سے، اور یاسین الزيات، عبد اللہ بن قریر سے روایت نقل کرنے والے ہیں، چنانچہ ثابت ہوا کہ زیر بحث سند میں راوی عبد اللہ بن قریر ہی ہے، اور عبد اللہ بن قرین تصحیف (تبدیلی) ہے، کیونکہ اس سند میں عبد اللہ بن قریر، طلحہ بن علی رحمہ اللہ سے، اور یاسین الزيات، عبد اللہ بن قریر سے روایت نقل کرنے والے ہیں۔

۲۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ”شعب الإيمان“ کی عبارت میں لفظ ”تَنَادِي“ (میری والدہ مجھے پکارے) ہے، چنانچہ ترجمہ بھی اسی لفظ کے مطابق (میری والدہ مجھے پکارے.....) کیا گیا ہے، البتہ ”کتاب الموضوعات لابن الجوزي“ میں یہ

لفظ ”یٰنَادِی“ (صیغہ مذکر) لکھا ہے، اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا: ”میرے والد یا والدین میں سے کوئی ایک مجھے پکارے.....“۔

روایت پر محدثین کا کلام:

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ (۵۹۷ھ)، حافظ ذہبی رحمہ اللہ (المتوفی ۷۴۸ھ)، حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ (المتوفی ۸۰۶ھ)، علامہ سیوطی رحمہ اللہ (المتوفی ۹۱۱ھ) علامہ ابن عراق رحمہ اللہ (المتوفی ۹۶۳ھ) اور امام شوکانی رحمہ اللہ (المتوفی ۱۲۵۰ھ)، ان تمام محدثین نے اپنی تصنیفات میں اس حدیث کا حکم بیان کیا ہے، ذیل میں ہر ایک کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا، اور آخر میں ان تمام اقوال کا خلاصہ بھی لکھا جائے گا:

۱- امام بیہقی رحمہ اللہ کا کلام:

امام بیہقی رحمہ اللہ تخریج روایت کے بعد فرماتے ہیں:

”اس روایت میں یاسین بن معاذ ضعیف راوی ہے۔“

امام بیہقی رحمہ اللہ کے کلام کی وضاحت:

امام بیہقی رحمہ اللہ کے کلام کو سمجھنے سے قبل محدثین کرام کے ایک عملی منہج کا جاننا ضروری ہے، ذیل میں اس منہج کو بیان کرنے کے بعد امام بیہقی رحمہ اللہ کے کلام کی وضاحت کی جائے گی۔

واضح رہے کہ محدثین کرام لفظ ”ضعیف“ کا اطلاق ”ضعف خفیف“ اور ”ضعف شدید“ دونوں کے لئے کرتے ہیں، اس صورت میں قرآن سے پہچانا جاتا ہے کہ یہاں ”ضعیف“ سے کیا مراد ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی ”شعب الإیمان“ میں صرف ایسی روایتیں لانے کا اہتمام کیا ہے جو امام بیہقی رحمہ اللہ کے نزدیک ”جھوٹی“ نہیں ہے، البتہ یہ ممکن ہے کہ روایت یا سند کے راوی ضعیف شدید یا ضعف خفیف پر مشتمل ہوں، چنانچہ امام بیہقی رحمہ اللہ ”شعب الإیمان“ کے ”مقدمہ“ میں لکھتے ہیں:

”وَأَنَا عَلَى رِسْمِ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَحِبُّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَسَانِيدِ وَالْحِكَايَاتِ بِأَسَانِيدِهَا، وَالِاقْتِصَارِ عَلَى مَا لَا يَغْلِبُ عَلَى الْقَلْبِ كَوْنُهُ كَذْبًا“۔

”اور میں محدثین کے طریقہ کار کے مطابق اپنی ضرورت کی مسانید اور حکایات کو ان کی سندوں کے ساتھ لانا پسند کرتا ہوں، اور صرف وہی حدیث ذکر کروں گا جن کے بارے میں میرا یہ گمان ہو کہ یہ حدیث جھوٹ نہیں ہے۔“

اب ظاہر ہے کہ روایت کا شدید یا خفیف ضعیف ہونا، روایت کے جھوٹا ہونے کے علاوہ دو الگ قسمیں ہیں، ان اقسام کے ”شعب الایمان“ میں موجود ہونے کی امام بیہقی رحمہ اللہ نے نفی نہیں کی ہے، یہی وجہ ہے کہ ”شعب الایمان“ کی اسانید کی طرف مراجعت کرنے والے افراد بخوبی جانتے ہیں کہ ”شعب الایمان“ کی سندیں شدید ضعیف راویوں سے خالی نہیں ہیں۔

اس تفصیل کے بعد ہم زیر بحث روایت پر امام بیہقی رحمہ اللہ کے کلام کا جائزہ لیتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے زیر بحث روایت کی تخریج کرنے کے بعد لکھا ہے: ”اس روایت میں یاسین بن معاذ ضعیف راوی ہے۔“

یہاں بھی لفظ ”ضعیف“ میں دونوں احتمال ہیں: یعنی ضعف شدید اور ضعف خفیف، اور آپ سابقہ کلام سے بخوبی جان چکے ہیں کہ فضائل کے باب میں ضعف روایت کو بیان کرنا جائز ہے، لیکن اس جواز کی بنیادی شرط حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ وہ روایت ضعف شدید سے خالی ہو، اب یہاں حتمی طور پر بندہ کے سامنے کوئی واضح قرآن نہیں ہیں جن سے ان دونوں احتمالات میں کسی ایک کی تعیین کی جاسکے، البتہ آئندہ تفصیلات کی روشنی میں یہ تو امر واضح ہے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ کے اس قول کو (صراحت نہ ہونے کی وجہ سے) محض ضعف خفیف پر محمول کرنا بعید از قیاس ہے، بلکہ اس روایت کے بارے میں دیگر ائمہ کی صریح عبارتوں کی جانب رجوع کرنا چاہیے، جو ہم عنقریب لکھیں گے واللہ اعلم۔

۲- علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ (۵۹۷ھ) ”الموضوعات“ لہ میں لکھتے ہیں: ”هذا موضوع على رسول الله ﷺ وفيه ياسين، قال يحيى: ليس حديثه بشييء، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان رحمه الله: يروي الموضوعات عن الثقات، ويتفرد بالمعضلات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به“۔

یہ حدیث رسول اللہ ﷺ پر گھڑی گئی ہے، اور اس روایت کی سند میں یاسین ہے، جن کے بارے میں یحییٰ نے ”لیس حدیثہ بشیعی“ (جرح) اور نسائی رحمہ اللہ نے ”متروک الحدیث“ (شدید جرح) کہا ہے، اور ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یاسین ثقہ راویوں کی طرف منسوب کر کے روایتیں گھڑتا تھا، اور وہ ”اثبات“ (معتبر) اور ثقہ راویوں سے ”معضل“ (وہ روایت جس میں دو یا دو سے زائد راوی ساقط ہوں) روایتیں نقل کرنے میں متفرد (تنہا) ہوتا ہے، (چنانچہ) یاسین سے احتجاج جائز نہیں ہے۔

۳- علامہ ذہبی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ ذہبی رحمہ اللہ (المتوفی ۷۴۸ھ) ”تلخیص کتاب الموضوعات“ ۲ میں لکھتے ہیں: ”فيه ياسين بن معاذ - متروك - ثنا عبد الله بن قرين، عن طلق بن علي ولكن في سنده هناد النسفي هالِكٌ“۔ اس حدیث کی سند میں یاسین بن معاذ - متروک - (شدید کلمہ جرح) ہے، یاسین نے عبد اللہ بن قرین، اور عبد اللہ نے طلق بن علی سے یہ روایت نقل کی ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں ہناد نسفی ”ہالک“ (شدید کلمہ جرح) بھی ہے۔

ہناد نسفی کے بارے میں کلام آگے آئے گا۔

۱۔ الموضوعات: باب بر الوالدین: ۸۵/۳، ت: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة ۱۳۸۶ھ۔

۲۔ تلخیص الموضوعات: کتاب البر، ص: ۲۷۹، رقم: ۷۵۲، ت: أبو تمیم یاسر، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۱۹ھ۔

۴- حافظ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۲۵۰ھ) ”الفوائد المجموعة“ لے میں لکھتے ہیں: ”ہو موضوع، آفتہ یاسین بن معاذ“۔ یہ حدیث من گھڑت ہے، اس میں یاسین بن معاذ آفت (شدید کلمہ جرح) ہے۔

۵- حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

حافظ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۹۰۲ھ) نے ”المقاصد الحسنة“ ۷ میں زیر بحث روایت کو حدیث جرتج کے لئے بطور شاہد ذکر کیا ہے، حدیث جرتج یہ ہے: ”لو كان جريج فقيهاً عالماً لعلم أن إجابته دعاء أمه أولى من عبادة ربّه عز وجل“۔ ”اگر جرتج فقیہ عالم ہوتا، تو وہ جان لیتا کہ ماں کی پکار کا جواب دینا، رب کی عبادت سے اولیٰ ہے“۔

حدیث جرتج کی وضاحت:

حافظ حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ”مسند“ میں ”حدیث جریج“ کی تخریج کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”فتح الباری“ ۷ میں جرتج کی مذکورہ روایت میں ”یزید بن خُوشب الفہری“ کو مجہول قرار دیا ہے، ملاحظہ ہو:

وقد روى الحسن بن سفیان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن خُوشب عن أبيه قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ”لو كان جريج عالماً لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربّه“۔ ويزيد هذا مجهول۔
آپ ﷺ کا ارشاد ہے ”اگر جرتج عالم ہوتا، تو وہ جان لیتا کہ ماں کی پکار کا جواب دینا رب کی عبادت سے اولیٰ ہے“۔

لے الفوائد المجموعة: كتاب الأدب والزهد والطب وعبادة المريض، ۲۳۰/۱، رقم: ۳۵، ت: عبد الرحمن بن يحيى، الطبعة ۱۴۱۶ھ۔

لے المقاصد الحسنة: حرف اللام، ص: ۳۹۹، رقم: ۸۹۸، ت: عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ۱۴۲۷ھ۔

لے فتح الباري: كتاب العمل في الصلاة باب: إذا دعت الأم والدعاء... ۷۸/۳، دار المعرفة، بيروت۔

(حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں) اس حدیث کی سند میں یزید مجہول راوی ہے۔

۶۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ سیوطی رحمہ اللہ (المتوفی ۹۱۱ھ) نے ”اللائی المصنوعة“ لے میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کا تعاقب کرتے ہوئے لکھا ہے: ”(قلْتُ) أخرجه البيهقي في الشعب والله أعلم“۔ میں (امام سیوطی رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ بیہقی رحمہ اللہ نے ”شعب الإيمان“ میں اس حدیث کی تخریج کی ہے واللہ اعلم۔

۷۔ حافظ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ ابن عراق رحمہ اللہ (المتوفی ۹۶۳ھ) ”تنزيه الشريعة“ لے میں حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ کے کلام اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے تعاقب کو نقل کر کے لکھتے ہیں: ”قلْتُ: وكذلك أشار الذهبي في تلخيص الموضوعات“ إلى ضَعْفِهِ مِنْ جِهَةِ يَاسِينَ ثم استدلَّ رُكَّ فقال ولكن في سَنَدِهِ هَذَا النَسْفِي والله أعلم“۔ میں (ابن عَرَّاق رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ ذہبی رحمہ اللہ نے ”تلخيص الموضوعات“ میں یاسین کی جانب سے اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کیا تھا، پھر حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے استدراک کہا: لیکن اس حدیث کی سند میں ہناد النسفی ہے واللہ اعلم۔

واضح رہے کہ ”هناد النسفی“ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی سند میں ہے لیکن علامہ بیہقی رحمہ اللہ کی سند میں نہیں ہے؛ اس لئے ہناد النسفی کی مجردیت بیہقی رحمہ اللہ کی سند کے لئے مضر نہیں ہے، البتہ دوسرا متکلم فیہ راوی، یاسین بن معاذ دونوں سندوں میں ہے۔

روایت پر کلام کا خلاصہ:

محدثین عظام کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ

اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے یاسین بن معاذ الزیات کو تمہ قرار دے کر اس روایت کو ”موضوع“ کہا ہے، البتہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے زیر بحث روایت تخریج کرنے کے بعد ”یاسین بن معاذ ضعیف“ کہنے پر اقتصار کیا ہے، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے تعاقب میں صرف بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کی ہے اور مزید کوئی کلام نہیں کیا، اسی طرح حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جریج کے لئے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو بطور شاہد نقل کیا ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ کلام کی تفصیل ہم لکھ چکے ہیں کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام، محدثین کے منہج کے مطابق ضعیف خفیف اور ضعیف شدید دونوں کا احتمال رکھتا ہے، اس لئے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول روایت کے قابل بیان ہونے کے لئے ہرگز کافی نہیں ہے۔ بہر حال یہ بات بخوبی معلوم ہو چکی ہے کہ اس روایت میں محدثین کرام کے کلام کا مدار یاسین بن معاذ ہے، لہذا ذیل میں یاسین بن معاذ کے بارے میں ائمہ رجال کے تفصیلی اقوال لکھے جائیں گے۔

ابو خلف یاسین بن معاذ الزیات کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال:

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ”میزان الاعتدال“ لے میں لکھتے ہیں:

”وَكَانَ مِنْ كِبَارِ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ وَمُفْتِيهَا، وَأَصْلُهُ يَمَامِي، يَكْنَى أَبَا خَلْفٍ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَابْنُ الْجُنَيْدِ: مَتْرُوكٌ۔ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ رحمۃ اللہ علیہ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ...“

یاسین بن معاذ کا شمار کوفہ کے بڑے فقہاء اور مفتیوں میں ہوتا تھا، یاسین اصل میں یمامہ کا رہنے والا تھا، جس کی کنیت ابو خلف تھی، یاسین کے بارے میں ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ”لیس حدیثہ بشیئ“ (کلمہ جرح)، بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”منکر الحدیث“ (کلمہ جرح) اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جنید رحمۃ اللہ علیہ نے

”متروک“ (کلمہ جرح) کہا ہے، اور ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیثیں گھڑتا تھا.....“۔

ابو حاتم محمد بن ادريس التیمی رحمہ اللہ لے فرماتے ہیں:

”كان رجلاً صالحاً، لا يَغْفُلُ مَا يُحَدِّثُ بِهِ، ليس بقوي، مُتَكَوِّرُ الْحَدِيثِ“۔
 یاسین نیک شخص تھا، جن حدیثوں کو بیان کرتا تھا وہ خود بھی انھیں نہیں سمجھتا تھا، یاسین ”قوی“ نہیں تھا، ”منکر الحدیث“ (کلمہ جرح) تھا۔

امام ابوسعید عبدالکریم بن محمد التیمی السمعانی رحمہ اللہ ”الأنساب“ لے میں فرماتے ہیں:
 مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، انْتَقَلَ إِلَى الْيَمَامَةِ وَأَقَامَ، ثُمَّ سَكَنَ الْحِجَازَ، يَرْوِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَالزُّهْرِيِّ، رَوَى عَنْهُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، كَانَ مِمَّنْ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ، وَيَتَفَرَّدُ بِالْمُعْضَلَاتِ عَنِ الْأَثْبَاتِ، لَا يَجُوزُ الِاجْتِنَاجُ بِهِ بِحَالٍ“۔

یاسین کو فی تھا، پھر یمامہ منتقل ہو کر وہاں اقامت اختیار کی، پھر حجاز میں سکونت اختیار کر لی، ابوالزبیر اور زہری سے روایت نقل کرتا تھا، اور عبدالرزاق، یاسین سے حدیث نقل کرتا، یاسین ثقہ راویوں کی طرف منسوب کر کے روایتیں گھڑتا تھا، اور ”اثبات“ (معتبر اور ثقہ راویوں) سے ”مُعْضَل“ (وہ روایت جس میں دو یا دو سے زائد راوی ساقط ہوں) روایتیں نقل کرنے میں متفرد (تنہا) ہوتا تھا، (چنانچہ) یاسین سے احتجاج بہر صورت جائز نہیں ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (۸۵۲ھ) ”لسان المیزان“ لے میں رقمطراز ہیں:

”وقال الجوزجاني: لم يَرْضِ النَّاسُ حَدِيثَهُ، وقال النسائي في

لہ الجرح والتعديل: باب الأيام، ۳۸۰/۹، رقم الترجمة: ۱۷۰۰۵، ت: مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۲ھ۔

لہ الأنساب: باب الزاء والياء، ۲۰۳۳، رقم الترجمة: ۳۸۸۱، ت: محمد عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۹ھ۔

لہ لسان الميزان: ۳۱۳/۸، رقم: ۸۳۰۵، ت: عبد الفتاح أبو غنم، دار البشائر الإسلامية-بيروت، الطبعة ۱۴۲۳ھ۔

”التمیز“: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه، وقال أبو زرعة: ضعيف۔
 وقال أبو داود: كان يذهب إلى الإرجاء، وهو متروك الحديث،
 ضعيف، وهو يبيع الزيت أعلم منه بالعلم۔ وقال ابن عدي: وكل
 رواياته أو عامتها غير محفوظة۔ قال الحاكم والنقاش: روى
 المناكير۔ وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم۔ وذكره
 العُقَيْلي، والدولابي، وابن الجارود، وابن شاهين في ”الضعفاء“۔

اور جوز جانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ یاسین کی حدیثوں سے راضی نہیں
 تھے۔ نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یاسین ”ثقة“ نہیں ہے، اور اس کی
 حدیثیں نہ لکھی جائیں۔

أبو زرعة رحمہ اللہ نے یاسین کو ”ضعیف“ کہا ہے، اور أبو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
 وہ ”إرجاء“ کی جانب چلتا تھا، اور وہ ”متروک الحدیث“ (کلمہ جرح)، اور
 ”ضعیف“ ہے، اور وہ علم سے زیادہ تیل بیچنا جانتا تھا۔

ابن عدي رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یاسین کی ساری یا اکثر حدیثیں ”محموظ“ نہیں ہیں۔
 حاکم رحمہ اللہ اور نقاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یاسین ”مناکیر“ (کلمہ جرح)
 نقل کرتا تھا۔

خليل رحمہ اللہ نے یاسین کو ”ضعیف جداً“ (کلمہ جرح) کہا ہے۔
 اور أبو احمد حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یاسین محدثین کے نزدیک ”قوي“ نہیں تھا۔
 اور دولابی رحمہ اللہ، ابن جارود رحمہ اللہ، اور ابن شاہین رحمہ اللہ نے یاسین کو ”ضعیف“
 کہا ہے۔

ائمہ رجال کے اقوال کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم:

یاسین بن معاذ کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال آپ کے سامنے تفصیل
 سے آچکے ہیں، ان تمام ائمہ رجال نے یاسین بن معاذ کو ضعیف ہی قرار دیا ہے، اور

علامہ ابن حبان رحمہ اللہ، حافظ ابو حاتم رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، حافظ ابن جنید رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام خلیلی رحمہ اللہ، امام حاکم رحمہ اللہ، حافظ نقاش رحمہ اللہ، امام ابن جوزی رحمہ اللہ، حافظ سمعانی رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ وغیرہ تمام محدثین نے یاسین بن معاذ کے بارے میں صاف اور جرح کے شدید فنی الفاظ استعمال کیے ہیں، مثلاً:

”مُنْكَوَرُ الْحَدِيث“ (امام بخاری رحمہ اللہ یہ کلمہ اکثر شدید جرح کے لئے استعمال کرتے ہیں)۔

”متروک“ (امام نسائی رحمہ اللہ، حافظ ابن جنید رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ)۔

”ضعیف جداً“ (حافظ خلیلی رحمہ اللہ)۔

”متروک الحدیث“ (حافظ ابو زرعہ رحمہ اللہ)۔

یاسین ثقہ راویوں کی طرف منسوب کر کے روایتیں گھڑتا تھا (حافظ سمعانی رحمہ اللہ،

حافظ ابن حبان رحمہ اللہ)۔

اس حدیث میں یاسین بن معاذ آفت ہے (علامہ شوکانی رحمہ اللہ)۔

حاصل یہ ہے کہ ان متقدمین و متاخرین علماء کی سابقہ تصریحات کے مطابق، زیر بحث روایت کسی بھی طرح ضعفِ شدید سے خالی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ”موضوع“ تک کہا ہے، اس لئے ان تمام نصوص کا قدر مشترک اور اتفاقی نتیجہ یہی ہے کہ یہ روایت ضعفِ شدید سے کسی بھی صورت میں خالی نہیں رہ سکتی، اس لئے زیر بحث روایت کو فضائل کے باب میں بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جمہور علماء کے نزدیک ضعیف حدیث پر اگرچہ فضائل کے باب میں عمل کرنا جائز ہے، البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات گزر چکی ہے کہ اس جوازِ عمل کے لئے اتفاقی شرط یہ ہے کہ حدیث ضعیف، ضعفِ شدید سے خالی ہو۔

ایک اہم نکتہ:

یہاں ایک دوسرا اہم نکتہ بھی مد نظر رہے کہ ائمہ سابقین یعنی امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابو حاتم رحمہ اللہ، حافظ ابن عدی رحمہ اللہ، امام حاکم رحمہ اللہ، امام نقاش رحمہ اللہ اور علامہ سَمْعَانِی رحمہ اللہ نے یاسین بن معاذ کے بارے میں یہ وضاحت بھی صاف لفظوں میں کی ہے کہ یاسین ”منکر الحدیث“ ہے اور وہ ”مناکیر“ نقل کرتا تھا، نیز ان کی روایتیں غیر محفوظ ہیں جن میں وہ متفرد (تہا) ہوتا ہے، اب آپ یاسین بن معاذ کی زیر بحث روایت کو ان اقوال کی روشنی میں عین منطبق پائیں گے، کیونکہ یہ روایت مجروح راوی یاسین بن معاذ کی سند ہی سے مروی ہے، اور وہ اس میں متفرد ہے (یعنی یاسین بن معاذ کے علاوہ کوئی دوسرا راوی اس روایت کو نقل کرنے والا نہیں ہے) نیز ظاہری حدیث بھی نکارت پر مشتمل ہے، چنانچہ اصول حدیث کے مطابق یہ روایت منکر بھی کہلائے گی۔ حاصل یہ ہے کہ یاسین بن معاذ جیسے راوی کی حدیث تفرّد اور نکارت کی صورت میں، روایت کو مزید ”ساقط الاعتبار“ بنا دیتی ہے۔

روایت کا فنی حکم:

یہاں تک کی توضیحات کا بے غبار نتیجہ تکرار سے ماقبل میں آتا رہا ہے کہ زیر تبصرہ روایت، بہر صورت ضعف شدید پر مشتمل ہے، اور اسے حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے من گھڑت کہا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق جمہور علماء کے نزدیک فضائل کے باب میں بھی ایسی روایت بیان کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے۔

روایت نمبر: (۷)

رسالت مآب ﷺ کی ذات اقدس مجسم فضائل و مناقب ہے، اور ہر مسلمان دل و جان سے آپ ﷺ کے ان معجزات و کمالات کا معترف ہے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ آپ ﷺ کی معجزانہ شان میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ ﷺ کے تمام تر شواہد مستند دلائل سے ثابت ہیں، جن میں کسی خود ساختہ مداخلت کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، اسی پر اعلام امت کا اجماع ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو آپ ﷺ کے مناقب پر مشتمل من گھڑت روایت سے آگاہ کیا جائے، تو اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ جب آپ ﷺ کے بے شمار معجزات ہیں، تو اس روایت کو رسول اللہ ﷺ کی طرف انتساب کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ سوال بظاہر معصومانہ لہجہ رکھتا ہے، لیکن اگر شریعت اسلامیہ میں ایسی غیر مستند اور غیر مستند باتوں کا سد باب نہ ہوتا تو وہ منہ پر ہو کر رہ جاتی، چنانچہ آپ ﷺ نے بذات خود انتہائی اہتمام سے ان بے جا مداخلتوں پر سخت وعید بیان کی ہے:

”مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“۔ ۱

”جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔“

ذیل میں آپ ﷺ کے مناقب پر مشتمل ایک ایسی ہی روایت بیان کی جائے گی، جو من گھڑت ہونے کے باوجود زبان زد عام ہے۔

عنوان روایت:

نور محمدی ﷺ سے اندھیرے میں گمشدہ سوئی کی چمک۔

۱۔ الجامع الصحيح للبخاري: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ۱/ ۳۳، رقم الحديث:

۱۰۷۷، محمد زهير بن الناصر، دار طوق النجاة بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۲ھ۔

تحقیق کا اجمالی خاکہ:

روایت کی تحقیق چار اجزاء پر مشتمل ہے:

- ۱- مصادرِ اصلیہ سے روایت کی تخریج
- ۲- روایت پر علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام
- ۳- سند کے متکلم فیہ راوی پر ائمہ کا کلام
- ۴- ائمہ رجال کے کلام کا خلاصہ اور روایت کافی حکم

مصادرِ اصلیہ سے روایت کی تخریج:

حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ ”تاریخ دمشق“ لہ میں رقم طراز ہیں:

”أخبرنا أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الفاضل التوقاني - بها - أنبأنا أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي، (أنبأنا الحسن الحافظ قراءة، أنبأنا أبو إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله التاجر السمرقندي) - بها - أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن يحيى بن الفضل بن عبد الله الفارسي، أنبأنا أبو الحسن بن علي بن الحسين الجرجاني الحافظ السمرقندي، أنبأنا مسعدة بن بكر الفرغاني بمزور، وأنا سألتُه فأملَى علي بعد جهدي، أنبأنا محمد بن أحمد بن أبي عون، أنبأنا عمار بن الحسن، أنبأنا سلمة بن الفضل بن عبد الله، عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن يزيد بن رومان وصالح بن كيسان عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت:

استعزْتُ مِنْ حَفْصَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ ابْنَةِ كَنْتُ أَخِيضُ بِهَا ثَوْبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَقَطَتْ مِنِّي الْإِبْرَةُ، فَطَلَبْتُهَا فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهَا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَبَيَّنَتْ الْإِبْرَةُ مِنْ شُعَاعِ نَوْرِ وَجْهِهِ فَضَحِكْتُ فَقَالَ:

لہ تاریخ دمشق: باب صفة خلقه ومعرفة خلقه، ۳/ ۳۱۰، ت: محب الدين أبو سعيد، دار الفكر،

بيروت، الطبعة ۱۳۱۵ھ۔

يَا حُمَيْرُ! لِمَ ضَجَّكَتِ؟ قُلْتُ: كَانَ كَيْتٌ وَكَيْتٌ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "يَا عَائِشَةُ! الْوَيْلُ لِمِ الْوَيْلُ - ثَلَاثًا - لِمَنْ حَرَّمَ النَّظَرَ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ، مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا كَافِرٍ إِلَّا وَيَسْتَهْيِي أَنْ يُنْظَرَ إِلَى وَجْهِهِ"۔

”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حفصہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا سے ایک سوئی عاریتاً لی، جس سے میں رسول اللہ ﷺ کا کپڑا ہی رہی تھی، مجھ سے وہ سوئی نیچے گر پڑی، میں نے اسے تلاش کیا مگر وہ مجھے نہیں ملی، اچانک رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے، آپ کے نورانی چہرے کی شعاع سے سوئی نظر آگئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ہنس پڑی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے حُمَیر! تم کیوں ہنس رہی تھی؟“ میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، آپ ﷺ نے با آواز بلند فرمایا: ”اے عائشہ! ہلاکت ہے! پھر ہلاکت ہے! (یہ جملہ تین مرتبہ فرمایا) اس شخص کے لیے جو اس چہرے کو دیکھنے سے محروم ہو جائے، ہر مؤمن و کافر کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ میرے چہرے کا دیدار کر لے۔“

یہ روایت حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ کے علاوہ، علامہ اسماعیل بن محمد بن فضل بن علی القرشی رحمہ اللہ نے ”دلائل النبوة“ لے میں اپنی سند سے تخریج کی ہے، دونوں سندیں زیر بحث سند میں مذکور ابو محمد السمر قندی پر آکر مشترک ہو جاتی ہیں۔

روایت پر علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ ”الآثار المرفوعة“ لے میں لکھتے ہیں:

”... وَمِنْهَا مَا يَذْكُرُ الْوَعَاظُ عِنْدَ ذِكْرِ الْحُسَيْنِ الْمُحَمَّدِيِّ أَنَّهُ فِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي سَقَطَتْ مِنْ يَدِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِبْرَتُهُ، فَقَقِدَتْ فَالْتَمَسَتْهَا وَلَمْ

تَجِدُ، فَضَحَكَ النَّبِيُّ وَخَرَجَتْ لَمْعَةُ أَسْنَانِهِ فَأَضَاءَتْ الْحَجَرَةَ وَرَأَتْ عَائِشَةَ بِذَلِكَ إِبْرَتَهُ۔

وہذا وإن كان مذکوراً فی مَعَارِجِ النُّبُوَّةِ وَغیره مِنْ کُتُبِ السِّیرِ -
الجامعة لِلرُّطَبِ وَالتَّيَابِسِ، فلا یستند بِکُلِّ مَا فیہَا إِلَّا التَّائِمُ وَالتَّائِسُ -
ولکنہ لم یثبت روایۃ ودرایۃ۔

”..... ان من گھڑت قصوں میں ایک وہ قصہ بھی ہے، جسے واعظین آپ ﷺ کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں۔ (قصہ یہ ہے کہ) ایک شب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ سے سوئی نیچے گر پڑی، آپ رضی اللہ عنہا نے سوئی کو تلاش کیا لیکن سوئی نہیں ملی، پھر آپ ﷺ ہنسے، اور آپ ﷺ کے دانتوں سے ایک روشنی اور چمک نکلی، جس نے حجرے کو روشن کر دیا، اور اس کی روشنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سوئی مل گئی۔

یہ قصہ اگرچہ ”معارج النبوة“ اور سیرت کی دیگر کتب میں مذکور ہے۔ جو رطب ویابس پر مشتمل ہیں، ان کتب کی ہر چیز پر اعتماد صرف وہ ہی شخص کر سکتا ہے جو سوراہا ہو اور اونگھ رہا ہو۔ لیکن عقل و نقل کسی حیثیت سے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔“

زیر بحث روایت کی سند پر کلام:

اس روایت میں ایک راوی ”مُسْعَدَةُ بْنُ بَكْرِ الْفَرَّغَانِي“ شدید متکلم فیہ ہے، جن کے بارے میں ائمہ رجال کا کلام ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

مُسْعَدَةُ بْنُ بَكْرِ الْفَرَّغَانِي کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال:

۱- حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ ذہبی رحمہ اللہ ”میزان الاعتدال“ لے میں لکھتے ہیں: ”عن مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ

بن ابی عون بخبر کذب۔“ مسعدہ نے محمد بن احمد بن ابی عون سے ایک جھوٹی خبر نقل کی ہے۔

۲- حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ”میزان الاعتدال“ کی عبارت ”لسان المیزان“ لے میں نقل کر کے رقم طراز ہیں:

ولم أرف على الخبر بعد ووجدت له حديثاً آخر۔ قال الدار قطنی في
”غرائب مالک“ أبو سعيد مسعدة بن بكر بن يوسف الفرغان، قدم
حاجاً، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو معصب، عن مالک، عن
نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه: ”سئل المنافق مثل الشاة
العائرة... الحديث“۔ قال الدار قطنی: هذا باطل بهذا الإسناد،
والحسن وأبو معصب ثقتان ولكن هذا الشيخ توهمه فمتر فيه وانقلب
عليه إسناده، والله أعلم۔

میں اب تک اس خبر پر واقف نہیں ہو سکا (یعنی حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے جس کو
مسعدہ کی جھوٹی خبر کہا ہے) البتہ مجھے مسعدہ کی ایک دوسری حدیث ملی ہے، (وہ
حدیث یہ ہے) دار قطنی رحمہ اللہ ”غرائب مالک“ میں لکھتے ہیں:

ابوسعید مسعدہ بن بکر یوسف الفرغانی حج کے لیے آئے تو ہمیں حدیث بیان کی،
وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حسن بن سفيان نے حدیث بیان کی، حسن فرماتے ہیں کہ ہمیں
ابو معصب نے، اور وہ مالک سے، اور وہ نافع سے، اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد نقل کرتے ہیں: ”منافق کی مثال دو ریوڑوں کے درمیان اس پریشان بکری کی
جی ہے..... دار قطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سند سے باطل ہے، اور اس
حدیث کی سند میں حسن اور ابو معصب ثقہ راوی ہیں، لیکن ان شیخ (مسعدہ) کو اس

لے لسان المیزان: ۸/۳۰، رقم: ۶۸۰، الشیخ عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية بحلب،
الطبعة الأولى ۱۴۲۳ھ۔

حدیث میں وہم ہوا ہے، چنانچہ شیخ اس میں یونہی گزر گئے ہیں، حالانکہ ان پر اس حدیث کی سند خلط ہو گئی ہے (یعنی سند تبدیل ہو چکی ہے)۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے کلام میں تین امور قابل ضبط (تحریر) ہیں:

۱- حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے جس خبر کو مسعدہ کی جھوٹی خبر کہا ہے، میں اب تک اس خبر پر مطلع نہیں ہو سکا ہوں۔

۲- البتہ مسعدہ کی ایک دوسری روایت ”غرائب مالک“ میں موجود ہے، جسے حافظ دارقطنی رحمہ اللہ نے خاص اس سند کے ساتھ باطل قرار دیا ہے، اور سند میں باقی راویوں کو ثقہ قرار دیکر، صرف مسعدہ پر کلام کیا ہے۔

۳- یہ واضح رہے کہ یہ روایت امام دارقطنی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق خاص اس سند کے ساتھ باطل ہے، البتہ دیگر سندوں سے یہ روایت ثابت ہے، بلکہ یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی ”جامع“ لے میں ذکر کی ہے، ملاحظہ ہو:

”... عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ”مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعْبُرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً“۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: ”منافق کی مثال دو ریوڑوں کے درمیان اس پریشان بکری کی طرح ہے، جو کبھی اس ریوڑ میں چرتی ہے اور کبھی اُس ریوڑ میں چرتی ہے“۔

۳- حافظ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ ”تنزیہ الشریعة“ ۲ لے میں لکھتے ہیں: ”مسعدہ بن بکر الفَرَّغَانِي عن محمد بن أحمد بن أبي عون بن خبر كذب“۔ مسعدہ نے، محمد بن أحمد بن أبي عون سے ایک جھوٹی خبر نقل کی ہے۔

لے الجامع الصحيح لمسلم: کتاب صفات المنافقين وأحكامهم، ۲/۱۲۶، رقم: ۲۷۸۳، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الکتب العلمیہ۔ بیروت۔

لے تنزیہ الشریعة: ۱/۱۱۶، رقم: ۳۶۷، عبد الوہاب عبد اللطیف و عبد اللہ محمد الصدیق، دار الکتب العلمیہ۔ بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۰۱ھ۔

حافظ ابن عزا ق رحمہ اللہ کا مذکورہ کلام درحقیقت حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا کلام ہے۔ واضح رہے کہ زیر بحث سند میں مسندۃ اس روایت کو محمد بن أحمد بن ابی عون سے نقل کرنے والے ہیں، اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی۔

ائمہ رجال کے کلام کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم:

زیر بحث سند کے راوی مسندۃ بن بکر الفرغانی کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق مسندۃ متہم بالکذب ہے، کیونکہ مسندۃ نے، محمد بن أحمد بن ابی عون سے ایک جھوٹی خبر نقل کی ہے، یہی جرح حافظ ابن عزا ق رحمہ اللہ نے بھی مسندۃ کے بارے میں نقل کی ہے، البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حافظ ذہبی کے کلام کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ مجھے اب تک مسندۃ کی یہ جھوٹی خبر نہیں ملی، پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”غرائب مالک“ سے مسندۃ کی ایک دوسری حدیث نقل کی ہے، جسے امام دارقطنی رحمہ اللہ نے خاص اس سند کے ساتھ باطل قرار دیا ہے، اور اس باطل روایت میں مسندۃ کو ”متکلم فیہ“ بتایا ہے۔

بہر حال ان تمام اقوال کا حاصل یہی ہے کہ مسندۃ متہم بالکذب راوی ہے، نیز علامہ عبد الحمی رحمہ اللہ بھی صاف لفظوں میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ زیر بحث روایت من گھڑت ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق جمہور علما کے نزدیک، ضعیف حدیث پر فضائل کے باب میں عمل کرنا جائز ہے، البتہ اس جوازِ عمل کے لئے اتفاق شرط یہ ہے کہ حدیث ضعیف شدید سے خالی ہو، چنانچہ حافظ سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سَمِعْتُ شَيْخَنَا ابْنَ حَجَرَ أَيْ الْعَسْقَلَانِي الْمَصْرِي مَرَّأً - وَكُتِبَ لِي بِخَطِّهِ - يَقُولُ: شَرَطُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ ثَلَاثَةٌ: الْأَوَّلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الضَّعِيفُ غَيْرَ شَدِيدٍ فَيُخْرِجُ مَنْ أَنْفَرَدَ مِنَ الْكَذَّابِينَ وَالْمُتَّهَمِينَ وَمَنْ فَحَشَ غَلَطُهُ...“۔ لہٰذا


”میں نے اپنے شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے کئی دفعہ سنا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ

نے اپنی تحریر سے یہ شرائط مجھے لکھ کر بھی دی۔ کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لئے تین شرائط ہیں: پہلی شرط اتفاقی ہے کہ ضعف شدید نہ ہو، لہذا اس شرط سے وہ کذابین، متہمین اور فاحش الغلط نکل گئے، جو نقل روایت میں منفرد ہوں.....۔“

ایک اہم نکتہ:

زیر بحث روایت کا باطل ہونا تو سابقہ نصوص سے واضح ہو چکا ہے، البتہ یہاں ایک دلچسپ نکتہ ملحوظ رہے کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ماقبل میں گزرا ہے کہ مسعدہ نے محمد بن احمد بن ابی عون سے ایک جھوٹی خبر نقل کی ہے، لیکن حافظ ذہبی نے اس خبر کی تعیین نہیں کی، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس خبر کے بارے میں عدم علم کا اظہار فرمایا تھا، اب آپ زیر تحقیق روایت کی سند ایک دفعہ پھر دیکھئے، تو معلوم ہوگا کہ اس سند میں بھی مسعدہ بن بکر الفرغانی، محمد بن احمد بن ابی عون سے روایت کو نقل کرنے والے ہیں، اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ خاص اس زیر بحث روایت کے موضوع ہونے کو پہلے ہی بتا چکے ہیں؛ اس لئے قرین قیاس یہی ہے کہ وہ من گھڑت روایت یہی ہو۔

بہر حال یہ بات واضح ہے کہ مذکورہ قصہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا فنی حیثیت سے جائز نہیں ہے، اس لئے کہ یہ روایت ”ساقط الاعتبار“ اور ناقابل بیان ہے۔



روایت نمبر: (۸)

علوم حدیث میں تحقیق و تدقیق کی انتہائی حدود کا نام ”علم العلل“ ہے، یہی وہ علم ہے جس میں امام علل ”ثقات“ سے منقول روایتوں میں بعض ایسی خفیہ علتوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے، جن سے حدیث ”معلول“ ہو کر قابل استدلال نہیں رہتی، اور ان ماہرین علل کے یہ فیصلے اس قدر دقیق ہوتے ہیں کہ عام درجے کے محدثین رحمہم اللہ اصحاب علل کے ان فیصلوں کو سمجھنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں، اور ان کی فہم جواب دینے لگتی ہے، ائمہ علل کو یہ مقام ان کی فہم ثاقب، معرفت تامہ اور طولی ممارست کے بعد ”ودیعہ“ ہوتا ہے، ان ائمہ علل کے احوال دیکھے جائیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انھوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو کتنا محفوظ رکھا ہے! حتیٰ کہ یہ علماء علل ایک ایک راوی کی ہزاروں حدیثوں کو ”میزان علل“ میں توالتے تھے، چنانچہ امام ابو زرعہ رازی رحمہم اللہ فرماتے ہیں: نَظَرْتُ فِي نَحْوِ ثَمَانِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ بِمِصْرَ وَفِي غَيْرِ مِصْرَ، مَا عَلِمْتُ أَنِّي رَأَيْتُ لَهُ حَدِيثًا لَا أَصْلَ لَهُ“۔ میری مصر اور مصر کے علاوہ شہروں میں موجود، ابن وہب کی اسی ہزار حدیثوں پر نظر ہے، میں نے ابن وہب کی حدیثوں میں کسی حدیث کو ”بے اصل“ نہیں پایا ہے۔

واضح رہے کہ یہ علم کئی جہات پر منقسم ہے، جس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ”ثقات“ کی روایتوں میں حدیث کے وصل و ارسال (سند کا متصل یا مرسل ہونا) یا وقف و رفع (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول) کا اختلاف واقع ہو جاتا ہے، اس اختلاف کو ماہر علل اپنی فہم، اتقان، اور کثرت ممارست سے سلجھاتا ہے، اس مضمون کو حافظ ابن رجب جنبل رحمہم اللہ نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے:

”...والوجه الثانی: معرفۃ مراتب الثقات وترجیح بعضهم علی بعض عند الاختلاف، إمامی الإسناد وإمامی الوصل والإرسال، وإماما فی الوقف والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه (و کثرة ممارسته) الوقوف علی دقائق علل الحديث۔ لہ
 ”..... دوسری قسم: اختلاف کی صورت میں ثقات کے مراتب کو پہچانا اور ان میں کسی ایک کو ترجیح دینا ہے، ثقات کا یہ اختلاف یا تو اسناد میں ہوگا، یا حدیث کے موصول یا مرسل ہونے میں، یا حدیث کے مرفوع یا موقوف ہونے میں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی صورت ہوگی۔ اس اختلاف میں ترجیح کی اہلیت، معرفت و اتقان کے ساتھ ساتھ علل الحدیث کے دقائق میں کثرتِ ممارست سے حاصل ہوتی ہے۔“

ایک اہم وضاحت:

اس اقتباس میں ”علم علل“ کا تعارف انتہائی اختصار سے کروایا گیا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ آئندہ پیش کی جانے والی تحقیق کو علم علل سے صرف یہ مناسبت ہے کہ اگر ایک حدیث مرفوع اور موقوف دونوں طریق (خواہ یہ حدیثیں غیر ثقہ راویوں) سے مروی ہو، اور محدثین کرام کے سامنے ایسے قرائن اور دلائل ظاہر ہو جائیں، جس کی روشنی میں وہ کسی ایک جانب کو دوسرے پر ترجیح دیدیتے ہیں، البتہ علم علل میں مرفوع و موقوف کا اختلاف منفرد انداز کا ہوتا ہے، کیونکہ علم علل میں صرف ثقات کی حدیثیں زیر تحقیق ہوتی ہیں، اور ان کی علتوں کی نشاندہی ایک پیچیدہ مرحلہ ہے، جس کی وضاحت صرف ماہرین علل ہی کر پاتے ہیں، تفصیلات کے لئے کتب علل دیکھی جاسکتی ہیں، خصوصاً: ”شرح علل الترمذی“ میں علامہ ابن رجب حنبلیؒ نے انتہائی سہل طریقے پر اس فن کی بیشتر جزئیات پر تبصرہ فرمایا ہے۔

بہر حال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔

عنوانِ روایت:

”أَتَقُوا مَوَاضِعَ التَّهْمِ“

مَتَجَهِّمًا؛ ”تہمت کی جگہوں سے بچو“۔

اور بعض مقامات پر یہ روایت ان الفاظ سے منقول ہے:

”مَنْ سَلَكَ مَسَالِكَ التَّهْمِ أَتَاهُمْ“

مَتَجَهِّمًا؛ جو شخص تہمت کے راستوں پر چلے گا وہ تہمت ہو جائے گا۔

تحقیق کا اجمالی خاکہ:

اس حدیث کی تحقیق بنیادی طور پر دو اجزاء پر مشتمل ہے:

۱۔ روایت کے مصادرِ اصلیہ اور ان کی سند (مرفوع، موقوف) کی تحقیق

۲۔ روایت پر ائمہ کا کلام اور اس کا خلاصہ (جس کے آخر میں روایت کافی مقام

لکھا گیا ہے)۔

مرفوع اور موقوف کی عام فہم تعریف:

واضح رہے کہ اس حدیث کی تحقیق میں لفظ مرفوع اور موقوف بہت کثرت سے

استعمال ہوگا، اس لئے ذیل میں مرفوع اور موقوف کی عام فہم تعریف لکھی جا رہی ہے:

حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ اپنے ”مقدمہ“ لے میں حدیث مرفوع اور حدیث

موقوف کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً“

جو بات (قول، فعل، تقریر) خاص آپ ﷺ کے انتساب سے بیان کی

جائے، وہ مرفوع ہے۔

”وہو ما یزوی عن الصحابة رضي الله عنهم مِنْ أفعالهم وأقوالهم ونحوها...“

”صحابی رضی اللہ عنہ سے منقول اقوال اور افعال وغیرہ موقوف کہلاتے ہیں.....“

روایت کے مصادرِ اصلیہ :

زیر تحقیق روایت کا مضمون مرفوعاً (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) اور موقوفاً (صحابی رضی اللہ عنہ کا قول) مختلف سندوں سے مروی ہے، یہاں ہر ایک کو علیحدہ بیان کر کے ان کا حکم ذکر کیا جائے گا۔

مرفوع روایت :

مرفوعاً (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) یہ روایت دو جگہ مختلف الفاظ سے مروی ہے :

۱- حجة الاسلام امام ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ ”إحياء علوم الدين“ ۱ء میں لکھتے ہیں :

”... فقال صلی اللہ علیہ وسلم : اتقوا مواضع التَّهْم“

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچ کر رہو۔

۲- علامہ زحشری رحمہ اللہ ”تفسير كشاف“ ۲ء میں لکھتے ہیں :

”وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْفُزْ مواضع التَّهْم“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ تہمت کی جگہوں پر ہرگز کھڑا نہ ہو۔

علامہ زبیلی ”تخریج أحادیث الكشاف“ ۳ء میں لکھتے ہیں : ”قلت :

غریب“۔ میں کہتا ہوں کہ یہ روایت غریب ہے۔

واضح رہے کہ اس مرفوع طریق کی تفصیل آگے آئے گی۔

لہ أنظر أتحاف السادة المتقين : كتاب عجائب القلب، ۵۲۳/۸، دار الكتب العلمية۔ بیروت۔

۲ء تفسیر کشاف : سورة الأحزاب، الآية : ۵۶، ۹۶/۵، مکتبة الفیثکان۔ الریاض، الطبعة الأولى ۱۴۱۸ھ۔

۳ء تخریج أحادیث الكشاف : الحديث الثامن والثلاثون، رقم : ۱۰۳۲، ت : عبد الله بن عبد الرحمن،

دار ابن خزيمة۔ الریاض، الطبعة الأولى ۱۴۰۳ھ۔

موقوف، روایت:

یہ مضمون حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب سے مروی ہے، اختصار کے پیش نظر ہم اس موقوف روایت کے صرف دو طریق یہاں نقل کریں گے:

۱۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موقوف روایت کا پہلا طریق:

واضح رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ موقوف طریق علامہ خرائطی رحمہ اللہ نے تخریج کیا ہے، اور آپ آئندہ محدثین کرام کے اقوال میں بھی امام خرائطی رحمہ اللہ کی اس روایت کا تذکرہ کثرت سے دیکھیں گے، اسی اہمیت اور نکتے کے پیش نظر یہاں اس روایت کی تحقیق تفصیل سے لکھی جائے گی، البتہ یہ واضح رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہی موقوف طریق امام ابن حبان اور ان کے علاوہ محدثین نے ایک دوسری سند سے تخریج کیا ہے (اس موقوف روایت کے بعد اسے لکھا جائے گا) اور یہ دوسری سند امام خرائطی رحمہ اللہ کی سند کے مقابلے میں ”عمدہ“ ہے، بہر حال فنی حیثیت سے دونوں سندیں قابل بیان ہیں، اس مختصر اقتباس کے بعد اب ہم موضوع کی جانب آتے ہوئے امام خرائطی رحمہ اللہ کی روایت نقل کرتے ہیں۔

علامہ ابوبکر محمد بن جعفر الخرائطی رحمہ اللہ (۳۲۷ھ) ”مکارم الأخلاق“ لے میں لکھتے ہیں:

”حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغُبيري، حدثنا حماد بن منْهال السراج، عن سليمان العجلي، عن بُدِيل بن ورقاء، قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ”مَنْ أَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ الثَّغْمَةِ، فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ“۔

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص اپنے آپ کو تہمت کی جگہ رکھے، تو وہ بدگمانی کرنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرے۔

اس سند میں چار راوی ہیں، ذیل میں ہر راوی کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال اور آخر میں سند کا خلاصہ لکھا جائے گا۔

رواقہ سند پر کلام:

۱۔ عباد بن الولید بن خلاد الغبیری، ابوبدر المؤدب (۲۵۸ھ و قبل ۲۶۲ھ)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”صدوق“۔ ۱۔

عباد بن الولید ”صدوق“ (کلمہ تعدیل) ہے۔

۲۔ حماد بن منہال السراج

بظاہر یہ نام منہال بن بحر سے مصحف (تبدیل ہوا) ہے، کیونکہ ”مکارم الأخلاق“ ہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کا ایک دوسرا اثر (قول) اول تا آخر اسی سند سے مروی ہے، جس میں حماد بن منہال السراج کی جگہ، منہال بن بحر السراج لکھا ہے ۳۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس روایت میں بھی قرین قیاس منہال بن بحر ہے، نیز منہال بن بحر سند کے جس طبقے (دور) میں مذکور ہے، اس میں بھی منہال بن بحر البصری العقیلی أبو سلمة (المتوفی ۲۲۰ھ) کا نام ملتا ہے، جن کے بارے میں ائمہ کے اقوال ملاحظہ ہوں:

حافظ عقیلی، منہال بن بحر کے بارے میں فرماتے ہیں: ”فی حدیثہ نظرو“۔ ۳۔

واضح رہے کہ ”فی حدیثہ نظرو“ کلمہ جرح ہے۔

امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”ثقة“۔ ۳۔

منہال بن بحر ”ثقة“ (کلمہ تعدیل) ہیں۔

۱۔ التقریب: ۲۹۱، رقم: ۳۱۵۱، ت: محمد عوامة، دار الرشید، سوريا، الطبعة الرابعة ۱۳۱۸ھ۔

۲۔ أنظر مکارم الأخلاق: ۲۳۲، رقم: ۷۳۳، ت: أيمن عبد الجبار، دار الآفاق العربية۔ القاهرة، الطبعة الأولى ۱۳۱۹ھ۔

۳۔ کتاب الضعفاء الكبير: ۳/۲۳۸، رقم: ۱۸۳۲، ت: د۔ عبد المعطي، دار الكتب العلمية بيروت۔

۴۔ الجرح والتعديل، باب الميم، ۸/۳۰۹، رقم: ۱۳۹۳۵، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ۱۳۲۲ھ۔

۳۔ سلیمان الجعفی

سند کے مذکورہ طبقے (زمانے) میں مجھے یہ نام نہیں مل سکا، البتہ اس طبقے کے بعد سلیمان بن کندیر، أبو صدقة الجعفی تابعی (طبقة تلي الوسطی من التابعین) کا نام ملتا ہے، سلیمان بن کندیر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرنے والے راوی ہیں، موصوف کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”لابأس به“۔^۱ اور ”لابأس به“ کلمہ تعدیل ہے۔

۴۔ بدیل بن ورقاء

یہاں بھی حسب سابق سند کے اس طبقے (دور) میں یہ نام نہیں ملتا، البتہ اس طبقے (دور) کے بعد بدیل بن ورقاء خزاعی صحابی رضی اللہ عنہ کا نام ملتا ہے، اگر یہاں بدیل بن ورقاء سے مراد بدیل بن ورقاء الخزاعی صحابی ہیں، تو سند میں مذکور بدیل بن ورقاء سے نقل کرنے والے راوی سلیمان الجعفی اور بدیل بن ورقاء کے مابین بھی انقطاع ہے، کیونکہ ”أسد الغابة“^۲ میں ہے کہ بدیل بن ورقاء رضی اللہ عنہ فتح مکہ پر ایمان لائے ہیں اور ان کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے قبل ہو چکا تھا (اور سلیمان بن کندیر تابعین کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو وسطی تابعین سے متصل ہے، چنانچہ سلیمان اور بدیل کا لقاء بظاہر ثابت نہیں ہے)۔

سند کا خلاصہ:

حاصل یہ رہا کہ مذکورہ سند میں سلیمان الجعفی اور بدیل بن ورقاء کے بارے میں تقریبی احتمالات ہم نے ذکر کر دیے ہیں، البتہ ان دونوں راویوں کا بالتعین مصداق ہمیں معلوم نہیں ہو سکا۔ اس موقوف روایت کا حکم آگے آئے گا۔

۱۔ التقریب: ۲۵۴، رقم: ۲۶۰۳، ت: محمد عوامة، دار الرشید، سوريا، الطبعة الرابعة ۱۴۱۸ھ۔
 ۲۔ أسد الغابة: ۳۶۰/۱، رقم: ۳۸۳، الشیخ علی محمد المعوض والشیخ أحمد الموجود، دار الکتب العلمیة بیروت۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موقوف روایت کا دوسرا طریق:

۲- حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کا مذکورہ موقوف طریق: ”روضة العقلاء، ونزهة الفضلاء“ لہ میں اس سند سے تخریج کیا ہے:

”أَبَانَا الْقَطَان بِالرَّقَةِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَرَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى مَكِّي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّاسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ كَلِمَةً كُلُّهَا حَكْمٌ... وَمَنْ تَعَرَّضَ لِلتُّهْمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ...“

”سعيد بن المسيب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کیلئے اٹھارہ پر حکمت جملے وضع کیے تھے..... (۸ میں ایک یہ ہے) اور جو شخص اپنے آپ کو خود تہمت کیلئے پیش کر دے، پھر کوئی اس کے بارے میں بدگمانی کرے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے.....“

روایت کے دیگر مصادر:

حافظ مرتضیٰ زبیدی رحمہ اللہ نے ”آتحاف السادة المتقين“ لہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول علامہ زبیر بن بکّار رحمہ اللہ نے ”الوفقيات“ میں تخریج کیا ہے۔ (مجھے اس قول کی سند نہیں مل سکی، ازراہم الحروف)

اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ نے ”شعب الإيمان“ میں لہ اور حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ”المتفق والمفترق“ لہ میں شیخ ابن حبان رحمہ اللہ کے طریق کے مطابق یہ مفصل روایت تخریج کی ہے، اور ان حدیثوں میں بھی روایت کے الفاظ یہ

لہ روضة العقلاء: ذكر استجاب المؤاخاة للمراء الخاص، ۹۰، ت: محمد محي الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۳۹۷ھ۔

لہ آتحاف السادة المتقين: كتاب عجائب القلب، ۵۲۳/۸، دار الكتب العلمية، بيروت۔

لہ شعب الإيمان: حسن الخلق، ۵۵۹/۱۰، رقم: ۷۹۹۲، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۳ھ۔

لہ المتفق والمفترق: إبراهيم بن موسى مكي، ۲۰۳/۱، رقم: ۱۳۱، ت: د: محمد صادق، دار القادري، بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۷ھ۔

ہیں: ”وَمَنْ تَعَزَّزَ لثَلْثَةِ هِمَّةٍ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ“۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کو خود تہمت کیلئے پیش کر دے، پھر کوئی اس کے بارے میں بدگمانی کرے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔

”روضۃ العقلاء“ کی مذکورہ سند میں کل پانچ راوی ہیں، ذیل میں ہر ایک کے بارے میں ائمہ کے اقوال اور ان دونوں موقوف روایتوں کا فنی حکم بھی لکھا جائے گا۔
رِوَاۃ سند پر کلام:

۱- ابوعلی حسین بن عبداللہ بن یزید القطّان (المتوفی حدود ۳۱۰ھ)

”سیر أعلام النبلاء“ لہ میں ہے: ”وَنَقَّه الدَّارَ قُطْنِي“۔

دار قُطْنِي رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حسین بن عبداللہ کی توثیق کی ہے۔

۲- ہشام بن عمار ابو الولید المدمشقی (المتوفی ۱۵۳ھ)

”التقریب“ لہ میں ہے: ”صَلَوْتُ مَقَرَّهُ كَبِيرَ فَصَارَ يَتَلَقَّنُ فَحَدِيثُهُ الْقَدِيمُ أَصَحُّ...“۔

ہشام بن عمار، صدوق قاری ہیں، جب وہ عمر رسیدہ ہو گئے تو انھیں احادیث کی تلقین کی جاتی تھیں، چنانچہ ان کی قدیم احادیث صحیح ہیں.....“۔

۳- ابراہیم بن موسیٰ المکی

ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے موصوف کو اپنی کتاب ”الثقات“ لہ میں ذکر کیا ہے (یعنی ان کا شمار ”نقہ“ راویوں میں کیا ہے)۔

۴- یحییٰ بن سعید بن قیس الأنصاری (المتوفی ۱۴۴ھ اوبعدھا)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”نَقَّه تَبَّحْتُ“۔ لہ

لہ سیر أعلام النبلاء: ۱۳/۲۸۶، رقم: ۱۸۱، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة التاسعة ۱۴۱۳ھ۔

لہ التقریب: ۵۴۳، رقم: ۴۳۰۳، ت: محمد عوامة، دار الرشيد، الطبعة الرابعة ۱۴۱۸ھ۔

لہ كتاب الثقات: ۱۶/۶، مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت، الطبعة ۱۴۰۲ھ۔

لہ التقریب: ۵۹۱، رقم: ۷۵۵۹، ت: محمد عوامة، دار الرشيد، الطبعة الرابعة ۱۴۱۸ھ۔

یحییٰ بن سعید "ثقة ثبت" (کلمہ تعدیل) ہے۔

۵۔ سعید بن المسیب بن حزن رضی اللہ عنہ (المتوفی بعد ۹۰ھ)

"التقریب" میں ہے: "أخذ العلماء الأثبات..."۔^۱

"سعید بن المسیب بن حزن، ثبت (یعنی ثقہ، قابل اعتماد) علماء میں سے

تھے..."۔

واضح رہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ اس روایت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کر رہے ہیں، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے "سیر أعلام النبلاء" ۲ میں لکھا ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کی ولادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوسرے سال ہوئی ہے، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے صیغہ تملیض (علامت ضعف) کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سماعت حدیث بھی کی ہے۔

موقوف طرق کا خلاصہ اور ان کا فنی حکم:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب سے منقول دونوں طرق آپ تفصیل سے مشاہدہ کر چکے ہیں، محدثین عظام نے ان موقوف طرق کو ثابت قرار دیا ہے، چنانچہ حافظ عراقی رحمہ اللہ، ملا علی قاری رحمہ اللہ، حافظ سخاوی رحمہ اللہ، امام سیوطی رحمہ اللہ، علامہ مرتضیٰ زہیدی رحمہ اللہ، حافظ عجلونی رحمہ اللہ، علامہ عامری رحمہ اللہ اور علامہ طاہر بنی رحمہ اللہ ان تمام محدثین کرام نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ زیر بحث مرفوع روایت کی اصل معلوم نہیں ہے، بلکہ اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موقوف روایت ہے، جسے امام خرائطی رحمہ اللہ نے تخریج کیا ہے (تفصیل آئندہ آئے گی)۔

امام خرائطی رحمہ اللہ کی روایت اور سند کی تحقیق ماقبل میں گذر چکی ہے، اس سند میں

۱۔ التقریب: ۲۴۱، رقم: ۲۳۹۶۔ ت: محمد عوامة، دار الرشید، سوریا، الطبعة الرابعة ۱۴۱۸ھ۔

۲۔ سیر أعلام النبلاء: سعید بن المسیب، ۲/۱۸، ت: شعيب الأرناؤوط ومأمون الصاغر جي، مؤسسة الرسالة-بيروت، الطبعة الثانية ۱۴۰۲ھ۔

کوئی ایسا راوی نہیں ہے جس سے یہ روایت ”ساقط الاعتبار“ کہلائے، نیز ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقوف طریق ”جید سند“ (عمدہ سند) سے ذکر کیا ہے (البتہ اس سند میں سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سماعت میں علما کا اختلاف ہے) بہر حال یہ موقوف طریق ائمہ حدیث کے طرز و تصریح کے مطابق ثابت اور قابل استدلال ہے (مزید تفصیل آگے آئے گی)۔

روایت کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال:

ذیل میں ان علماء کی عبارتیں لکھی جائیں گی جنہوں نے زیر بحث روایت کے مرفوع اور موقوف سندوں پر کلام کیا ہے، پھر آخر میں ان اقوال کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔

۱- علامہ زیلعی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ زیلعی رحمہ اللہ ”تفسیر کشاف“ لے میں مذکور مرفوع روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

”قلت: غریب“۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ (ما قبل میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور آئندہ بھی اس قول پر کچھ کلام لکھا جائے گا)۔

۲- علامہ عراقی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ عراقی رحمہ اللہ ”إحياء علوم الدين“ کی مرفوع روایت کے بارے میں فرماتے ہیں:

”لم أجده أصلاً“۔ مجھے اس کی اصل نہیں ملی۔

حافظ مرتضیٰ زبیدی رحمہ اللہ نے ”اتحاف السادة المتقين“ ۷ میں پہلے حافظ عراقی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا، پھر ”الوفقیات“ اور ”شعب الایمان“ کے حوالے سے

لے تخریج أحادیث كشاف: الحديث الثامن والثلاثون، رقم: ۱۰۳۲، ت: عبد اللہ بن عبد الرحمن، دار ابن خزيمة الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۰۳ھ۔

لے اتحاف السادة المتقين: كتاب عجائب القلب، ۵۲۳/۸، دار الكتب العلمية، بيروت۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے موقف طریق کو ذکر کیا ہے، جسے ماقبل میں ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔

۳۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ”طبقات الشافعية الكبرى“ ۱^{لہ} میں ”إحياء“ کے زیر بحث مرفوع طریق کو ان احادیث میں شامل کیا ہے جن کی سند نہیں مل سکی۔

علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے موافق دیگر اقوال:

حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بعض دیگر ائمہ حدیث نے بھی: ”اتَّفَقُوا مَوَاضِعَ التَّهْمِ“ کے تحت یہ وضاحت کی ہے کہ یہ روایت موقوفاً تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، لیکن اس کا مرفوع ہونا ثابت نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو:

۱۔ حافظ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

حافظ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ”الفوائد المجموعة“ ۲^{لہ} میں لکھتے ہیں: ”قال في المختصر: لم يوجَد“۔ صاحب مختصر (امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا: یہ حدیث نہیں ملی۔

۲۔ حافظ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

حافظ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ ”كشف الخفاء“ ۳^{لہ} میں لکھتے ہیں: ”ذكره في الإحياء وقال العراقي رحمۃ اللہ علیہ في تخریجه: لم أجد له أصلاً...“۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ”إحياء“ میں ذکر کی ہے، اور علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج میں کہا

۱^{لہ} طبقات الشافعية الكبرى: الطبعة الخامسة، ۳/۵۰۳، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ۱۳۲۰ھ۔

۲^{لہ} الفوائد المجموعة: كتاب الأدب والزهد... ۹۳، ت: عبد الرحمن بن يحيى، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة ۱۴۱۶ھ۔

۳^{لہ} كشف الخفاء: حرف الهمزة، ۵۳/۱، رقم: ۸۸، ت: د: عبد الحميد هندواني، المكتبة العصرية-بيروت، الطبعة ۱۳۲۷ھ۔

ہے کہ اس کی اصل مجھے نہیں ملی.....“۔

اس کے بعد حافظ عجلونی رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقوف طریق بحوالہ ”مکارم الأخلاق“ اور ”المُتَّقِیْنَ وَالْمُفْتَرِیْنَ“ ذکر کیا ہے، جسے ہم ماقبل میں لکھ چکے ہیں۔

۳۔ علامہ احمد بن عبد الکریم الغزالی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ احمد بن عبد الکریم الغزالی رحمہ اللہ ”الجدُّ الحثیث“ لے میں لکھتے ہیں:
 ”أوردہ فی الإحیاء حدیثاً وقال العراقي: ”لم أجد له أصلاً“ انتہی،
 لكن جاء فی کلام عمر رضي الله عنه: مَنْ عَرَضَ نَفْسَهُ لِلثُّمَّةِ فَلَا
 يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ۔“

امام غزالی رحمہ اللہ اس روایت کو بطور حدیث (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) لائے
 ہیں، اور علامہ عراقی رحمہ اللہ نے فرمایا: مجھے اس کی اصل نہیں ملی ہے، علامہ
 عراقی رحمہ اللہ کا کلام یہاں مکمل ہو گیا، (علامہ عامری رحمہ اللہ فرماتے ہیں)
 لیکن (اس معنی پر مشتمل) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے: جو اپنے آپ کو
 تہمت کی جگہ رکھے، پھر اگر کوئی شخص اس کے بارے میں بدگمانی کرے، تو
 وہ ہرگز اسے ملامت نہ کرے۔

۴۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا کلام:

ملا علی قاری رحمہ اللہ ”الأسرار المرفوعة“ لے میں لکھتے ہیں: ”مَنْ سَلَكَ
 مَسَالِكَ الثُّمَمِ أَتَهُمْ۔“ رواه الخرائطي في ”مکارم الأخلاق“ عن عمر رضی اللہ عنہ
 موقوفاً بلفظ: ”مَنْ أَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ الثُّمَّةِ، فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ۔“

حدیث: ”جو شخص تہمت کے راستوں پر چلے گا، وہ تہم ہو جائے گا۔“ اس روایت کو
 امام خرائطی رحمہ اللہ نے ”مکارم الأخلاق“ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً (یعنی حضرت

عمر رضی اللہ عنہ کا قول) تخریج کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: جو اپنے آپ کو تہمت کی جگہ رکھے پھر اگر کوئی شخص اس کے بارے میں بدگمانی کرے تو یہ ہرگز اسے ملامت نہ کرے۔
روایت پر کلام کا خلاصہ اور اس کا فنی حکم:

علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زیر بحث مرفوع روایت (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے اس کی اصل نہیں ملی، حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عامری رحمۃ اللہ علیہ ان سب محدثین نے حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی متابعت میں یہی قول اختیار کیا ہے، اسی طرح علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، البتہ علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرفوع طریق کو ”غریب“ کہا ہے۔

نیز یہ تمام ائمہ اس پر بھی اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، چنانچہ محدثین عظام نے ”اتَّقُوا مَوَاضِعَ التَّهْمِ“ (تہمت کی جگہ سے بچو) کے علاوہ ”مَنْ سَلَكَ مَسَالِكَ التَّهْمِ اتَّهَمَ“ (جو تہمت کے راستوں پر چلے گا وہ متہم ہوگا) کے تحت بھی اس بات کی تصریح کی ہے کہ اس مرفوع روایت کی اصل تو ثابت نہیں ہے، البتہ روایت کے یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے مستفاد ہیں، چند علما کے اقوال ملاحظہ ہوں:

علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ”المقاصد الحسنة“ لہ میں لکھتے ہیں:

”حدیث: مَنْ سَلَكَ مَسَالِكَ التَّهْمِ اتَّهَمَ، الخرائطي في المكارم مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ رضی اللہ عنہ مِنْ قَوْلِهِ لَكِنْ بِلَفْظٍ: مَنْ أَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ التَّهْمَةِ فَلَا يُلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِهِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ آثَارًا مِنَ الْمَعْنَى فِي تَضْيِيفِي فِي الظَّنِّ، مِنْهَا مَا فِي أَوَاخِرِ تَفْسِيرِ الْأَحْزَابِ مِنَ الْكُشَافِ وَلَفْظُهُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقِفَنَّ مَوَاقِفَ التَّهْمِ“۔

حدیث: جو شخص تہمت کے راستوں پر چلے گا وہ متہم ہوگا، خرائطی رحمہ اللہ نے ”مکارم الاخلاق“ میں اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول قرار دیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: جو شخص اپنے آپ کو تہمت کی جگہ رکھے، تو وہ بدگمانی کرنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرے۔ (حافظ سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں) میں اپنے رسالے ”ظن“ میں اس معنی پر مشتمل آثار ذکر کر چکا ہوں، ان آثار میں سے ایک اثر تفسیر کشاف میں سورہ احزاب کے آخر میں ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، تو وہ تہمت کی جگہوں پر کھڑا نہ ہو“۔

واضح رہے کہ حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے، تفسیر کشاف کی جس مرفوع روایت کا حوالہ دیا ہے، تفسیر کشاف میں اس کی سند نہیں ہے، اسی روایت کے بارے میں علامہ زبکی رحمہ اللہ نے ”تخریج أحادیث کشاف“ میں ”غریب“ کہا ہے، ماقبل میں اس کا تذکرہ گذر چکا ہے؛ اس لئے تفسیر کشاف کی مذکورہ روایت، اس حدیث کو مرفوع (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہے۔

اس کے علاوہ ”الذُرُّ الْمُنْتَزِعَةُ لِلشَّيْطَانِي“ لے ”الفوائد المجموعة للشوکانی“ ۱، ”أسنى المطالب للحوث“ ۲ اور ”تذكرة الموضوعات للفتنی“ ۳ ان تمام کتابوں میں اسی بات کی تصریح موجود ہے کہ حدیث: ”جو شخص تہمت کے راستوں پر چلے گا وہ متہم ہوگا“۔ اس روایت کو خرائطی رحمہ اللہ نے ”مکارم الاخلاق“ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول قرار دیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: ”جو شخص

لے الدرر المنتزعة: ۲۳۱ رقم: ۳۰۲، محمد عبدالقادر عطاء، دار الکتب العلمیہ۔ بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۰۸ھ۔


۲ لے الفوائد المجموعة: کتاب الأدب...، ۲۵۹، رقم: ۱۳۹، ت: عبدالرحمن بن یحییٰ، دار الکتب العلمیہ۔ بیروت، الطبعة ۱۴۱۶ھ۔

۳ لے أسنى المطالب: ۲۷۲/۱، رقم: ۱۴۱۲، دار الکتب العلمیہ۔ بیروت۔

۴ لے تذكرة الموضوعات: ۲۰۳/۱، کتب خانہ مجیدیہ ملتان۔ پاکستان۔

اپنے آپ کو تہمت کی جگہ رکھے، تو وہ بدگمانی کرنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرے۔“
تحقیق کا خلاصہ اور نتائج:

گذشتہ نصوص سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ”اَتَّقُوا مَوَاضِعَ التَّهْمِ“ (تہمت کی جگہ سے بچو) اور ”مَنْ سَلَكَ مَسَالِكَ التَّهْمِ اتَّهَمَ“ (جو شخص تہمت کے راستوں پر چلے گا، وہ متہم ہو جائے گا) ان دونوں روایتوں کی ”اصل“ مرفوعاً (یعنی آپ ﷺ سے) ثابت نہیں ہے، اس لئے رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر کے اسے بیان کرنا درست نہیں ہے، البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس مضمون پر مشتمل ارشاد ثابت اور قابل بیان ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: ”مَنْ أَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ التَّهْمَةِ، فَلَا يُلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ“۔ **ترجمہ:** جو شخص تہمت کے راستوں پر چلے گا، وہ متہم ہو جائے گا، البتہ بعض روایتوں میں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ان لفظوں سے آیا ہے: ”وَمَنْ تَعَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتَّهْمَةِ فَلَا يُلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ“۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کو خود تہمت کیلئے پیش کر دے، پھر کوئی اس کے بارے میں بدگمانی کرے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے واللہ اعلم۔



روایت نمبر: (۹)

سُنن کا ایک بڑا ذخیرہ سقیم سندوں کی شکل میں محفوظ ہے، ان سقیم روایتوں کے لئے محدثین کرام نے ایسے فنی اصول وضع کیے ہیں، جن کی روشنی میں ان احادیث کو اُن کا فنی مقام دیا جاتا ہے، چنانچہ جمہور علماء کے نزدیک، فضائل کے باب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس جوازِ عمل کے لئے تین بنیادی شرائط نقل کی ہیں، جن کو حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے ”القول البدیع“ میں ذکر کیا ہے۔ موصوف فرماتے ہیں:

”سمعتُ شيخنا ابن حجر أي العسقلاني المصري مزاراً - وكتبه لي بخطه يقول: شرطُ العمل بالحديث الضعيف ثلاثة: الأول مُتَّفَق عليه، وهو أن يكون الضَّعْف غير شديد فيُخْرَج مَنْ انفردَ مِنَ الكذابين والمُتَّهِمِينَ وَمَنْ فحش غلطه والثاني: أن يكون مُنْذَرِ جَاءَتْ حَتَّى أَصْل عام، فيُخْرَج ما يُخْتَرَعُ بحيث لا يكون له أصل أصلاً، والثالث: أن لا يُعْتَقَدَ عند العمل به ثبوته لثلاثة يُنسَب إلى النبي صلَّى اللہ علیہ وسلم ما لم يَقُلْه - قال: والأخيران عن ابن السَّلام وابن دَقِيقِ الْعِيد، والأوَّلُ نَقَلَ الْعَلَامِيُّ الْإِتِّفَاقَ عَلَيْهِ“ - ۱

میں نے اپنے شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے کئی دفعہ سنا ہے۔ یہ شرائط حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مجھے اپنے قلم سے لکھ کر بھی دیں۔ ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لئے تین شرائط ہیں: پہلی شرط اتفاق ہے کہ ضعف شدید نہ ہو، لہذا اس شرط سے وہ کذاہین، مشہمین اور فاحش الغلط روایات نکل گئے، جو نقل روایت میں منفرد (تہا) ہوں۔

دوسری شرط یہ ہے روایت دین کے اصل عام کے تحت ہو، اس شرط سے وہ روایتیں نکل گئیں جو گھڑی گئی ہوں، اس طور پر کہ ان کی کوئی اصل نہ ہو۔

تیسری شرط یہ ہے کہ حدیث پر عمل کے وقت ثبوت حدیث کا اعتقاد نہ ہو، تا کہ آپ ﷺ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے، جو آپ ﷺ نے نہ فرمائی ہو۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مزید فرمایا کہ آخری دو شرطیں ابن عبد السلام رحمہ اللہ اور ابن دقیق العید رحمہ اللہ سے منقول ہیں، اور شرط اول پر علامہ علائی رحمہ اللہ نے علما کا اتفاق نقل کیا ہے۔

اس دینی انحطاط کے دور میں ان شرائط کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ محدثین کرام رحمہ اللہ کے اسی منہج کے پیش نظر ذیل میں ایک ایسی حدیث کی فنی تحقیق ذکر کی جائی گی، جس میں مذکورہ شرائط میں سے شرط اول مفقود ہے، جس کا مقتضی یہ تھا کہ اسے فضائل کے باب میں بھی بیان کرنے سے احتراز کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود یہ روایت زبان زد عام ہے۔

تحقیق روایت:

”جو بندہ نماز تراویح پڑھتا ہے تو اس کو ہر سجدے کے بدلے پندرہ سو نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے لئے جنت میں سرخ یا قوت کا ایک ایسا محل تعمیر کیا جاتا ہے جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہیں، ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہوتا ہے جس پر سرخ یا قوت جڑے ہوتے ہیں۔“

تحقیق کا اجمالی خاکہ:

واضح رہے کہ اس حدیث کی تحقیق چار اجزاء پر مشتمل ہے:

۱- حدیث کی مصادرِ اصلیہ سے تخریج

۲- روایت پر ائمہ حدیث کا کلام

۳۔ مہتمم راوی پر ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال

۴۔ گزشتہ تفصیلات سے ماخوذ روایت کا حکم

حدیث کی مصادرِ اصلیہ سے تخریج:

امام بیہقی رحمہ اللہ ”شعب الایمان“ ۱۷ میں لکھتے ہیں:

”أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المِهْرَانِي، وأبوزكريا بن أبي إسحاق المَرْكَبِيّ - قالوا: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البَغَوِيّ ببغداد، حدثنا الحسن بن عَلِيلِ العُزْرِيّ، حدثنا هشام بن يونس اللُّؤْلُؤِيّ، حدثنا محمد بن مروان الشَّيْخِيّ، عن داود بن أبي هُند، عن أبي نُصْرَةَ العَتِيدِيّ، وعن عطاء بن أبي رَباح، عن أبي سعيد الخدري رحمہ اللہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:

”إذا كان أول ليلة من رمضان فُتِحَتْ أبواب السماء فلا يُغْلَقُ منها بابٌ حتى يكون آخر ليلة من رمضان، وليس من عبد مؤمن يُصَلِّي في ليلة إلا كتَبَ الله له ألفاً وخمسمائة حسنة بكلِّ سجدة، وبنى له بيتاً في الجنة من ياقوتية حمراء، لها ستون ألف باب (لكل باب) منها قَصْرٌ من ذهبٍ مَوْشَجٍ بياقوتية حمراء۔

فإذا صام أول يوم من رمضان غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان، واشتَغَرَ له كل يوم سبعون ألف ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب، وكان له بكلِّ سجدة يسجدُها في شهر رمضان بليلٍ أو نهارٍ شجرةٌ تسيّر الراكب في ظلِّها خمسمائة عام۔

قد رَوينا في الأحاديث المشهورة ما يُدَلُّ على هذا أو بعض معناه۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

ہے: ”جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اس کے بعد رمضان کی آخری رات تک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور (اس مہینہ کی) کسی بھی شب میں جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کو ہر سجدے کے بدلے پندرہ سونکیاں ملتی ہیں، اور اس کے لئے جنت میں سرخ یا قوت کا ایک ایسا محل تعمیر کیا جاتا ہے جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہیں، ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہوتا ہے، جس پر سرخ یا قوت جڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ شخص یکم رمضان کو روزہ رکھتا ہے، تو اس کے گزشتہ ماہ رمضان کے اس دن سے آج تک کے پہلے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور روزانہ فجر سے سورج غروب ہونے تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے بخشش کا سوال کرتے ہیں، اور ماہ رمضان میں رات یا دن کے ہر سجدے کے عوض اس کو (جنت میں) ایسا درخت ملے گا، جس کے نیچے سوار پانچ سو سال تک چلتا رہے۔“

امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مشہور احادیث میں بعض ایسے مضمون روایت کیے گئے ہیں، جو اس حدیث پر یا اس کے بعض معنی پر دلالت (رہنمائی) کرتے ہیں۔ حافظ طبرانی رحمہ اللہ نے ”المعجم الصغیر“ لے میں اور حافظ ابونعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے ”تاریخ أصبہان“ لے میں حافظ طبرانی رحمہ اللہ سے یہ روایت تخریج کی ہے، اور یہ تمام سندیں زیر بحث سند میں مذکور محمد بن مروان السدی پر مشترک ہو جاتی ہیں۔

ایک اہم تنبیہ:

واضح رہے کہ ”المعجم الصغیر“ اور ”تاریخ أصبہان“ کا متن حدیث صرف یہاں تک ہے: ”لأن أبواب السماء تُفْتَحُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا تُغْلَقُ إِلَى

لے المعجم الصغیر: ۱/ ۲۰۲، رقم: ۳۲۳، ت: محمد شکور محمود، المکتب الاسلامی۔ بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۰۵ھ۔

لے تاریخ أصبہان: جعفر بن محمد بن مدین الأصبہانی: ۱/ ۲۴۷، دار الكتاب الإسلامي۔ القاهرة۔

آخر لَبْدَةٌ مِنْهُ“۔ يَحْجُجُكُمْ؛ رمضان کی پہلی رات میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اس کے بعد رمضان کی آخری رات تک ان میں کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔

روایت پر ائمہ کا کلام:

۱۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کا کلام:

امام بیہقی رحمہ اللہ کا کلام تو ماقبل میں بھی گزر چکا ہے، یعنی ”قَدْ رُوِيَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَوْ بَعْضِ مَعْنَاهُ“۔ ہمیں مشہور احادیث میں بعض ایسے مضمون روایت کیے گئے ہیں، جو اس حدیث پر یا اس کے بعض معنی پر دلالت (رہنمائی) کرتے ہیں۔

امام بیہقی رحمہ اللہ کے کلام کی وضاحت:

واضح رہے کہ اس حدیث کے فنی مقام پر تو آگے مزید روشنی ڈالی جائے گی، البتہ امام بیہقی رحمہ اللہ کے مذکورہ قول کو تفصیل سے ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مشہور احادیث میں بعض ایسے مضمون روایت کیے گئے ہیں، جو اس حدیث پر یا اس کے بعض معنی پر دلالت (رہنمائی) کرتے ہیں۔ زیر بحث حدیث میں کل تین مضامین ہیں:

۱۔ رمضان کی ابتدا سے جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں:

امام بیہقی رحمہ اللہ اس مضمون پر مشتمل روایت ”شعب الإيمان“ میں اس حدیث کے تحت لائے ہیں:

”إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ضُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَزْدَةُ الْجِنَّ...“۔^۱
جب رمضان کی ابتدائی شب ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کی مشکیں کس

^۱ شعب الإيمان: ۵/۲۱۷، رقم: ۳۳۲۷، ت: الدكتور عبد العلی، مکتبة الرشد۔ الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۳ھ۔

دی جاتی ہیں..... (پھر آگے جنت کے دروازے کھلنے اور جہنم کے دروازے بند ہونے کا ذکر ہے)۔

۲- حدیث کا دوسرا مضمون ملائکہ کے استغفار کا ہے، اس مضمون کی روایت امام بیہقی رحمہ اللہ ”شعب الایمان“ میں دو جگہ لائے ہیں:

۱- حدیث: ”أُعْطِيتُ أَمْتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ... وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا“... فرشتے ان کے لئے افطار تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں.....۔

۲- أُعْطِيتُ أَمْتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ... فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ... فرشتے شب و روز ان کے لئے استغفار کرتے ہیں۔

۳- تیسرا مضمون رمضان میں سجدوں کے ثواب کا ہے، اور یہی ہماری تحقیق کا عنوان ہے، اس مضمون کی روایت ہماری جستجو کے مطابق ”شعب الایمان“، ”المعجم الصغير“ اور ”أخبار أصبهان“ میں ہے (جیسا کہ ہم ماقبل میں ذکر کر چکے ہیں)، ان تینوں سندوں میں راوی محمد بن مروان الکوفی السدی الصغیر ہے، جن کے بارے میں تفصیل آگے آئے گی۔

۲- حافظ مُنْذِرِي رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ مُنْذِرِي رحمہ اللہ ”الترغيب والترهيب“ میں یہ روایت صیغہ مجہول (اور یہ حافظ مُنْذِرِي رحمہ اللہ کی ایک خاص اصطلاح ہے) سے نقل کر کے لکھتے ہیں: ”رواه البيهقي رحمہ اللہ وقال قد رَوَيْنَا فِي الْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَوْ بَعْضُ مَعْنَاهُ۔ كَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ“۔

اس روایت کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے تخریج کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں مشہور احادیث

لہ شعب الایمان: ۵/۲۲۰، رقم: ۳۳۳۰، ت: الدكتور عبد العلي، المكتبة الرشد- الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۳ھ۔

لہ شعب الایمان: ۵/۲۲۰، رقم: ۳۳۳۱، ت: الدكتور عبد العلي، المكتبة الرشد- الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۳ھ۔

لہ الترغيب والترهيب: ۱/۴۲۴، رقم: ۱۳۳۰، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض۔

میں بعض ایسے مضمون پہنچے ہیں، جو اس حدیث پر یا اس کے بعض معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسی طرح کہا ہے۔

ایک اہم وضاحت:

واضح رہے کہ حافظ مُنذِرِی رحمہ اللہ ”الترغیب والترہیب“ میں صیغہ مجہول سے جن احادیث کو ذکر کرتے ہیں، وہ ضعف کی دونوں قسموں پر مشتمل ہو سکتی ہیں، یعنی ضعف خفیف اور ضعف شدید (حافظ مُنذِرِی رحمہ اللہ نے اپنے اس طریقہ کار کو ”الترغیب والترہیب“ کے مقدمہ میں وضاحت سے لکھا ہے)۔

۳۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ طبرانی رحمہ اللہ ”المعجم الصغیر“ ۱ء میں لکھتے ہیں: ”لم یروہ عن داؤد بن ابی ہند إلا محمد بن مروان الشدّی“۔

اس روایت کو داؤد بن ابی ہند سے محمد بن مروان سدی ہی نے روایت کیا ہے۔

۴۔ حافظ بیہقی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ بیہقی رحمہ اللہ ”مجمع الزوائد“ ۱ء میں حافظ طبرانی رحمہ اللہ کی روایت نقل کر کے لکھتے ہیں: ”رواہ الطبرانی فی الصغیر وفیہ محمد بن مروان الشدّی وهو ضعیف“۔ اس روایت کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے ”المعجم الصغیر“ میں نقل کیا ہے، اور اس روایت میں محمد بن مروان سدی ہے، اور وہ ضعیف ہے۔

حافظ بیہقی رحمہ اللہ کا محمد بن مروان السدّی کی دیگر روایات پر کلام:

البتہ حافظ بیہقی رحمہ اللہ نے ”مجمع الزوائد“ ہی میں درج ذیل دو مقامات پر محمد

۱۔ المعجم الصغیر: ۲۰۲/۱، رقم: ۳۲۳، ت: محمد شکور محمود، المکتب الإسلامی، بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۰۵ھ۔

۲۔ مجمع الزوائد: کتاب الصیام ۳/۳۴۵، رقم الحدیث: ۴۷۸۷، ت: الشیخ عبد اللہ الدرویش، دار الفکر، بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۵ھ۔

بن مروان سدی کو ”متروک“ (یہ لفظ محدثین کرام کے نزدیک ضعیف شدید پر محمول ہوتا ہے) کہا ہے:

۱- حدیث: ”کرامة الكتاب ختمه“۔^۱

۲- حدیث: ”التمسوا الخیر إلى الرُحَمَاء...“۔^۲

ان قرآن کی روشنی میں قرین قیاس یہی ہے کہ حافظ یحییٰ رحمہ اللہ کے پہلے قول ”وفیه محمّد بن مروان الشّدیّ وهو ضعیف“۔ (یعنی اس روایت میں محمد بن مروان سدی ہے، اور وہ ضعیف ہے) میں ضعیف سے مراد شدید ضعیف ہے، کیونکہ ضعف کا استعمال ضعیف خفیف اور ضعف شدید دونوں کے لئے ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ یہاں تک نفس روایت کے بارے میں ائمہ حدیث کے اقوال آپ مشاہدہ کر چکے ہیں، اس روایت میں محمد بن مروان سدی کو کلام کا موضوع بنایا گیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن مروان کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال بھی تفصیل سے سامنے آجائیں، تاکہ حدیث کا فنی مقام سمجھنا آسان ہو۔

روایت میں مذکور محمد بن مروان الکوفی الشّدی الصغیر کے بارے میں کلام:

امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: محمد بن مروان ”ثقة“ نہیں ہے۔^۳

امام جریر بن عبد الحمید رحمہ اللہ نے محمد بن مروان کو ”کذاب“ کہا ہے۔^۴

^۱ مجمع الزوائد: کتاب الأدب، ۱۸۶/۸، رقم: ۱۳۱۷۶، ت: الشیخ عبد اللہ الدرویش، دار الفکر- بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۵ھ۔

^۲ مجمع الزوائد: کتاب البر والصلة، ۳۵۷/۸، رقم: ۱۳۷۳۶، ت: الشیخ عبد اللہ الدرویش، دار الفکر- بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۵ھ۔

^۳ الجرح والتعديل: باب المیم، ۱۰۰/۸، رقم: ۱۳۶۷۱، ت: مصطفیٰ عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیة- بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۲ھ۔

^۴ المصدر السابق۔

امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ہو ذاہب الحدیث، متروک الحدیث، لا یُحْتَسَبُ حدیثہ البتہ“۔ محمد بن مروان ”ذاہب الحدیث، متروک الحدیث“ (شدید کلمہ جرح) ہے، ان کی احادیث قطعاً نہیں لکھی جائیں گی۔ لہ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”کان مَعْن یروی الموضوعات عن الأئمة، لا یحل کتابتہ حدیثہ إلا علی جهة الاعتبار ولا الاحتجاج به بحال من الأحوال“۔

محمد بن مروان ان لوگوں میں سے ہے جو ”اثبات“ (ثقة اور معتبر راویوں) سے حدیثیں گھڑتے تھے، ان کی حدیثیں اعتبار (یہ ایک اصطلاح ہے، جس کی تعریف آگے آئے گی) ہی کے لئے لکھنا جائز ہے، اور کسی بھی صورت میں ان کی حدیثوں سے استدلال جائز نہیں ہے۔ ۲

لفظ اعتبار کی وضاحت:

حافظ عراقی رحمہ اللہ نے ”الْفِیۃ“ ۳ میں ”اعتبار“ کی یہ تعریف کی ہے:

الاعتبار سَبَوُّکَ الْحَدِیْثِ هَلْ شَارَکَ زَاوِ غَیْرِهِ فِیْمَا حَمَلَ عَنْ شَیْخِهِ، فَإِنْ یُحْکَمُ شُورَکُ مِنْ مُعْتَبَرٍ بِهِ فَتَابِعٌ، وَإِنْ ”اعتبار، تیرا کسی حدیث کا جائزہ لینا ہے (مسانید، سنن، معاجم، مشیخت وغیرہ میں) تاکہ تو دیکھ لے کہ اس راوی (جس راوی کے بارے میں تفرّد کا احتمال ہے) کے ساتھ شیخ سے اس روایت کو نقل کرنے میں کسی دوسرے راوی نے مشارکت کی ہے؟ چنانچہ اگر اس راوی کے ساتھ کسی معتبر راوی کی جانب سے مشارکت ثابت ہو جائے تو وہ (مشارکت کرنے والا راوی) تابع ہے.....“۔

۲۔ المصدر السابق۔

۳۔ المجروحین: ۲/۲۸۶، ت: محمد ابراہیم زاید، دار المعرفہ بیروت۔

۴۔ فتح المغیث للسخاوی: الإعتبار والمتابعات والشواہد، ۲/۲۱، ت: عبد الکریم الخضیر ومحمد بن عبد اللہ آل فہد، مکتبۃ دار المنہاج۔ الرياض، الطبعة الثانية ۱۴۲۸ھ۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”سکثوا عنه“۔ (یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک خاص اصطلاح ہے، جسے وہ اکثر شدید جرح کے لئے استعمال کرتے ہیں) محدثین رحمہم اللہ نے محمد بن مروان کے بارے میں سکوت کیا ہے لہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ ہی نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا ہے: ”لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ الْبُتَّةُ“۔ ان کی احادیث قطعاً نہیں لکھی جائیں گی۔ ۱۷

امام نسائی رحمہ اللہ قمر طراز ہیں محمد بن مروان ”متروک الحدیث“ (شدید کلمہ جرح) ہے، امام نسائی رحمہ اللہ ہی نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا ہے: ”لَيْسَ بِثِقَّةٍ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ“۔ محمد بن مروان ”ثقة“ نہیں ہے، اور ان کی احادیث نہیں لکھی جائیں گی۔ ۱۸

صالح بن محمد بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”كَانَ ضَعِيفًا، وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ أَيْضًا“۔ محمد بن مروان ضعیف تھا، نیز حدیثیں گھڑتا تھا۔ ۱۹

ابن نمیر رحمہ اللہ نے محمد بن مروان کو ”لیس بشیعی“ (کلمہ جرح) کہا ہے۔ یعقوب بن سفیان فارسی نے محمد بن مروان کو ”ضعیف، غیر ثقة“ کہا ہے۔ ۲۰

أبو أحمد ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”وَعَامَةً مَا يَرَوِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالضَّعْفُ عَلَى رَوَايَاتِهِ يَبِينُ“۔ ۲۱

محمد بن مروان کی اکثر حدیثیں محفوظ نہیں ہیں، اور ان کی روایتوں میں ضعف بالکل واضح ہے۔

۱۷ التاریخ الكبير: باب المحدثون: ۲۳۳/۱، رقم: ۷۲۹، مصطفى عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية-بيروت۔

۱۸ تہذیب الکمال: باب المیم: ۲۰۷/۱۷، رقم: ۶۱۸۶، ت: الشیخ أحمد علی وحسن أحمد، دار الفکر-بیروت ۱۴۱۴ھ۔

۱۹ المصدر السابق۔ ۲۰ المصدر السابق۔ ۲۱ المصدر السابق۔

۲۲ التکامل فی الضعفاء: ۳/۷، الشیخ عادل والشیخ علی محمد، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۸ھ۔

حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ترکوه، واتهم“۔ ۱۔
 محدثین نے محمد بن مروان کو ترک کیا ہے، اور وہ متہم ہے۔
 حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: متهم بالكذب۔ ۲۔
 محمد بن مروان ”متهم بالكذب“ ہے۔

ائمہ رجال کے کلام کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم:

محمد بن مروان الکوفی السدی الصغیر کے بارے میں ائمہ رجال کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ شیخ ابن حبان رحمہ اللہ، حافظ جریر بن عبد الحمید رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام أبو حاتم رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، امام صالح بن محمد بغدادی رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، ان تمام محدثین رحمہم اللہ نے محمد بن مروان الکوفی السدی الصغیر کے بارے میں فنی جرح کے شدید صیغے استعمال کیے ہیں، مثلاً:

”کذاب“۔ بڑا جھوٹا۔ (جریر بن عبد الحمید رحمہ اللہ)

محمد بن مروان ان لوگوں میں سے ہے جو ”اثبات“ (ثقة اور معتبر) سے حدیثیں گھڑتے تھے، ان کی حدیثیں ”اعتبار“ (اصطلاحی لفظ) ہی کے لئے لکھنا جائز ہے۔۔۔۔۔ (حافظ ابن حبان رحمہ اللہ)۔

”وكان يضع الحديث أيضاً“۔ اور محمد بن مروان حدیثیں گھڑتا تھا (صالح بن محمد بغدادی)۔

”متروک الحديث“۔ (امام نسائی رحمہ اللہ، امام ابو حاتم رحمہ اللہ)۔


”سکتوا عنه“۔ (امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ کلمہ محدثین کے نزدیک شدید جرح پر محمول ہے)۔

”متهم بالكذب“ (حافظ ابن حجر رحمہ اللہ)۔

”ترکوه واتهم“ (حافظ ذہبی رحمہ اللہ)۔

”لَا يَكْتَبُ حَدِيثَهُ الْبُتَّةُ“۔ ان کی احادیث قطعاً نہیں لکھی جائیں گی (امام ابو حاتم رحمہ اللہ)۔

محمد بن مروان الکوفی السدی الصغیر کے بارے میں ائمہ رحمہم اللہ کے اقوال آپ کے سامنے تفصیل سے آچکے ہیں، ان اقوال سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہ روایت محمد بن مروان الکوفی السدی الصغیر کی موجودگی میں، اس خاص تناظر میں کہ محمد بن مروان اس کے نقل کرنے میں متفرد ہے، کسی بھی طرح ضعیف شدید سے خالی نہیں ہے، اور فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بیان کی جاسکتی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات گزر چکی ہے کہ اس جوازِ عمل کی بنیادی شرط یہ ہے کہ حدیث ضعیف شدید سے خالی ہو، ماقبل میں یہ مضمون تفصیل سے آچکا ہے؛ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے اسے بیان کرنا درست نہیں ہے۔



روایت نمبر: (۱۰)

اعزاز و امتیاز ہر قوم کا قابل قدر سرمایہ ہوتا ہے، البتہ بعض خوبیاں قومی شناخت بن جاتی ہیں، جس پر قوم کا ہر فرد فخر محسوس کرتا ہے۔ امت محمدیہ - زادھا اللہ شرفاً بنیٰہا۔ ایسی ہی گراں قدر شرافتوں سے آراستہ ہے، جس نے اقوام عالم میں اسے شاہانہ مقام بخشا ہے، انہیں مناقب میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ ملت کا ہر فرد ایک مستحکم واسطے، یعنی ”اسناد“ کے ذریعے اپنے نبی ﷺ کی تعلیمات سے جڑا ہوا ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ اس نعمت عظمیٰ کی اہمیت ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں:

”أصل الإسناد خَصِيصَةٌ فَاضِلَةٌ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَسُنَّةٌ بِالْعُقَّةِ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ، بَلْ مِنْ قُرُوضِ الْكِفَايَةِ“۔ لے اس امت کی ایک بڑی شرافت والی خصوصیت، اس کا اسنادی اساس سے مُشَفَّع ہونا ہے، جو مؤکدہ سنتوں میں ایک بڑی سنت ہے، بلکہ اس کا جاننا فرض کفایہ ہے۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ شریعت اسلامی کا تحریف و تحیف سے محفوظ رہنا، اسی ”اسناد“ کے مبارک نتائج ہیں، امام ابو عبد اللہ حاکم نیشابوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فَلَوْلَا الْإِسْنَادُ وَطَلَبُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ لَهُ، وَكَثْرَةُ مُوَاطَّعَتِهِمْ عَلَى حِفْظِهِ، لَدَرَسَ مَنَازِلُ الْإِسْلَامِ، وَتَمَكَّنَ أَهْلُ الْإِلْحَادِ وَالْبِدْعِ مِنْهُ، بَوَّضَ الْأَحَادِيثَ، وَقَلَّبَ الْأَسَانِيدَ، فَإِنَّ الْأَخْبَارَ إِذَا تَعَوَّرَتْ عَنْ وُجُودِ الْإِسْنَادِ فِيهَا كَانَتْ بُثْرًا“۔ ۱

”اگر اسناد نہ ہوتی اور یہ جماعت اسناد کی تلاش اور اسکی حفاظت میں خاص اشتغال نہ رکھتی، تو اسلام کے نشانات تک مٹ جاتے، ملحدین اور اہل

۱۔ شرح شرح نخبة الفكر: العلو المطلق، ۶۱۷، قدیمی کتب خانہ مکرچی۔

۲۔ معرفة علوم الحديث: ذکر أول نوع، ص: ۶، ت: السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية۔ بيروت، الطبعة الثانية ۱۳۱۹ھ۔

بدعت من گھڑت حدیثوں اور انکی سندوں میں ہیر پھیر کر کے اسلام پر قابض ہو جاتے، کیونکہ حدیثیں سندوں سے خالی ہو کر، ناقص رہ جاتی ہیں۔“
ذیل میں اسی فریضے کے پیش نظر ایک ایسی روایت پیش کی جائی گی، جو محدثین رحمہ اللہ کے نزدیک کسی سند سے ثابت نہیں ہے، اس لئے اس کا بیان کرنا بھی درست نہیں ہے (تفصیل آگے آئے گی)، اس کے باوجود یہ روایت زبان زد عام ہے۔
تحقیق روایت:

روایت: ”خُدُو اسْطُورِ دینِکم عن الحُمَیْرَاءِ۔“
تَرْجُمَہ: تم اپنا نصف دین حمیراء (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) سے حاصل کرو۔
بعض روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں:
روایت: ”خُدُو اَثْلَثِ دینِکم مِنْ بَیْتِ الحُمَیْرَاءِ۔“
تَرْجُمَہ: تم اپنا تہائی دین حمیراء (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) کے گھر سے حاصل کرو۔
تحقیق کا اجمالی خاکہ:

روایت کی تحقیق تین اجزاء پر مشتمل ہے:

- ۱- روایت کی مصادر اصلہ سے تخریج
- ۲- روایت پر ائمہ حدیث کا کلام اور اس کا خلاصہ
- ۳- روایت کا کافی حکم

روایت کے مصادر اصلہ:

حافظ ابن الاثیر الجزیری رحمہ اللہ ”النهاية في غريب الاثر“ لہ میں لکھتے ہیں:

لہ النہایۃ فی غریب الاثر: ۱۵۸/۲، ج ۴، مکتبۃ الرشد، الریاض، الطبعة الأولى ۱۴۲۲ھ۔
شیخ عبد الفتاح ابوعبدہ ”المصنوع“ کی مذکورہ روایت کے تحت لفظ حمیراء کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
الحُمَیْرَاءُ تصغیر حُمَراء بمعنى بَيَضَاء اللون مُشَوَّب بَيَاضِهَا بِحُمْرِهِ والعَرَبُ تُسَمِّي الرَجُلَ الْأَبْيَضَ: أَحْمَرَ والمرأة: حُمْرًا۔ وكانت عائشة رضي الله عنها كذلك، وهي المقصودة بالحُمَیْرَاءِ هنا۔ (المصنوع: ۱۸، ت: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ایچ۔ ایم۔ سعید کمپنی کراچی)۔

”وفیه: ”خُذُوا شَطْرَ دِینِکُمْ مِنَ الْحُمَیْرَاءِ“۔ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا، کان یقول لہا اَحْبَانًا: یا حُمَیْرَاءِ! تَصْغِیْرُ الْحُمَیْرَاءِ یُرِیدُ الْبَیْضَاءَ“۔

حدیث: ”اپنا نصف دین حمیراء (یعنی عائشہ) سے حاصل کرو“۔ آپ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بعض اوقات، یا حمیراء کہہ کر پکارتے تھے، حمیراء، حمراء کی تصغیر ہے، اس کا معنی ہے: سفید رنگت والی۔

روایت پر ائمہ حدیث کا کلام:

ذیل میں زیر بحث روایت (دونوں مختلف الفاظ کے ساتھ) پر متقدمین اور متاخرین کا کلام اور آخر میں اس کلام کا خلاصہ لکھا جائے گا۔

۱- حافظ ابن کثیر کا کلام:

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ”تحفة الطالب“ لہ میں لکھتے ہیں:

”خُذُوا شَطْرَ دِینِکُمْ عَنِ الْحُمَیْرَاءِ“۔ فہو حدیث غَرِیْبٌ جِدًّا۔ بل ہو مُتَنَكِّرٌ۔ سَأَلْتُ عَنْهُ شَیْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ الْمِزْرِیُّ فَلَمْ یَعْرِفْهُ وَقَالَ: لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى سَنَدٍ إِلَى الْآنَ، وَقَالَ شَیْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الذَّهَبِيُّ: ”هُوَ مِنَ الْأَحَادِیثِ الْوَاهِیَةِ الَّتِی لَا یَعْرِفُ لَهَا إِسْنَادٌ“۔

حدیث: (تم اپنا نصف دین حُمَیْرَاءِ رضی اللہ عنہا سے حاصل کرو)، یہ حدیث ”غریب جدًّا“ (فنی اصطلاح) ہے، بلکہ یہ ”مُتَنَكِّرٌ“ (فنی اصطلاح) ہے، میں نے اس حدیث کے بارے میں اپنے شیخ ابوالحجاج مِزْرِیُّ رحمہ اللہ سے پوچھا تھا، تو انھوں نے اسے نہیں پہچانا اور کہا کہ میں اب تک اس کی سند پر مطلع نہیں ہوا، اور ہمارے شیخ ابو عبد اللہ ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان ”واہی“ (فنی اصطلاح) احادیث میں سے

ہے، جس کی سند نہیں پہچانی جاتی۔

۲- حافظ سخاوی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ ”المقاصد الحسنہ“ لے میں لکھتے ہیں:

حدیث: ”خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ“۔ قال شيخنا في تخریج ابن الحاجب من إملائه: لا أعرف له إسناداً، ولا رأيته في شيء من كُتُبِ الحديث إلّا في ”النهاية لابن الأثير“۔ وذكره في مادة ”ح م ر“، ولم يذكُرْ مَنْ خَرَجَهُ۔ ورأيته أيضاً في كتاب الفِرْدَوْسِ لكن بغير لفظه وذكره مِنْ حديث أنس بغير إسناد أيضاً، ولفظه: ”خُذُوا ثُلْثَ دِينِكُمْ مِنْ بَيْتِ الْحُمَيْرَاءِ“۔ وَيَتَّصُ لَهُ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ فلم يُخَرِّجْهُ لَهُ إِسْنَاداً، وذكر الحافظ عِمَادُ الدِّينِ بن كثير أَنَّهُ سَأَلَ الحافظين المِزِّيَّ وَالذَّهَبِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا فلم يَعْرِفَاهُ۔

حدیث: (تم اپنا نصف دین حمیراء رحمہم اللہ سے حاصل کرو) ہمارے شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے احادیث ابن حاجب کی تخریج لکھواتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے اس کی سند کو نہیں پہچانا، اور نہ ہی میں نے کتب حدیث میں اس کو دیکھا ہے سوائے ”النهاية لابن الأثير“ کے۔ اور ابن الاثير رحمہ اللہ نے یہ حدیث مادہ ”ح م ر“ میں ذکر کی ہے، اور اس حدیث کی تخریج کرنے والے کو ذکر نہیں کیا، نیز ”كتاب الفردوس“ (یہ کتاب شیر ذویہ بن شہر دار ابوشجاع الدلیمی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے) میں بھی یہ روایت میں نے دیکھی ہے، لیکن ان لفظوں کے علاوہ دوسرے لفظوں کے ساتھ، اور صاحب ”كتاب الفردوس“ نے حضرت انس رحمہ اللہ سے اس روایت کو بلا سند ذکر کیا

ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں: تہائی دین حمیراء رضی اللہ عنہ کے گھر سے حاصل کرو۔ صاحب مسند الفردوس (شہر دار بن شہر وئیہ أبو منصور الدیلمی رحمہ اللہ) نے اس روایت کے بعد جگہ خالی چھوڑ دی ہے، اور اس حدیث کی سند تخریج نہیں کی، اور حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انھوں نے حافظ مزی رحمہ اللہ اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ سے اس کے متعلق پوچھا: تو ان دونوں نے اس روایت کو نہیں پہچانا۔

۳۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ سیوطی رحمہ اللہ ”الدرر المنتثرة“ لے میں لکھتے ہیں: حدیث: ”خُذُوا سَطْرَ دینکم عن الحمیراء“ لم أوف علیہ۔ حدیث (اپنا نصف دین حمیراء سے حاصل کرو) میں اس پر واقف نہیں ہوں، اس کے بعد علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کلام نقل کر کے لکھا ہے: لکن فی ”الفردوس“ من حدیث انس: ”خُذُوا ثَلَاثَ دینکم من بیت عائشة رضی اللہ عنہا“ ولم یدکر لہ إسناداً۔ لیکن ”فردوس“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: اپنے دین کا تہائی حصہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے حاصل کرو۔ اور صاحب فردوس نے اس حدیث کی سند ذکر نہیں کی۔

۴۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا کلام:

ملا علی قاری رحمہ اللہ ”المصنوع“ لے میں رقم طراز ہیں: حدیث: ”خُذُوا سَطْرَ دینکم عن الحمیراء“ لا یمعرف لہ أصل۔ اس کی اصل معروف نہیں۔

۵۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ”الفوائد المجموعة“ لے میں محمد بن درویش

لے الدرر المنتثرة: ۱۳۸، رقم: ۲۰۹، محمد عبد القادر عطاء دار الکتب العلمیہ۔ بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۰۸ھ۔

لے المصنوع: ۹۸، رقم: ۱۲۱، ت: الشیخ عبد الفتاح أبو غدة، ایچ۔ ایم۔ سعید کمپنی۔ کراچی۔

لے الفوائد المجموعة: ذکر عائشة رضی اللہ عنہا، ۳۹۹، رقم: ۱۳۹، رقم: ۷۵، ت: عبد الرحمن بن یحییٰ، دار

الکتب العلمیہ۔ بیروت، الطبعة ۱۴۱۶ھ۔

انحوت رضی اللہ عنہ نے ”أسنى المطالب“ لہ میں، أحمد بن عبد الکریم الغزلی رضی اللہ عنہ نے ”الجدد الحثيث“ میں لہ اور علامہ طاہر یثنی رضی اللہ عنہ نے ”تذکرۃ الموضوعات“ لہ میں، ان سب محدثین نے حافظ مزنی رضی اللہ عنہ، حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ، حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ اور علامہ سیوطی رضی اللہ عنہ کے کلام پر تقریر اور ان کی متابعت کی ہے۔

روایت پر کلام کا خلاصہ:

محدثین کرام رضی اللہ عنہ کے سابقہ کلام میں تکرار سے یہ بات کی گئی ہے کہ یہ حدیث دو جگہ بلا سند مذکور ہے، ذیل میں دونوں پر ائمہ کے کلام کو اختصاراً ذکر کیا جائے گا۔

۱- حافظ ابن الاثیر رضی اللہ عنہ نے ”النهاية في غريب الأثر“ میں یہ حدیث مادہ ”ح م ر“ کے تحت ذکر کی ہے اور اس حدیث کی تخریج کرنے والے کو ذکر نہیں کیا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ مِنَ الْحُمَيْرَاءِ“۔ اپنا نصف دین حمیراء یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا سے حاصل کرو۔

حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے اسے ”غریب جدّاً“ (فنی اصطلاح) اور ”مُنْكَر“ (فنی اصطلاح) کہا ہے، اور حافظ الدین امری رضی اللہ عنہ، اور حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اس روایت کے بارے میں ”عدم معرفت“ اور حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ نے ”واہی“ (فنی اصطلاح) کا قول اختیار کیا ہے، نیز ملا علی قاری رضی اللہ عنہ نے اسے ”بے اصل“ کہا ہے، علامہ شوکانی رضی اللہ عنہ، محمد بن درویش انحوت رضی اللہ عنہ، أحمد بن عبد الکریم الغزلی رضی اللہ عنہ، اور علامہ طاہر یثنی رضی اللہ عنہ، ان سب محدثین نے حافظ مزنی رضی اللہ عنہ، حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ اور حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ کے کلام پر تقریر اور اعتماد کیا ہے۔

۲- اسی طرح شیخ وئیہ بن شہر دار أبو شعاع الدیلمی رضی اللہ عنہ نے ”کتاب الفردوس“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو بلا سند ذکر کیا ہے، شیخ وئیہ دیلمی رضی اللہ عنہ کے بیٹے شہر دار بن شیخ وئیہ أبو منصور الدیلمی رضی اللہ عنہ نے ”کتاب الفردوس“

لہ أسنى المطالب: ۱/۱۳۱، رقم: ۶۰۰، دار الکتب العلمیۃ بیروت۔

لہ الجدد الحثيث: ۹۱، رقم: ۱۳۱، ت: فواز أحمد زمرلی، دار ابن حزم۔

لہ تذکرۃ الموضوعات: ماوردی مناقب الصحابة، کتب خانہ مجیدیہ ملتان۔ پاکستان۔

کا اختصار کیا ہے، جسے ”مُسْتَنْدُ الْفَرْدُوسِ“ کہا جاتا ہے، مگر اس میں بھی اس روایت کی سند مذکور نہیں ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”خُذْ وَالثَلَاثَ دِينَكُمْ مِنْ بَيْتِ الْحَمِيرَاءِ“۔ تہائی دین حمیراء کے گھر سے حاصل کرو۔

اس روایت کے بارے میں بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ اس کی سند بھی معلوم نہیں۔
روایت کا فنی حکم:

گذشتہ اقوال کی روشنی میں یہ کہا جائے گا کہ ائمہ حدیث کے نزدیک یہ روایت بے سند اور بے اصل ہے، بلکہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اسے ”واہی“ (ایک فنی اصطلاح، جو شدید نقد کے لئے استعمال ہوتی ہے) تک کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف ایسا امر ہی منسوب ہو سکتا ہے، جو پایہ ثبوت تک پہنچ چکا ہو، بصورت دیگر روایت قابل التفات و بیان نہیں رہتی، چنانچہ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ ”المَصْنُوعُ فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ لِلْعَلَامَةِ عَلِيِّ الْقَارِي“ لہ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

”وَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ لَا إِسْنَادَ لَهُ، فَلَا قِيَمَةَ لَهُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، إِذَا لَاعْتِمَادُ فِي نَقْلِ كَلَامِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَيْنَا، إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ الثَّابِتِ أَوْ مَا يَنْقُصُ مَوْقِعَهُ وَمَالِيَسَ كَذَلِكَ فَلَا قِيَمَةَ لَهُ“۔

”اور جب حدیث کی سند ہی نہ ہو، تو وہ بے قیمت اور غیر قابل التفات ہے، کیونکہ ہماری جانب ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نقل کرنے میں اعتماد صرف اسی سند پر ہو سکتا ہے، جو صحیح سند سے ثابت ہو یا جو اس کے قائم مقام ہو، اور جو حدیث ایسی نہ ہو تو وہ بے قیمت ہے“۔

حاصل یہ ہے کہ یہ روایت (دونوں الفاظ کے ساتھ، یعنی ”خُذْ وَالثَلَاثَ دِينَكُمْ مِنَ الْحَمِيرَاءِ“۔) اور ”خُذْ وَالثَلَاثَ دِينَكُمْ مِنْ بَيْتِ الْحَمِيرَاءِ“۔) بے سند ہے، اس لئے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔

روایت نمبر: (۱۱)

اعداء دین، چراغ اسلام بجھانے کے لئے، سرتوڑ کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن وہ ان مذموم مقاصد میں ہمیشہ، بری طرح ناکام رہے ہیں، کیونکہ قرآن کے اعلان کے مطابق یہ چراغ تا قیامت نور پھیلاتا رہے گا ﴿يُزِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ لہ ترجمہ: ”یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بُری لگے۔“

وضیح حدیث، دشمنان اسلام کا خطرناک ہتھیار رہا ہے، جس کے ذریعے زنادقہ شریعت کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چنانچہ جعفر بن سلیمان رضی اللہ عنہ، مہدی عجل اللہ فرجه سے نقل کرتے ہیں: ”أَقْرَّ عِنْدِي رَجُلٌ مِنَ الزَّانِدَةِ أَنَّهُ وَضَعَ أَرْبَعًا مِائَةَ حَدِيثٍ تَجُولُ فِي أَيْدِي النَّاسِ“۔ لے ایک زندیق نے میرے سامنے اقرار کیا کہ اس نے چار سو ایسی روایتیں گھڑی ہیں، جو لوگوں کے درمیان گردش کر رہی ہیں۔

یہ صرف اسلام ہی کی شان ہے کہ وہ نہ صرف ان تمام تباہ کن فتنوں سے محفوظ رہا ہے، بلکہ اس نے ان من گھڑت روایتوں اور وضائیں کی شناخت کو تاریخ کا حصہ بنا دیا، آج آپ کسی بھی راوی کا نام لے کر، کتب الرجال، اصول حدیث اور اعلام امت کی رہنمائی سے، اس کا متعین فنی مقام جان سکتے ہیں۔

ذیل میں احمد بن عبد اللہ بن خالد الجویباری کی ایک ایسی ہی روایت پیش کی جائے گی، جو پاک و ہند میں زبان زد عام ہے، حالانکہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”الْجَوْبَارِيُّ مَتْنٌ يُضْرَبُ لَهُ بِالْكَذِبِ“۔ جو بیاری کا شمار ان لوگوں میں ہے، جن کا جھوٹ ضرب المثل ہے۔

عنوانِ روایت:

بچے کی بسم اللہ پر، اس بچے کی، اُس کے والدین کی اور اس کے اُستاد کی بخشش۔
تحقیق کا اجمالی خاکہ:

روایت کی تحقیق چار اجزاء پر مشتمل ہے:

۱- روایت کی مصادرِ اصلہ سے تخریج

۲- روایت پر ائمہ کا کلام

۳- متکلم فیہ راوی پر ائمہ رجال کے اقوال

۴- روایت کا حکم

روایت اور اس کی مصادرِ اصلہ سے تخریج:

روایت: استاد جب بچے سے کہتا ہے کہ پڑھو: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، پھر بچہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اُس بچے کے لیے، اس کے والدین کے لیے، اور اُس کے استاد کے لیے آگ سے خلاصی لکھ دیتے ہیں۔

یہ حدیث علامہ احمد بن محمد بن ابراہیم الشعلبی رحمہ اللہ (۲۲۷ھ) نے ”الکشف والبیان“ ۱۱ میں اس سند سے تخریج کی ہے:

”حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا

جعفر بن محمد بن صالح وحدثنا محمد بن القاسم الفارسي، حدثنا

أبو محمد عبد الله بن أحمد الشيباني، أخبرنا أحمد بن كامل بن

خلف، حدثنا علي بن حماد بن السكن، أخبرنا أحمد بن عبد الله

الهريري حسام بن سليمان المعزومي، عن أبي مليكة، عن ابن عباس

رضي الله عنه قال: سمعتُ النبي ﷺ يقول:

”خیر الناس وخیر من یمشی علی جدید الأرض المَعْلَمون؛ فکلّمَا خَلَقَ الدّین جَدّوہ۔ اَعْطُوہم وَلَا تَنْتَأْجِزُوہم، فَتَحَرَّ جُوہم فإِنَّ المَعْلَمَ إِذَا قَالَ لِلضَّبِّي، قُل: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، فَقَالَ الضَّبِّي: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ کتب اللّٰہ بَرَاءۃً لِلضَّبِّي وَبَرَاءۃً لِأَبُوہ وَبَرَاءۃً لِلْمَعْلَمِ مِنَ النَّارِ۔“

”مَیْجَمُہم“: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”لوگوں میں سب سے بہتر، اور روئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے اچھے لوگ، دوسروں کو علم سکھانے والے ہیں؛ کیونکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دین کو وجود بخشا ہے، معلمین اس کی تجدید کرتے رہتے ہیں، تم انھیں دے دیا کرو، اور انھیں اجرت پر مت رکھو، ورنہ تم انھیں حرج میں ڈال دو گے۔ معلم جب کسی بچے سے کہے کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“، کہو، پھر بچہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کیلئے، اس کے والدین کیلئے، اور اس کے استاد کیلئے آگ سے خلاصی لکھ دیتے ہیں۔“

یہ روایت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ”کتاب الموضوعات“ لے اور علامہ جلال الدین السيوطی رحمہ اللہ نے ”اللائی المصنوعة“ لے میں ”ابن مَرْدُوْہِہ رحمہ اللہ“ کی سند سے ذکر کی ہے، تینوں کتابوں کی سندیں، زیر بحث سند میں مذکور احمد بن کامل پر مشترک ہو جاتی ہیں۔

سند سے متعلق ایک اہم وضاحت:

”الکشف والبيان“ کی مذکورہ سند میں تین امور قابل غور ہیں:

۱- واضح رہے کہ ”الکشف والبيان“ کی مذکورہ سند میں راوی حسام بن سلیمان

لے کتاب الموضوعات: باب ثواب المعلمین، ۱/ ۲۲۰، ت: عبدالرحمن محمد عثمان، المکتبۃ السلفیۃ، المدینۃ المنورۃ، الطبعة الأولى ۱۳۸۲ھ۔

لے اللائی المصنوعة: ۱/ ۱۸۰، محمد عبد المنعم رابع، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۲۸ھ۔

لکھا ہے، البتہ ”اللائی“ اور ”کتاب الموضوعات“ میں راوی حسام بن سلیمان کی جگہ، هشام بن سلیمان لکھا ہے، ممکن ہے کہ لفظ هشام، حسام سے بدل گیا ہو واللہ اعلم۔

۲- ”الکشف والبيان“ کی مذکورہ سند کے مطابق ابوملیک، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرنے والے راوی ہیں، اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ”کتاب الموضوعات“ میں علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے ”اللائی المصنوعة“ میں ابوملیک کی جگہ ابن ابی ملیک لکھا ہے، قرین قیاس یہی ہے کہ یہ لفظ ابن ابی ملیک ہے، کیونکہ ابوملیک صحابی ہیں، جن کا پورا نام ابوملیک زہیر بن عبد اللہ بن جلعان القرشی رضی اللہ عنہ ہے، اور ابن ابی ملیک، ابوملیک رضی اللہ عنہ صحابی کے پوتے ہیں، یعنی عبد اللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیک، اور عبد اللہ بن عبید اللہ کا شمار ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرنے والے راویوں میں ہوتا ہے واللہ اعلم۔

۳- ”الکشف والبيان“ کی مذکورہ سند میں احمد بن عبد اللہ الحمری وی اور حسام بن سلیمان الحمری کے درمیان نقل حدیث کا لفظ (حدثنا، خبرنا، عن وغیرہ) موجود نہیں، دراصل ہمارے پاس ”الکشف والبيان“ کے موجودہ نسخے میں اسی طرح مذکور ہے، اور اب تک کسی دوسرے نسخے سے یہاں ساقط (گرے ہوئے) لفظ کی تعیین نہیں ہو سکی ہے۔

روایت پرائمہ حدیث کا کلام:

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ، علامہ سیوطی رحمہ اللہ، علامہ ابن عزاوق رحمہ اللہ، امام شوکانی رحمہ اللہ اور علامہ طاہر بنی، رحمہ اللہ ان تمام محدثین نے اس روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے، ذیل میں ہر ایک کا قول وضاحت سے لکھا جائے گا:

۱- حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ ”کتاب الموضوعات“ ۱ء میں لکھتے ہیں:

”هذا الحديث من عمل الهَرَوِي وهو الجَوْنِيَّارِي، وقد سبق القَدْْحُ فيه وأنته كَذَابٌ وضاع“۔

یہ ہَرَوِی کی گھڑی ہوئی حدیث ہے، اور یہ ہروی، جو بیاری ہے، جن کے بارے میں قدح و مذمت گذر چکی ہے، اور بلاشبہ جو بیاری کذاب، روایت گھڑنے والا ہے۔

ایک اہم نکتے کی وضاحت:

واضح رہے کہ أحمد بن عبد اللہ الہروی نام کے دو راوی ہیں:
۱- ابوالولید احمد بن عبد اللہ بن ایوب الحنفی الہروی
یہ ثقہ راوی ہے۔

۲- احمد بن عبد اللہ بن خالد الہروی الجونیباری
یہ مشہور کذاب راوی ہے، زیر بحث سند میں یہی راوی موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ”الہَرَوِي وَهُوَ الْجَوْنِيَّارِي“ کہا یعنی یہ ہروی، جو بیاری ہے، تاکہ ان مشترک ناموں کی وجہ سے، صحیح مصداق سمجھنے میں غلطی نہ ہو جائے۔ واللہ اعلم

۲- حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ ذہبی رحمہ اللہ ”تلخیص الموضوعات“ ۱ میں لکھتے ہیں: ”فيه الجَوْنِيَّارِي كَذَابٌ“۔ اس میں جو بیاری کذاب ہے۔

۳- علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ سیوطی رحمہ اللہ ”اللائی المصنوعة“ ۱ میں رقم طراز ہیں: ”وَضَعَهُ

۱- تلخیص الموضوعات: العلم، ۱۱۳، رقم: ۱۱۵، عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ۱۳۸۶ھ۔

۲- اللائی المصنوعة: ۱/۸۰، محمد عبد المنعم رابع، دار الکتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۲۸ھ۔

الہَرْوِي وَهُوَ الْجَوْبِيَّارِي۔ ہروی نے اسے گھڑا ہے، اور ہروی، جو بیاری ہے۔

۴۔ حافظ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ ”تنزیہ الشریعة“ لے میں لکھتے ہیں: ”(مر) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ وَفِيهِ الْجَوْبِيَّارِي۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ابن مردودہ رحمہ اللہ نے اپنی سند سے تخریج کی ہے، اور اس میں جو بیاری ہے۔

۵۔ حافظ شوکانی رحمہ اللہ کا کلام:

امام شوکانی رحمہ اللہ ”الفوائد المجموعة“ ۷ میں لکھتے ہیں: ”ہو موضوع“۔ یہ حدیث موضوع ہے۔

۶۔ علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ ”تذکرۃ الموضوعات“ ۷ میں لکھتے ہیں: ”فی اللآئِ، إِذَا قَالِ الْمَعْلَمُ لِلصَّبِيِّ... موضوع“۔

”اللائِ“ (امام سیوطی رحمہ اللہ کی تصنیف) میں ہے: جب استاد بچے سے کہتا ہے..... یہ روایت من گھڑت ہے۔

یہاں تک زیر بحث روایت پر محدثین کرام کی عبارتیں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، ان تمام اقوال میں قدر مشترک بات یہ ہے کہ اس روایت کو احمد بن عبد اللہ جو بیاری نے گھڑا ہے، مناسب ہوگا کہ جو بیاری کے بارے میں ائمہ رجال کی آراء بھی معلوم ہو جائیں تاکہ روایت کا فنی مقام مزید واضح ہو جائے، ملاحظہ ہو:

لے تنزیہ الشریعة: کتاب العلم، الفضل الاول، ۲۵۲/۱، رقم: ۶، عبد الوہاب عبد اللطیف و عبد اللہ محمد الصدیق دار الکتب العلمیۃ بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۰۱ھ۔
لے الفوائد المجموعة: کتاب الفضائل، ۲۷۶، رقم: ۱۴، ت: عبد الرحمن بن یحییٰ، دار الکتب العلمیۃ - بیروت، الطبعة ۱۴۱۶ھ۔

لے تذکرۃ الموضوعات: ۸۰/۱، کتب خانہ مجیدیہ ملتان - پاکستان۔

أحمد بن عبد اللہ بن خالد الجویباری کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال:
جویباری کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال ”میزان الاعتدال“ لے سے
ملاحظہ ہوں:

”قال ابن عدي: كان يَضَعُ الحديث لابن كرام على مائريده... وقال
ابن حبان: هو أبو علي الجويباري دجال من الدجاجلة... وقال
النسائي رحمہ اللہ والذَّارِ قُطْنِي رحمہ اللہ: كَذَابٌ. قلت: الجويباري مِمَّنْ يُضَرِّبُ
الْمَثَلَ بِكَذِبِهِ... قال البيهقي رحمہ اللہ: فَإِنِّي أَعْرِفُهُ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ بِوَضْعِ
الحديث على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، فقد وضع عليه أكثر من ألف حديث“۔
ابن عدي رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ أحمد جویباری، ابن کرام (یعنی محمد بن کرام
بن عراق البجستانی، یہ شخص ”فرقہ امامیہ“ کے امام ہیں، حافظ ذہبی رحمہ اللہ
”تاریخ الإسلام“ ان کے بارے میں لکھتے ہیں: یہ شخص شیخ، گمراہ، اور
فرقہ مجسمہ سے تعلق رکھنے والا ہے) کے لیے اُس کی چاہت کے مطابق،
روایتیں گھڑتا تھا..... اور ابن حبان رحمہ اللہ رقم طراز ہیں: ابو علی، جویباری
ہے، جو دجالوں میں سے بڑا دجال ہے..... امام نسائی رحمہ اللہ اور دار
قُطْنِي رحمہ اللہ نے جویباری کو کذاب کہا ہے۔ میں (یعنی حافظ ذہبی رحمہ اللہ) کہتا
ہوں کہ جویباری ان لوگوں میں سے ہے، جن کا جھوٹ ضرب المثل
ہے..... امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خوب اچھی طرح اس کی معرفت
رکھتا ہوں کہ جویباری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیثیں گھڑتا تھا، کیونکہ جویباری
نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہزار سے زائد حدیثیں گھڑی ہیں۔

حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ، ”الضعفاء والمتروكين“ لے میں شیخ ابن حبان رحمہ اللہ

لے میزان الاعتدال: ۱/۱۰۶، رقم: ۴۲۱، ت: علی محمد البجاوي، دار المعرفۃ بیروت۔
لے الضعفاء والمتروكين: من إسمه محمد، ۳/۹۵، رقم الترجمة: ۳۱۷۰، ت: عبد الله القاضي، دار
الکتاب العلمیۃ بیروت، الطبعة ۱۴۰۶ھ۔

کے حوالے سے نقل کرتے ہیں:

”...وَلَعَلَّهْمَا قَدْ وَضَعَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى الصَّحَابَةِ رُؤُوسَهُمَا

وَالَتَّابِعِينَ رُؤُوسَهُمَا أَلْفَ حَدِيثٍ...“۔

”.....شاید کہ جو بیاری اور محمد بن تمیم السعدی نے رسول اللہ ﷺ پر اور


صحابہ رضی اللہ عنہم واتباعین رضی اللہ عنہم پر ایک لاکھ حدیثیں گھڑی ہیں.....“۔

نتیجہ:

ائمہ حدیث کی تصریحات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ روایت من

گھڑت ہے؛ اس لئے اسے رسول اللہ ﷺ کی طرف نسبت کر کے بیان کرنا ہرگز

جائز نہیں ہے۔



روایت نمبر: (۱۲)

سُنن کا ایک بڑا ذخیرہ، سقیم سندوں کی شکل میں محفوظ ہے، ان سقیم روایتوں کے لئے محدثین کرام نے ایسے فنی اصول وضع کیے ہیں، جن کی روشنی میں ان احادیث کو اُن کا فنی مقام دیا جاتا ہے، چنانچہ جمہور علماء کے نزدیک، فضائل کے باب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس جوازِ عمل کے لئے تین بنیادی شرائط نقل کی ہیں، جن کو حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے ”القول البدیع“ میں ذکر کیا ہے، موصوف فرماتے ہیں:

”سمعتُ شيخنا ابن حجر أي العسقلاني المصري مزاراً - وكتبته لي بخطه - يقول: شرطُ العمل بالحديث الضعيف ثلاثة: الأولُ مُتَّفَقٌ عليه، وهو أن يكون الضَّعْفُ غيرَ شديدٍ فيُخْرِجُ مَنْ انفردَ مِنَ الكَذَّابِينَ والمُتَّهَمِينَ وَمَنْ فحش غلطُهُ والثاني: أن يكون مُتَّنَدِّرٌ جَاءَتْ حَتَّى أَصْلُ عامٍ، فيُخْرِجُ مَا يُخْتَرَعُ بحيث لا يكون له أَصْلٌ أَصْلًا، والثالث: أن لا يُعْتَقَدَ عند العمل به ثبوته لثلاثِ سَبَبٍ إلى النبي ﷺ ما لم يَقُلْهُ - قال: والأخيرُ أن عن ابن السَّلام وابن دَقِيقِ العِيدِ، والأوَّلُ نَقَلَ العلائي الإِتِّفَاقَ عليه“ - له

میں نے اپنے شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے کئی دفعہ سنا ہے کہ - یہ شرائط حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مجھے اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھی دیں - ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لئے تین شرائط ہیں: پہلی شرط اتفاقی ہے کہ ضعف، شدید نہ ہو؛ لہذا اس شرط سے وہ کذابین، متہمین اور فاحش الغلط راوی نکل گئے، جو نقلِ روایت میں منفرد (تنہا) ہوں۔

دوسری شرط یہ ہے روایت دین کے اصل عام کے تحت ہو، اس شرط سے وہ روایتیں نکل گئیں، جو گھڑی گئی ہوں، اس طور پر کہ ان کی کوئی اصل نہ ہو۔

تیسری شرط یہ ہے کہ حدیث پر عمل کے وقت ثبوت حدیث کا اعتقاد نہ ہو، تا کہ آپ ﷺ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے، جو آپ ﷺ نے نہ فرمائی ہو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مزید فرمایا کہ آخری دو شرطیں، ابن عبد السلام رحمہ اللہ اور ابن دقین العید رحمہ اللہ سے منقول ہے، اور شرط اول پر علامہ علائی رحمہ اللہ نے علماء کا اتفاق نقل کیا ہے۔

اس دینی انحطاط کے دور میں، ان شرائط کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ محدثین کرام رحمہ اللہ کے اسی منہج کے پیش نظر، ذیل میں ایک ایسی حدیث کی فنی تحقیق ذکر کی جائی گی، جس میں مذکورہ شرائط میں سے شرط اول مفقود ہے، جس کا مقتضی یہ تھا کہ اسے فضائل کے باب میں بھی بیان کرنے سے احتراز کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود یہ روایت زبان زد عام ہے۔

تحقیق روایت:

”بَرَّ الْمَرْؤَةُ الْمُؤْمِنَةُ كَعَمَلِ سَبْعِينَ صَبِيحًا، وَفُجُورُ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ كَفُجُورِ الْفِ فَاجِرٍ“۔

مُتَّفَقٌ عَلَیْہِ، ایک مومن عورت کی نیکی ستر صدیقین کے عمل کی طرح ہے، اور ایک فاجر عورت کی برائی ہزار فاجر مردوں کی طرح ہے۔

تحقیق کا اجمالی خاکہ:

حدیث کی تحقیق پانچ بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے:

۱- روایت کی مصادرِ اصلیت سے تخریج

۲- روایت پر ائمہ حدیث کا کلام

۳- متکلم فی راوی کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال

۴- ائمہ کرام کے اقوال کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم

۵۔ تہتمہ (اس میں یزید بن میسرہ کے قول کی تخریج اور اس کا فنی حکم ذکر کیا جائے گا، یہ قول بھی زیر بحث روایت کے مضمون پر مشتمل ہے)۔

روایت کے مصادرِ اصلیت:

حافظ ابوبکر محمد بن جعفر الخزاز طلیعی (۳۲۷ھ) ”اعتلال القلوب“ لہ میں لکھتے ہیں:

”حدثنا الحكم بن عمرو الأنماطي قال: حدثنا علي بن عياش قال:

حدثنا سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ”بُرِّ الْمَرْأَةُ الْمُؤْمِنَةُ كَعَمَلِ سَبْعِينَ صِدِّيقًا، وَفُجُورُ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ كَفُجُورِ أَلْفِ فَاجِرٍ“۔

حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”ایک مومن عورت کی نیکی، ستر صدیقین کے عمل کی مانند ہے، اور ایک فاجر عورت کی برائی ہزار فاجر مردوں کی برائی طرح ہے“۔

یہی روایت امام ابوبکر البزازی رحمہ اللہ (۲۹۲ھ) نے اپنی ”مُسْنَد“ لہ میں اور ابونعیم الاصبہانی رحمہ اللہ (۳۳۰ھ) نے ”حلیۃ الأولیاء“ لہ میں تخریج کی ہے۔ مذکورہ تینوں سندیں، سند میں مذکور سعید بن سنان پر آکر مشترک ہو جاتی ہیں، البتہ واضح رہے کہ ”مسند بزار“ میں روایت کی ابتدا میں اضافہ ہے، ملاحظہ ہو۔

”ثَلَاثٌ قَاصِمَاتُ الظَّهْرِ“ قال أبو بكر: ”ذَهَبَ عَنِّي وَاحِدَةٌ“ ”وَرُوحٌ

شَوِيءٌ يَأْمُنُهَا صَاحِبُهَا وَتُخَوِّنُهُ، وَإِمَامٌ يَسْخَطُ اللَّهُ وَيَرْضَى النَّاسُ وَإِنَّ

مَثَلَ عَمَلِ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ كَمَثَلِ عَمَلِ سَبْعِينَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ عَمَلَ الْمَرْأَةِ

الْفَاجِرَةِ كَعَمَلِ أَلْفِ فَاجِرٍ“۔

لہ اعتلال القلوب: باب التخطي إلى ذوات المحارم، ۱۲/۱۹، رقم: ۲۲۶ تحقیق: حمدي اليمر
داش، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، الطبعة الثانية ۱۴۲۰ھ۔

لہ البحر الزخار: ۱۲/۱۹، رقم: ۵۳۸۶، ت: محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم۔
المدينة المنورة، الطبعة ۱۴۰۹ھ۔

لہ حلیۃ الأولیاء: حدیث بن کریم، ۱۰۱/۶، دار الکتب العلمیۃ۔ بیروت، الطبعة ۱۴۰۹ھ۔

”تین چیزیں کمر توڑنے والی ہیں، امام ابو بکر بزار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تین باتوں میں سے ایک مجھ سے بھول گئی۔

”وہ بری عورت، جس کا خاوند اس پر بھروسہ کرے اور وہ اس کے ساتھ خیانت کرے، اور وہ امام جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اور لوگوں کو خوش کرتا ہے، اور ایک مومن عورت کا عمل ستر صدیقین کے عمل کی طرح ہے، اور فاجر عورت کا عمل ہزار فاجر مردوں کی برائی کی طرح ہے۔“

یہ روایت اسی اضافے اور سند کے ساتھ حارث ابن ابی اسامہ رحمہ اللہ (۲۸۲ھ) نے بھی تخریج کی ہے۔ حارث ابن ابی اسامہ رحمہ اللہ کی یہ روایت ”اتحاف الخیرة المہرة“ لہ، اور ”المطالب العالیة“ لہ میں موجود ہے۔

روایت کے بارے میں ائمہ حدیث کا کلام:

زیر بحث روایت کے بارے میں علامہ بؤصیری رحمہ اللہ، امام ابو بکر بزار رحمہ اللہ، حافظ یثربی رحمہ اللہ، اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے تبصرہ کیا ہے، ذیل میں ان محدثین کرام کے اقوال نقل کیے جائیں گے۔

۱- علامہ بؤصیری رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ بؤصیری رحمہ اللہ (۸۴۰ھ) روایت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”قال التِّرَاز: ذهبْتُ عني واحدةٌ، وعِلَّتْهُ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ۔ قُلْتُ: ضَعَفَهُ ابنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: ”مُنْكَرُ الْحَدِيثِ“۔

وقال الدَّارُ قُطْنِي: ”يَضَعُ الْحَدِيثَ“۔ لہ

لہ اتحاف الخیرة المہرة: ۳/۳۵۸، رقم: ۳۱۷۷، ت: أبو عبد الرحمن عادل بن سعد وأبو اسحاق السید بن محمود، مكتبة الرشد۔ الرياض، الطبعة ۱۴۱۹ھ۔

لہ المطاب العالیة: ۳/۳۵۳، رقم: ۱۶۳۱، ت: محمد ختنہ، دار الکتب العلمیة۔ بیروت، الطبعة الأولى ۲۰۰۳ھ۔

لہ اتحاف الخیرة المہرة: ۳/۳۵۸، رقم: ۳۱۷۷، ت: أبو عبد الرحمن عادل بن سعد وأبو اسحاق السید بن محمود، مكتبة الرشد۔ الرياض، الطبعة ۱۴۱۹ھ۔

امام بڑا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں بیان کی گئی ان تین چیزوں میں ایک چیز مجھ سے بھول گئی ہے، اور اس حدیث کی علت (محدثین کے کلام کا سبب) سعید بن سنان ہے، میں (علامہ ابو صیری رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ ابن معین رحمہ اللہ، ابو حاتم رحمہ اللہ اور نسائی رحمہ اللہ نے سعید بن سنان کی ”تضعیف“ کی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سعید ”منکر الحدیث“ (کلمہ جرح) ہے اور دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ احادیث گھڑتا تھا۔

۲- امام بڑا رحمہ اللہ کا کلام:

امام ابوبکر البرزازی رحمہ اللہ اپنی ”مسند“ لے میں سعید بن سنان کی حدیثیں تخریج کر کے لکھتے ہیں:

”وَأَحَادِيثُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَتَبْتُ لِحُسْنِ كَلَامِهِمَا، وَلَا نَعْلَمُ شَاذَ كَافٍ أَكْثَرَهَا غَيْرُهُ. وَسَعِيدٌ لَيْسَ بِالْحَافِظِ، وَهُوَ شَامِيٌّ، قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ النَّاشِ عَلَى شَوْيْعٍ حَقَّ ظُهُ، وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ...“

اور سعید بن سنان عن ابی زاہریہ عن ابن عمر، رحمہ اللہ اس سند سے یہ دو روایتیں (ایک یہی روایت ہے، ایک اس کے علاوہ دوسری روایت ہے) میں نے صرف اس وجہ سے لکھی ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں کلام اور مضمون بہت اچھا ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ ان حدیثوں میں اکثر کے نقل کرنے میں، سعید بن سنان کے ساتھ کوئی دوسرا بھی، ان کے ساتھ شریک ہے، اور سعید حافظ حدیث نہیں ہے، اور وہ شامی ہے، لوگ ان کے سوء حفظ (حافظی کے خرابی) کے باوجود ان کی حدیثیں لکھتے تھے، اور سعید کی حدیثوں کا تحمل (روایات لینا) کرتے تھے.....“

۳- حافظ پیشی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ پیشی رحمہ اللہ ”مجمع الزوائد“ لے میں رقمطراز ہیں:

”رواہ البزار - وقال: ذهب عَنِّي واحدة، قلت: وقد مرت بي - ”وجاز سوء رأي خير أدقته، وإن رأي شر أذاعه“ - وفيه سعيد بن سنان، وهو متروك“ -
امام بزار رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے اور فرمایا ہے کہ مجھے (ان) تین چیزوں میں سے (ایک بھول گئی ہے، میں (حافظ پیشی رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ میرے سامنے (امام بزار رحمہ اللہ) کا بھولا ہوا) حدیث کا یہ جزء گزرا ہے، (اور وہ جزء یہ ہے): ”اور وہ برا پڑوسی جو (تمہارے) خیر کو دیکھے تو ذہن کر دے اور اگر (تمہارے) شر کو دیکھے تو لوگوں میں پھیلا دے“، اور اس حدیث میں سعید بن سنان ”متروک“ (شدید جرح) راوی ہے۔

۴- امام سیوطی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ (۹۱۱ھ) ”جامع الأحادیث“ لے میں لکھتے ہیں: ”ابن زنجويه عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو ضعيف“ - ابن زنجويه نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس روایت کی تخریج کی ہے، اور وہ حدیث ضعیف ہے۔

زیر بحث روایت پر گزشتہ چار اقوال میں ائمہ حدیث کا تبصرہ گزر چکا ہے، آپ جان گئے ہیں کہ ان اقوال میں سعید بن سنان کلام کا مدار ہے، سعید بن سنان کے بارے میں ائمہ رجال کی عبارتیں ذیل میں ملاحظہ فرمائیں تاکہ زیر بحث روایت کا فنی مقام جاننا آسان ہو جائے۔

لے مجمع الزوائد: ۵۰۰/۳، رقم: ۴۳۳، ت: الشيخ عبد الله الدرويش، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۵ھ۔

لے جامع الأحادیث: قسم الأقوال، ۱۷۵/۳، رقم: ۱۰۹۲۰، تحقيق: عباس أحمد صقر وأحمد عبد الجواد، دار الفكر - بيروت، الطبعة ۱۴۱۳ھ۔

سعید بن سنان ابو مہدی (توفی ۱۶۸ھ) کے بارے میں ائمہ کے اقوال:

امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، يَرْوِي عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ النَّبِيِّ رحمہم اللہ بَنَحْوِ مِثْلِ ثَلَاثِينَ حَدِيثًا أَحَادِيثٌ مُنْكَرَةٌ“۔^۱

سعید بن سنان ”ضعیف الحدیث“ (کلمہ جرح)، ”منکر الحدیث“ (کلمہ جرح) ہے، جس نے اس سند سے یعنی ”عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم“ تقریباً تیس منکر حدیثیں نقل کی ہے۔

امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ أَبِي مَهْدِي فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ“۔^۲ میں نے ابو زرعة رحمہ اللہ سے ابو مہدی سعید بن سنان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ ”ضعیف“ ہے۔

حافظ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سعید بن سنان ”ثقة“ نہیں ہے۔^۳ حافظ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں: ”تِلْكَ لَا يُعْتَبَرُ بِهَا، هِيَ بَوَاطِيلٌ“۔ سعید بن سنان کی ان روایتوں کا اعتبار نہیں ہے، یہ باطل ہیں۔^۴

امام أحمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ابو مہدی سعید بن سنان ”ضعیف“ ہے۔^۵ امام بخاری رحمہ اللہ رقم طراز ہیں: سعید بن سنان ”منکر الحدیث“ (کلمہ جرح) ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ سعید بن سنان ”متروک الحدیث“

^۱ الجرح والتعديل: ۲۸/۴، رقم: ۵۲۳۳، ت: مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۲ھ۔

^۲ المصدر السابق۔

^۳ تهذيب الكمال: ۲۴۸/۷، رقم: ۲۲۷۷، رقم: ۶۱۸۶، ت: الشيخ أحمد علي وحسن أحمد، دار الفكر-بيروت، الطبعة ۱۴۱۳ھ۔

^۴ الكامل في الضعفاء: ۳/۳۹۹، رقم: ۸۰۱، الشيخ عادل والشيخ علي محمّد، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۸ھ۔

(کلمہ جرح) ہے۔ لے

امام ابو احمد ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وعامة ما يرويه وخاصة عن أبي الزاهرية غير محفوظة، ولو قلنا: إنه هو الذي يرويه، عن أبي الزاهرية لا غيره، جاز ذلك لي، وكان من صالحي أهل الشام وأفضلهم، إلا أن في بعض رواياته ما فيه“۔ لے
سعید بن سنان کی اکثر روایات غیر محفوظ ہیں، اور خصوصاً وہ روایات جو ابو الزاهریتہ سے مروی ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان روایتوں کو ابو زہریہ سے سعید بن سنان کے علاوہ کسی اور نے نقل نہیں کیا، تو میرے لئے یہ کہنا جائز ہے، اور وہ شام کے نیک اور فضیلت والے لوگوں میں تھا، البتہ اس کی بعض روایتوں میں ”کچھ“ ہے۔

حافظ ابراہیم بن یعقوب جوزجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة، لأنشبه أحاديث الناس...“۔ لے مجھے خوف ہے کہ سعید کی روایتیں من گھڑت ہیں، یہ روایتیں دوسرے لوگوں کی احادیث کے مشابہ نہیں ہیں.....۔
امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”متروك الحديث“۔ لے سعید بن سنان ”متروک الحدیث“ (شدید جرح) ہے۔

امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”لا أعرفه“۔ ۵
میں سعید کو نہیں پہچانتا۔

حافظ ابو بکر بن ابی خيثمة رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

حَدَّثَنِي صاحب لي من بني تميم قال: قال أبو مُشَهِرٍ: حدثنا صدقة بن خالد، قال: حَدَّثَنِي أَبُو مَهْدِيٍّ سَعِيدُ بْنُ سَنَانٍ مَوْذَنُ أَهْلِ حِمَاصٍ وَكَانَ

لے المصدر السابق۔ لے المصدر السابق۔

لے تہذیب الکمال: ۲۲۸/۴، رقم: ۲۲۷۷، رقم: ۶۱۸۶، ت: الشیخ أحمد علی وحسن أحمد، دار

الفکر۔ بیروت، الطبعة ۱۴۱۳ھ۔

لے المصدر السابق۔ لے المصدر السابق۔

ثِقَّةٌ مَرْضِيًّا“۔ ۱۔

ابو بکر بن ابی خيثمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بنو تميم کے ایک ساتھی نے کہا: ابو مسہر کا کہنا ہے کہ صدقہ بن خالد نے ہمیں احادیث بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے ابو مہدی سعید بن سنان نے حدیث بیان کی ہے، اور یہ سعید بن سنان حمص والوں کے موذن اور ثقہ، پسندیدہ شخص ہیں۔

حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”متروک و زماہ الدار قطنی وغیرہ بالوضع“۔ ۲۔ سعید بن سنان ”متروک“ راوی ہے، اور دار قطنی رضی اللہ عنہ وغیرہ نے سعید بن سنان کو وضع حدیث میں مہتمم قرار دیا ہے۔

حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”زاهد ضعیف الحدیث“۔ ۳۔

سعید بن سنان زاهد، ”ضعیف الحدیث“ (کلمہ جرح) راوی ہے۔ البتہ حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے مقام پر، سعید بن سنان کو ”متروک“ (شدید جرح) راوی کہا ہے، چنانچہ حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ ”تَلْخِصُ الْمَوْضُوعَاتِ“ ۴۔ میں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ”سَمِعَ رَجُلًا يُغَنِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا صَلَاةَ لَهُ حَتَّى مِثْلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ“ کے تحت لکھتے ہیں:

”فيه سعيد بن سنان متروك عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن الربيع بن خيثم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ“۔

اس حدیث میں سعید بن سنان ”متروک“ (شدید جرح) راوی ہے، جو ابو الزاہریہ، عن کثیر بن مرہ، عن ربیع بن خيثم عن ابن مسعود کی سند سے اس روایت کو بیان

۱۔ المصدر السابق۔

۲۔ التقریب: ۲۳۷، رقم: ۲۳۳۳، ت: محمد عوامة، دار الرشید، الطبعة الرابعة ۱۳۱۸ھ۔
۳۔ الکاشف: ۱/۳۶۳، رقم: ۱۹۲۵، عزت علی، عبد عطية وموسى محمد علي الموشى، دار الكتب الحديثية، القاهرة، الطبعة الأولى ۱۳۹۲ھ۔

۴۔ تلخیص الموضوعات: ۲۹۲، رقم: ۷۹۵، ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد۔ الرياض، الطبعة ۱۴۱۹ھ۔

کرتے ہیں۔

ائمہ حدیث کے اقوال کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم:

حافظ دارقطنی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، حافظ جوزجانی رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ بیہقی رحمہ اللہ اور علامہ بوسیری رحمہ اللہ، ان سب محدثین نے سعید بن سنان کے لئے فنی جرح کے شدید صیغے استعمال کیے ہیں، مثلاً:

سعید بن سنان کی ان روایتوں کا اعتبار نہیں ہے، یہ باطل ہیں (یحییٰ بن معین رحمہ اللہ)۔

مجھے خوف ہے کہ سعید کی روایتیں من گھڑت ہیں (جوزجانی رحمہ اللہ)۔

”متروک“۔ (امام بخاری رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ، علامہ بوسیری رحمہ اللہ، حافظ بیہقی رحمہ اللہ)۔

سعید بن سنان احادیث گھڑتا تھا (دارقطنی رحمہ اللہ)۔

”منکر الحدیث“ (امام بخاری رحمہ اللہ اسے اکثر شدید جرح کے لئے استعمال کرتے ہیں)۔

اس کے علاوہ امام ابو حاتم رحمہ اللہ، امام ابو ذر رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، حافظ ابن عدی رحمہ اللہ، ان سب علماء نے سعید بن سنان کے لئے ضعف کے مختلف فنی الفاظ استعمال کیے ہیں، البتہ صدقہ بن خالد رحمہ اللہ نے سعید بن سنان کو ”ثقة“ کہا ہے۔

بہر حال ان اقوال کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یہی کہا جائے گا کہ ابو مہدی سعید بن سنان کی یہ روایت اس خاص تناظر میں کہ سعید بن سنان اس کو نقل کرنے میں متفرد ہے، ضعف شدید سے ہرگز خالی نہیں ہے، اس لئے زیر بحث روایت ”شدید ضعیف“ کہلائے گی، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف ایسا کلام منسوب ہو سکتا ہے، جو کم از کم ضعف شدید سے خالی ہو، جیسا کہ

تفصیل ماقبل میں گذر چکی ہے، اس لئے زیر بحث روایت کو آپ ﷺ کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔

ایک اہم نکتہ:

یہاں فنی حیثیت سے ایک دلچسپ نکتہ بھی ملحوظ رہے کہ سابقہ اقوال میں امام ابو حاتم رحمہ اللہ اور حافظ ابو احمد ابن عدی رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی تھی کہ سعید بن سنان کی وہ حدیثیں غیر محفوظ اور منکر ہیں، جسے وہ ابو الزاہریہ سے نقل کرے، اور زیر بحث روایت کی سند آپ ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس سند میں بھی سعید بن سنان، ابو الزاہریہ سے روایت نقل کرنے والے ہیں، نیز امام ابو بکر البرزازی رحمہ اللہ اور حافظ ابن عدی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق ابو الزاہریہ کی اکثر، (بلکہ حافظ ابن عدی رحمہ اللہ کے نزدیک تمام) روایتیں صرف سعید بن سنان ہی سے منقول ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سعید بن سنان، ابو الزاہریہ سے اس روایت کے نقل کرنے میں مفرد (تہا) ہے، غرضیکہ سعید بن سنان کا تہا ابو الزاہریہ سے روایت نقل کرنا، اس روایت کے ساقط الاعتبار ہونے کو اور بھی مؤکد کر دیتا ہے واللہ اعلم۔

نتیجہ:

گزشتہ اقتباسات سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ زیر تحقیق روایت کو مرفوعاً (یعنی آپ ﷺ کے انتساب سے) بیان کرنا درست نہیں ہے، البتہ حافظ ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے ”حلیۃ الأولیاء“ لہ میں ”یزید بن میسرہ“ کا اسی مضمون پر مشتمل قول تخریج کیا ہے، ملاحظہ ہو:

”حدثنا أبو محمد بن حیان، ثنا أبو بكر بن أبي عاصم، ثنا أبو التقي، ثنا

بَقِيَّة، ثنا إسماعيل بن يحيى بن جابر عن يزيد، قال: المرأة الفاجرة

كألف فاجر، والمرأة الصالحة يُكْتَبُ لَهُ عَمَلُ مائَةِ صَدِيقٍ۔“

ایک فاجر عورت، ہزار فاجر مردوں کی طرح ہے اور ایک نیک عورت کے لئے سو صدیقیوں کا عمل (یعنی اس کا ثواب) لکھا جاتا ہے۔

سند کے راویوں پر ائمہ کا کلام:

اس سند میں کل چھ راوی ہیں، ذیل میں ہر ایک کے بارے میں ائمہ کے اقوال اور آخر میں روایت کا فنی حکم لکھا جائے گا۔

۱- ابوالشیخ عبداللہ بن محمد بن جعفر بن حیان:

حافظ ذہبی رحمہ اللہ "سیر أعلام النبلاء" لے میں رقمطراز ہیں: "الإمام، الحافظ، الصادق، مُخَدِّثُ أَصْبَهَانَ (أصبهان کے محدث)، أبو محمد عبداللہ بن محمد بن جعفر بن حیان، المعروف مابن الشیخ، صاحب التصانیف (کتابوں کے مصنف)"۔

۲- ابن ابی عاصم احمد بن عمرو ابوبکر الشیبانی:

حافظ ذہبی رحمہ اللہ "سیر أعلام النبلاء" لے میں لکھتے ہیں: "حافظ، کبیر، إمام، بارع (علم و فضل میں کامل)، متبع للأثر (احادیث پر عمل کرنے والے)، کثیر التصانیف (بہت سی کتابوں کے مصنف)"۔

۳- ہشام بن عبدالملک بن عمران الیربوعی، ابوقتی الحمصی:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: "صدوق وَبِمَا وَهَمَ"۔ (صدوق ہیں، بعض اوقات ان کو وہم ہو جاتا ہے) حافظ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: "ثِقَّةٌ"۔

۴- بقیۃ بن الولید بن صائد، ابوسمجد الحمصی:

حافظ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: "الحافظ، وَثَقَهُ الْجُمْهُورُ فِيمَا سَمِعَهُ مِنَ الثَّقَاتِ"۔

لے سیر أعلام النبلاء: ۱۶/۲۷۶، ت: شعب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة۔ بیروت، الطبعة التاسعة ۱۴۱۳ھ۔

لے سیر أعلام النبلاء: ۱۳/۳۳۰، شعب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة۔ بیروت، الطبعة التاسعة ۱۴۱۳ھ۔

لے التقرب: ۵۴۳، رقم: ۳۰۰، ت: محمد عوامة، دار الرشید، سوريا، الطبعة الرابعة ۱۴۱۸ھ۔

لے الکاشف: ۲۳۳/۲، رقم: ۶۰۷۰، عزت علی عید عطیة و موسی محمد علی الموشی، دار الکتب

الحديثية۔ القاهرة، الطبعة الأولى ۱۳۹۲ھ۔

لے الکاشف: ۱۶۰/۱، رقم: ۶۲۶، عزت علی عید عطیة و موسی محمد علی الموشی، دار الکتب

الحديثية۔ القاهرة، الطبعة الأولى ۱۳۹۲ھ۔

جمہور محدثین نے بقیہ کی ان حدیثوں کی توثیق کی ہے، جو انہوں نے ثقات سے سنی ہے۔

”وقال النسائي رحمه الله: إذا قال: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا فهو ثقة“۔^۱
اور امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بقیہ بن ولید حدیثنا وَاخْبَرَنَا کہے (یعنی سماعت حدیث کی صراحت کر دے)، تو وہ ثقہ ہے۔
واضح رہے کہ مذکورہ سند میں بقیہ نے حدیثنا کے صیغے سے حدیث نقل کی ہے۔

۵- إسماعيل بن يحيى بن جابر:

موصوف کا ترجمہ نہیں مل سکا (از راقم)۔

۶- أبو يوسف يزيد بن ميسرة بن حلبس الدمشقي:

امام بخاری رحمہ اللہ نے ”التاريخ الكبير“^۲ میں اور امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ”الجرح والتعديل“^۳ میں یزید بن میسرہ کو جرح و تعدیل کے بغیر ذکر کیا ہے (ائمہ رجال بعض اوقات کتب تراجم میں راوی کو جرح یا تعدیل کے بغیر نقل کر دیتے ہیں، ان راویوں کا بھی محدثین کے نزدیک ایک خاص فنی مقام ہوتا ہے)۔

البتہ ابن حبان رحمہ اللہ نے یزید بن میسرہ کو ”ثقات“ میں ذکر کیا ہے۔^۴
سند کے راویوں پر اقوال علماء سے واضح ہے کہ یہ روایت کسی ایسے راوی پر مشتمل نہیں ہے، جس سے روایت ”ساقط الاعتبار“ کہلائے، اس لئے یزید بن میسرہ کے حوالے سے اس مضمون کو بیان کرنا درست ہے، البتہ اس حدیث کا آپ ﷺ کی جانب انتساب درست نہیں ہے، جیسا کہ ماقبل میں تفصیل آچکی ہے۔

۱- المصدر السابق۔

۲- التاريخ الكبير: ۸/۲۳۷، رقم: ۱۲۶۵۲، ت: مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية۔ بيروت، الطبعة الثانية ۱۴۱۹ھ۔

۳- الجرح والتعديل: ۹/۳۵۱، رقم: ۱۶۸۸۲، ت: مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية۔ بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۲ھ۔

۴- كتاب الثقات: ۷/۶۲۷، مؤسسة الكتب الثقافية۔ بيروت، الطبعة ۱۴۰۲ھ۔

روایت نمبر: (۱۳)

ہمارے گرد و پیش ایسی بہت سی حدیثیں زبان زد عام ہیں، جو اگرچہ صحیح معنی پر مشتمل ہوتی ہیں، لیکن خاص ان الفاظ کے ساتھ وہ حدیثیں ثابت نہیں ہوتی، چنانچہ محدثین کرام رحمہم اللہ ان حدیثوں کو صاف لفظوں میں بے اصل قرار دیتے ہیں؛ کیونکہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ کسی بھی کلام اور کلمات کو رسول اللہ ﷺ کی جانب ایک خاص اصل اور قاعدے سے منسوب کیا جاسکتا ہے، جسے ”اسناد“ کہا جاتا ہے، اس اسناد میں موجود راویوں کے حالات، ان کے مابین اتصال اور انقطاع وغیرہ امور کو دیکھ کر حفاظ حدیث ہر حدیث کو اس کا فنی مقام دیتے ہیں، اسی چھان بین میں بعض حدیثوں کے بارے میں وہ بے اصل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں؛ لہذا ایسی حدیثوں کو بیان کرنا جائز نہیں ہوتا، البتہ یہ عین ممکن ہے کہ اس بے اصل روایت کا مضمون دوسری معتبر حدیثوں سے ثابت ہو، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم ان معتبر روایتوں کی وجہ سے ان کے مضمون پر مشتمل بے اصل حدیثوں کو ثابت سمجھ کر انھیں بیان کریں، اور رسول اللہ ﷺ کی طرف ان کا انتساب کریں، اس کی وجہ ماقبل میں بیان کی جا چکی ہے کہ ثبوت حدیث کے اپنے مسلمہ اصول اور ضروریات ہیں، یہ بے اصل حدیثیں ان سے خالی ہونے کی بنا پر درجہ اعتبار سے ساقط اور ناقابل بیان ہوتی ہیں، اور انہی کے مضمون پر مشتمل دیگر روایات ان قواعد پر پورا اترنے کی وجہ سے مقبول بن جاتی ہیں۔ سابقہ بیان کردہ اصول کو خاتم المحدثین علامہ عبد العزیز فرہاروی رحمہم اللہ نے ”کوثر النبی“ لے میں ان لفظوں سے لکھا ہے:

”و کثیراً ما یكون الحديث الموضوع مُشْتَمِلًا علی معنی صحیح،

فَإِذَا سَمِعْتُ الْعَامَّةَ مِنَ الْمُحَدِّثِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ، ذَهَبَ وَهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُرِيدُ إِبْطَالَ مَعْنَاهُ، وَهَذِهِ جَهَالَةٌ شَدِيدَةٌ مَرَّ كُوزُهُ فِي طَبَاعِهِمْ...
وبالجملة أهل الحديث إنما يذكرون ضُذُورَ اللَّفْظِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -
”اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک من گھڑت حدیث، صحیح معنی پر مشتمل ہوتی ہے،
پس جب ایک عامی شخص کسی محدث سے یہ سن لے کہ یہ حدیث من گھڑت
ہے، تو اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ محدث تو اس حدیث کے معنی اور
مضمون کو باطل قرار دے رہا ہے، بس یہی شدید جہالت ان کی فطرتوں
میں اتری ہوئی ہے..... خلاصہ کلام یہ ہے کہ محدث تو صرف اس بات کا
انکار کرتا ہے کہ یہ الفاظ رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں ہیں“ (ہاں! یہ ممکن
ہے کہ اس کا معنی کسی دوسری روایت سے ثابت ہو)۔

اسی فریضے کے پیش نظر، ذیل میں ایک ایسی روایت بیان کی جائے گی جو محدثین
کے نزدیک بے اصل ہے، اس لئے اسے بیان کرنا درست نہیں ہے، البتہ اس کے معنی
پر مشتمل دیگر معتبر حدیثیں اس بے اصل روایت سے مستغنی کرنے والی ہیں، لہذا
صرف ان مقبول حدیثوں کو بیان کرنا چاہیے۔

عنوان روایت:

آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”میری امت کے علمائے اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔“

تحقیق کا خاکہ:

حدیث کی تحقیق چار بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے:

۱- روایت کا مصدر

۲- روایت کے بارے میں ائمہ کے اقوال اور ان کا خلاصہ (اس میں روایت کا

فنی حکم بھی موجود ہے)

۳- اہم تنبیہ (اس میں زیر بحث بے اصل روایت کے معنی پر مشتمل معتبر حدیث ہے)

۴- خاتمہ (اس میں امام ابو الحسن الشاذلی رحمہ اللہ کے خواب کا بیان اور اس کا فنی حکم ہے)

روایت کی تخریج:

امام ابو عبد اللہ الفخر الدین رازی رحمہ اللہ اپنی ”تفسیر“ لے میں لکھتے ہیں:

”... قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ”عَلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَآئِيلَ“۔

”عَلَمَاءُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ“..... آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔

روایت کے بارے میں ائمہ حدیث کے اقوال:

محدثین کرام صریح عبارتوں کے ساتھ زیر بحث روایت کا فنی مقام بیان فرماتے رہے ہیں، ذیل میں چند محدثین کے اقوال اور آخر میں ان کا خلاصہ لکھا جائے گا۔

۱- علامہ زرکشی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ زرکشی رحمہ اللہ ”اللائی المثنوۃ فی الأحادیث المشہورۃ“ لے میں رقمطراز ہیں:

”لَا يَعْرِفُ لَهُ أَصْلُ“۔

اس کی اصل نہیں پہچانی جاتی۔

۲- علامہ سخاوی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ سخاوی رحمہ اللہ ”المقاصد الحسنۃ“ لے میں لکھتے ہیں:

”قال شيخنا ومن قبله الدمي والزرزقي، أنه لا أصل له، زاد بعضهم

لہ تفسیر الفخر الرازی: سورۃ یونس، ۴۰/۱، دار احیاء التراث العربی- بیروت۔

لہ اللائی المثنوۃ: فی الفضائل، ۱۶۶، ت: مصطفیٰ عبدالقادر عطاء، دار الکتب العلمیۃ- بیروت،

الطبعة ۱۴۰۶ھ۔

لہ المقاصد الحسنۃ: حرف العین، ۳۳۲، رقم: ۷۰۰، ت: عبد اللہ محمد الصدیق، دار الکتب العلمیۃ۔

بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۲۷ھ۔

ولا یعرف فی کتاب معتبر...“

”ہمارے شیخ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے قبل رحمۃ اللہ علیہ اور زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی اصل نہیں ہے۔ بعض محدثین نے یہ اضافہ کیا ہے کہ یہ روایت کسی معتبر کتاب میں نہیں پہچانی جاتی.....“

۳۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ”الدرر المنتثر“ لہ میں تحریر فرماتے ہیں:
”لا أصل له“۔

اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

۴۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ”الفوائد المجموعۃ“ ۳ لہ میں لکھتے ہیں:

”قال ابن حجر والزرکشی لا أصل له وروی بسند ضعیف: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد“۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی اصل نہیں ہے اور ایک ضعیف سند سے مروی ہے کہ لوگوں میں درجہ نبوت سے قریب ترین، علماء اور مجاہدین ہیں۔

”الفوائد المجموعۃ“ میں جس ضعیف سند کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ”سیر أعلام النبلاء“ ۳ لہ میں اس روایت کو اسی سند کے ساتھ نقل کیا ہے، ملاحظہ ہو:

”وبه أخبرنا الحسن الفارسي يعني - ابن شاذان - أخبرنا أبو سهل

القطن، حدثنا عبد الكريم ابن الهيثم، حدثنا ابن عتبة، حدثنا حفص

لہ الدرر المنتثر: ۱۸۸، رقم: ۲۹۳، محمد عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیہ۔ بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۰۸ھ۔
لہ الفوائد المجموعۃ: فی فضائل العلم، ۲۸۶، رقم: ۳۷، عبد الرحمن بن یحییٰ، دار الکتب العلمیہ۔
بیروت، الطبعة ۱۴۱۶ھ۔

لہ سیر أعلام النبلاء: الحسینی، ۱۸/۵۲۳، شعب آر توط و محمد نعیم العرقسوسی، مؤسسة الرسالة۔ بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۰۵ھ۔

بن جمیع، عن سماک، عن محمد بن المنکدر، قال: قال ابن عباس رضی اللہ عنہ یرفعہ: إِنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ دَرَجَةً مِنْ دَرَجَةِ النَّبِیَّةِ أَهْلُ الْجِهَادِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ، أَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ، فَقَالُوا مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَنْبِیَاءُ، وَأَمَّا أَهْلُ الْجِهَادِ فَجَاهَدُوا عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَنْبِیَاءُ۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”بلاشبہ لوگوں میں درجہ نبوت سے قریب تر لوگ، مجاہدین اور علماء ہیں۔ اہل علم انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور مجاہدین انبیاء کی اُن تعلیمات پر لوگوں سے جہاد کرتے ہیں۔“

۵- علامہ محمد بن درویش الحوت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

محمد بن درویش الحوت رحمۃ اللہ علیہ ”أسنى المطالب“ لے میں لکھتے ہیں:

”موضوع لأصل له كما قاله غير واحد من الحفاظ ويدُّمُّه كثير من العلماء فيكثيهم غفلة عن قول الحفاظ“۔ یہ موضوع، بے اصل روایت ہے، یہ بات کئی حفاظ حدیث نے کہی ہے، اور بہت سے علماء، حفاظ کے اس قول سے غفلت کی بناء پر اس حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔

۶- ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ”المصنوع“ لے میں لکھتے ہیں:

”لا أصل له كما قال الدميري والزرَّ كشي والعسقلاني“۔

اس کی اصل نہیں ہے، جیسا کہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ اور زرّ کشی رحمۃ اللہ علیہ اور عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے۔

محمد ثنین عظام کے کلام کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم:

علامہ زمیری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن درویش الخوت رحمۃ اللہ علیہ ان سب محدثین نے حدیث: ”عَلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ“ کو بے اصل کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف ایسا قول منسوب ہو سکتا ہے، جو کسی معتبر سند سے ثابت ہو، اس لیے یہ حدیث ان لفظوں (یعنی عَلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ) میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں) کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف ایسا کلام ہی منسوب ہو سکتا ہے، جو پایہ ثبوت تک پہنچ چکا ہو، بصورت دیگر روایت قابل التفات و بیان نہیں رہتی، چنانچہ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ ”المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للعلامة علي القاري“ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

”...وإذا كان الحديث لا إسناده له، فلا قيمة له ولا يلتفت إليه، إذا الاعتماد في نقل كلام سيدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إلينا، إنما هو على الإسناد الصحيح الثابت أو ما يقع موقعه، وما ليس كذلك فلا قيمة له“۔
 ”..... اور جب حدیث کی سند ہی نہ ہو، تو وہ بے قیمت اور غیر قابل التفات ہے؛ کیونکہ ہماری جانب ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نقل کرنے میں اعتماد صرف اسی سند پر ہو سکتا ہے، جو صحیح سند سے ثابت ہو، یا جو اس کے قائم مقام ہو، اور جو حدیث ایسی نہ ہو تو وہ بے قیمت ہے۔“

اہم تنبیہ:

حدیث: ”عَلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ“۔ ”میری امت کے علماء بنی

المصنوع: شذرات في بيان بعض الإصطلاحات، ص: ۱۸، الشیخ عبدالفتاح أبو غدہ، ایچ ایم سعید کمپنی کراچی۔

اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔“ یہ روایت ان لفظوں کے ساتھ اگرچہ بے اصل اور ناقابل بیان ہے، لیکن اس معنی پر مشتمل مضمون، معتبر روایتوں میں ثابت ہے، جنہیں بیان کرنا درست ہے، اور یہ مستند حدیثیں زیر بحث بے اصل روایت ”علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل“ سے مستغنی کرنے والی ہیں، بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ان معتبر احادیث کو شائع کیا جائے، مثلاً حدیث: ”العلماء ورثة الأنبياء“۔ ”علماء انبیاء کے وارث ہیں“۔ اس روایت کے بارے میں حافظ شمس الدین السخاوی رحمہ اللہ ”المقاصد الحسنة“ لہ میں لکھتے ہیں:

”العلماء ورثة الأنبياء، أحمد، وأبو داود، والترمذي، وآخرون، عن أبي الدرداء رضی اللہ عنہ به مرفوعاً بزيادة، ”الأنبياء لم يُورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم“۔ وصححه ابن حبان، والحاكم، وغيرهما، وحسنة حمزة الكتاني، وضعفه غيرهم بالإضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها، ولذا قال شيخنا: له طوق يُعرف بها أن للحديث أصلاً انتهى۔

حدیث: ”علماء انبیاء کے وارث ہیں“ امام أحمد رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابوداؤد رحمہ اللہ اور دیگر محدثین کرام رحمہم اللہ نے یہ حدیث حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے اس اضافے کے ساتھ مرفوعاً تخریج کی ہے: ”الأنبياء لم يُورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم“۔ ترجمہ: ”انبیاء دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے، وہ صرف علم کا وارث بناتے ہیں“۔ ابن حبان رحمہ اللہ، حاکم رحمہ اللہ وغیرہ نے اس حدیث کو ”صحیح“ کہا ہے، اور حمزہ کتانی رحمہ اللہ نے اس کو ”حسن“ اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے اضطراب سند کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس حدیث کے شواہد بھی ہیں، جن سے اس کو تقویت مل جاتی ہے۔ ہمارے شیخ (حافظ ابن حجر رحمہ اللہ) اسی وجہ سے

کہا کرتے تھے کہ اس حدیث کے کئی طرق ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کی اصل موجود ہے۔

خاتمہ:

یہاں آخر میں ایک حکایت کو ذکر کرنا موضوع کے مناسب معلوم ہوتا ہے، جسے طائفہ شاذلیہ کے بانی ابوالحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ (۵۹۱ھ - ۶۵۶ھ) نے بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابوالحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد اقصیٰ میں ایک دربار قائم ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہیں اور تمام انبیاء زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی دوران موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا:

”إِنَّكَ قَدْ قُلْتَ: غُلَمَاءُ أُمِّي كَأَنْبِيَاءِ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ فَأَرِنَا مِنْهُمْ وَاحِدًا“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، ان میں سے کوئی ایک مجھے دکھا دیجئے۔

اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال پوچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دس جوابات دیے، موسیٰ علیہ السلام نے اعتراضاً فرمایا: جواب، سوال کے موافق ہونا چاہیے، سوال ایک ہے اور آپ نے جوابات دس دیے ہیں، اس اعتراض کے جواب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا:

”هَذَا لَا عِتْرَاضَ وَارِدَ عَلَيْكَ أَيْضًا حِينَ شِئْتُ ﴿وَمَا تَلْكَ بِمِثْلِكَ يَا مُوسَى﴾ (سورة طه، الآية: ۱۷) وَكَانَ الْجَوَابُ عَضَائِي، فَغَدَدْتُ صِفَاتٍ كَثِيرَةً...“

”یہ اعتراض تو آپ پر بھی وارد ہوتا ہے، جس وقت آپ سے پوچھا گیا کہ


﴿وَمَا تَلْكَ يَمِينُكَ يَا مُوسَى﴾ ترجمہ: ”اے موسیٰ! تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔“ اس کا جواب تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، (لیکن) آپ نے عصا کی بہت سی صفات اور خوبیاں شمار کر وادیں.....“۔

خواب کا فنی حکم:

واضح رہے کہ فنی حیثیت سے خواب اور مکاشفات کسی حدیث کے ثبوت کے لیے شرعی حجت نہیں بن سکتے، بلکہ محدثین کرام رحمہم اللہ نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جو اصول و قواعد بیان کیے ہیں، انہی اصولوں پر احادیث کو پرکھا جائے گا، اور احادیث کے رد و قبول میں حفاظ حدیث کے اقوال کو مقتداء بنایا جائے گا، اس لیے زیر بحث روایت (عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ) کے ثبوت میں اس حکایت اور خواب کو ذکر کرنا فنی حیثیت سے ہرگز کافی نہیں ہے، چنانچہ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہم اللہ ایک موقع پر محدثین کے نزدیک مکاشفات سے ثبوت حدیث کی نفی کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”ويزيد في لزوم التمسك بأقوال الحفاظ المحدثين العارفين بهذا الشأن، فهم أصحاب الحق والمزج المتبع في التصحيح والتضعيف، بما سنوه من قواعدهم لحفظ سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، من أن يدخل عليها ما ليس منها“۔^۱

”حدیث کی معرفت رکھنے والے محدثین اور حفاظ کے اقوال کو اختیار کرنا ایک لازمی امر ہے، یہی لوگ اہل حق ہیں، اور حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں یہی لوگ قابل اقتداء اور مرجع ہیں، کیونکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر متعلقہ مواد سے محفوظ رکھنے کے لیے، ان محدثین ہی نے اصول و قواعد وضع کیے ہیں۔“



روایت نمبر: (۱۴)

ہر خیر و شر ایک خاص پس منظر رکھتا ہے، جس سے ہمیں نیکی اور بدی کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے، انھی برائیوں میں وضع حدیث اپنی نوعیت کی سنگین معصیت ہے، جو بعض خاص عوامل اور افراد کی کار فرمائی ہوتی ہے، محدثین کرام ان افراد کی طرف خصوصیت سے توجہ دلاتے ہیں تاکہ ہر عام و خاص حدیث نقل کرنے میں حساس رہے، اور من گھڑت روایتوں کا سد باب ہو جائے؛ چنانچہ اسی مقصد کے حصول کے لئے، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الانثار المرفوعة“ لے میں وضائیں کی مختلف قسمیں ذکر کی ہیں، ان میں ایک قسم ان لوگوں کی بھی ہے جو حضرات اہل بیت وغیرہ کی محبت میں غلو کا شکار ہو کر حدیثیں گھڑتے ہیں؛ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

”السابع قوم حملهم على الوضع حُبهم الذي أعماهم وأصمهم كما وضَعُوا أَحَادِيثَ فِي مَنَاقِبِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَمَنَاقِبِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَمُعَاوِيَةَ وَغَيْرِهِمْ وَوَضَعُوا أَحَادِيثَ فِي مَنَاقِبِ أَبِي حَنِيفَةَ“۔

”ساتویں قسم ان لوگوں کی ہے جن کو اندھا، بہرہ کرنے والی محبت نے روایات گھڑنے پر اُکسایا، جیسا کہ بعض لوگوں نے اہل بیت، خلفائے راشدین، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کے مناقب میں حدیثیں گھڑیں، اور بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں حدیثیں ایجاد کیں“۔

حضرات اہل بیت کے مناقب معتبر نصوص سے ثابت ہیں، اور ہر مسلمان کے دل میں اہل بیت کی محبت اور عقیدت موجود ہے، ان فضائل کو ثابت کرنے کے لئے خود ساختہ روایتوں کا سہارا لینا، نہ صرف عقلاً مذموم امر ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات سے

جہالت کا ثبوت دینا ہے، کیونکہ شریعتِ اسلامی باطل اور من گھڑت روایتوں کی مداخلت قطعاً برداشت نہیں کرتی۔ اسی فریضے کے پیش نظر ذیل میں مناقبِ اہل بیت پر مشتمل ایک ایسی روایت بیان کی جائے گی، جس کو متقدمین و متاخرین علماء کرام نے من گھڑت کہا ہے، اس لئے اسے بیان کرنا درست نہیں ہے۔

عنوانِ روایت:

حضراتِ اہل بیت کا مسکین، یتیم اور قیدی پر ایثار اور تین دن بھوکا رہنا۔

تحقیق کا خاکہ:

روایت کی تحقیق تین اجزاء پر مشتمل ہے:

۱- روایت اور مصادرِ اصلیہ سے اس کی تخریج

۲- روایت کے بارے میں ائمہ حدیث کے اقوال اور ان کا خلاصہ

۳- روایت کا فنی حکم

مصادرِ اصلیہ سے تخریج:

امام ثعلبی رحمہ اللہ نے ”الکشف والبيان“ ۱۷ میں آیت شریفہ وَيُؤْتُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۱۸۔
”یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، اور اُس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے۔“ کے تحت حضراتِ اہل بیت کا قصہ مذکورہ سند سے لکھا ہے:

”وقال غیرهما: نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ وفاطمة رضی اللہ عنہا وجارية لهما، يقال لها فِضَّةٌ وكانت القصَّة فيه، وأخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن عَلِيِّ بْنِ الشَّيْبَانِي العدل قراءة عليه في صفر

سنة سبع وثمانين وثلثمائة قال: أخبرنا ابن الشرقي قال: حدثنا محبوب بن حميد النصرى، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ابن عم الأحنف بن قيس سنة ثمان وخمسين ومائتين وسأله عن هذا الحديث روح بن عبادة قال: حدثنا القيم بن مهران عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما۔

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن سهيل بن علي بن مهران الباهلي بالبصرة قال: حدثنا أبو مسعود عبد الرحمن بن فهد بن هلال قال: حدثنا غنيم بن يحيى عن أبي علي القيري عن محمد بن السائر عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبو الحسن بن مهران وحدثني محمد بن زكريا البصري قال: حدثني سعيد بن واقد المزني قال: حدثنا القاسم بن بهرام عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله (سبحانه وتعالى) ﴿يُؤْفُونَ بِالَّذِئِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾۔۔۔

قصہ کا حاصل یہ ہے کہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند رفقاء کے ساتھ عیادت کے لئے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”یا أبا الحسن لو نذرتِ عَلِيٌّ وَلَذِيكَ نَذْرًا وَكُلُّ نَذْرٍ لَا يَكُونُ لَهُ وَقَاءٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ“۔ ”اے ابو الحسن! اگر تم اپنے بچوں کی صحت یابی کے لئے نذر مان لو (تو یہ بہتر ہوگا) اور ہر وہ نذر جو پوری نہ کی جائے تو وہ کچھ بھی نہیں،“ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ منت مانی کہ اگر حضرات حسنین رضی اللہ عنہما شفا یاب ہو گئے تو وہ بطور شکر تین روزے رکھیں گے، اور حالت یہ تھی کہ اہل بیت کے ہاں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا۔

اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شمعون یہودی سے تین صاع جو قرض لے کر آئے، ایک دوسری سند کے مطابق ایک یہودی پڑوسی سے کچھ اُون لے آئے، تاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تین صاع جو کے عوض اسے کات لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو پیس کر پانچ روٹیاں پکا کیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نمازِ مغرب حضور اقدس ﷺ کی اقتداء میں ادا کر کے تشریف لائے، اور ان کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا، اسی دوران دروازے پر ایک مسکین نے صدا لگائی: ”السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ بَیْتِ مُحَمَّدٍ! مسکینِ مِنْ مساکینِ المسلمین، أَطْعِمُونِی أَطْعَمَکُمْ مِنْ مَوَائِدِ الْجَنَّةِ“۔ السلام علیکم اے محمد ﷺ کے گھر والوں! میں ایک مسلمان مسکین ہوں، مجھے کچھ کھلا دو، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھلائے۔ اس پر سب گھر والوں نے اپنا کھانا مسکین کو دے دیا، اور صرف پانی پی کر افطاری کی۔

اگلے روز بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو پیس کر روٹیاں پکا کیں، ابھی کھانے کے لئے بیٹھے ہی تھے کہ ایک یتیم کی آواز سنائی دی: ”السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ بَیْتِ مُحَمَّدٍ! یتیمِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُهَاجِرِین، أَشْشَهِدُ وَالِدِی یَوْمَ الْعَقَبَةِ أَطْعِمُونِی أَطْعَمَکُمْ اللّٰهُ عَلٰی مَوَائِدِ الْجَنَّةِ“۔ السلام علیکم، اے محمد ﷺ کے گھر والوں! میں مہاجرین کی اولاد میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے والد یومِ عقبہ میں شہید ہو چکے ہیں، مجھے کچھ کھلا دو، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھلائے۔ سب گھر والوں نے اپنا کھانا یتیم کو دے کر دوسرے دن بھی صرف پانی پی کر گزارہ کیا۔ تیسرے دن حسبِ سابق افطاری کے وقت ایک قیدی صدابند کرنے لگا: ”السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ بَیْتِ مُحَمَّدٍ! تَأْسِرُونَا (وَتَشْدُونَنَا) وَلَا تُطْعِمُونَا، أَطْعِمُونِی فَإِنِّی أَسِیرُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَطْعَمَکُمْ اللّٰهُ عَلٰی مَوَائِدِ الْجَنَّةِ“۔ السلام علیکم، اے محمد ﷺ کے گھر والوں! تم ہمیں قیدی بناتے ہو (اور باندھ کر رکھتے ہو) لیکن کھلاتے نہیں ہو، مجھے کچھ کھلا دو، میں محمد ﷺ کا قیدی ہوں، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھلائے، تیسرے دن بھی سب نے اپنا کھانا اس قیدی کو دے دیا۔

اب چونکہ تین دن روزوں کی نذر مکمل ہو چکی تھی، چوتھے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں لے گئے: ”وَهُمْ يَزْعُمُونَ كَالْفِرَاحِ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ“۔ اور حالت یہ تھی کہ سب بھوک کی شدت سے پرندے کے بچوں کی طرح کانپ رہے تھے، جب آپ ﷺ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا: ”يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا أَشَدَّ مَا يَسُوْنِي مَا أَرَى بِكُمْ“۔ ”اے ابوالحسن! تمہاری حالت مجھے سخت پریشان کر رہی ہے“۔ اس کے بعد آپ ﷺ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پیٹ بھوک کی شدت سے کمر کو لگ رہا تھا، آنکھیں اندر کودھنسی ہوئی تھیں، یہ حالت دیکھ کر آپ ﷺ نے فرمایا: ”وَاعْوَنَاهُ بِاللَّهِ! أَهْلُ بَيْتِ مُحَمَّدٍ يَمُوتُونَ جُوعًا“۔ ”اے اللہ! مدد فرما، محمد (ﷺ) کے گھر والے بھوک سے مر رہے ہیں“۔ اس پر حضرت جبرائیل مذکورہ آیات لے کر اترے۔

روایت پر کلام:

۱۔ حکیم ترمذی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ ابو عبد اللہ حکیم ترمذی رحمہ اللہ ”نَوَادِرُ الْأَصُول“ لے میں مذکورہ روایت کے بارے میں رقمطراز ہیں:

”وَمِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي تُنْكِرُهُ الْقُلُوبُ ... هَذَا حَدِيثٌ مُزَوَّفٌ وَقَدْ تَطَرَّقَ فِيهِ صَاحِبُهُ حَتَّى شَبِهَ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِينَ فَالْجَاهِلُ أَبَدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ يَعْصُ شَفَاحَتِهِ تَلَهْفًا أَنْ لَا يَكُونَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ ... وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَ هَذَا الْفِعْلِ مَذْمُومٌ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَنْزِيلِهِ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ (البقرة: ۲۱۹...)“۔

”اور بعض احادیث کو قلوب اجنبی سمجھتے ہیں..... (ان حدیثوں میں) یہ ملع

کی گئی حدیث ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والا اس میں بہت آگے بڑھ گیا ہے، حتیٰ کہ کمزور لوگوں کو شبہ میں بھی ڈال دیا ہے، اس حدیث کو لانے والا جاہل شخص، افسوس سے اپنے ہونٹ چباتے ہوئے یہ کہتا ہے: ”کیا اس طرح نہیں ہو سکتا“، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس فعل کا کرنے والا قابلِ مذمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ (البقرة: ۲۱۹) ترجمہ: اور صحابہ رضی اللہ عنہم آپ ﷺ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو آپ (ﷺ) کہہ دیجئے کہ تم زاد خرچ کرو.....۔“

اس کے بعد حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کے من گھڑت ہونے کے دلائل تفصیل سے ذکر کئے، ان دلائل میں سے چند عنقریب ذکر کیے جائیں گے۔

ایک اہم وضاحت:

حکیم ترمذی رحمہ اللہ کی مذکورہ عبارت ہم نے مصر میں موجود ”مکتبۃ الإمام البخاری“ کے نسخے سے نقل کی ہے، البتہ بیروت کے مکتبہ ”دارصادر“ کے نسخے میں عبارت کے بعض الفاظ مختلف ہیں، مثلاً:

- ۱- ”نطرق“ (راہ پانا) کی جگہ ”نطرف“ (حد اعتدال سے بڑھنا) ہے۔
- ۲- ”المضعفين“ (کمزور لوگ) کی جگہ ”المستمعين“ (سننے والے لوگ) ہے۔

۳- ”دارصادر“ کے نسخے میں عبارت میں مذکور ”أبدا بهذا الحديث“ کے الفاظ بھی نہیں ہیں۔

حکیم ترمذی رحمہ اللہ کی متابعت:

علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ”اللائی المصنوعة“ لے میں، علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے

”الفوائد المجموعة“ لے میں علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تذکرۃ الموضوعات“ ۲ لے میں، اور علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ”کوثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ ۳ لے میں، ان سب محدثین نے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر اکتفاء کرتے ہوئے، اس روایت کو موضوع کہا ہے۔

۲- علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ”کتاب الموضوعات“ ۴ لے میں لکھتے ہیں: ”وہذا حدیث لا یشک فی وضعہ...“۔ اس حدیث کے من گھڑت ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے.....“۔

۳- حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ”مِنْهَاجُ السُّنَّةِ النَّبَوِّیَّةِ“ ۵ لے میں لکھتے ہیں:
 ”إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الْكُذْبِ الْمَوْضُوعِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ
 بِالْحَدِيثِ، الَّذِي هُمْ أَئِمَّةُ هَذَا الشَّأْنِ وَحُكَّامِهِ...“۔
 معرفت حدیث رکھنے والے ایسے علماء جو اس دین کے مقتداء اور فیصل
 ہیں، ان کے نزدیک یہ حدیث بالاتفاق جھوٹ اور من گھڑت ہے.....“۔

۴- حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الْمُنْتَقَى مِنْ مِنْهَاجِ الْإِعْتِدَالِ“ ۶ لے میں، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”منہاج السنۃ النبویۃ“ کا اختصار کیا ہے، زیر بحث روایت کے

لے الفوائد المجموعة: ص: ۳۷۶، رقم: ۷۹، ت: عبد الرحمن بن یحییٰ، دار الکتب العلمیہ - بیروت، الطبعة ۱۴۱۶ھ۔

۲ تذکرۃ الموضوعات: ۲۲۸، کتب خانہ مجیدیہ، ملتان پاکستان۔

۳ کوثر النبی: ص: ۱۱۲، المخطوط، نسخۃ العلامة عبد اللہ الہواری (۱۲۸۳ھ)۔

۴ کتاب الموضوعات: ۳۹۲/۱، عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ۱۳۸۶ھ۔

۵ منہاج السنۃ النبویۃ: ۱۷۵/۷، ت: الدكتور محمد رشاد سالم، مؤسسة قوطیہ - مصر، الطبعة الأولى ۱۴۰۶ھ۔

۶ المنتقى من منہاج الاعتدال: ۴۶۷، ت: محب الدين الخطيب، الرئاسة العامة - الرياض، الطبعة الثالثة ۱۴۱۳ھ۔

موضوع ہونے پر حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ”منہاج السنۃ النبویۃ“ میں بہت سے دلائل ذکر کیے ہیں، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ان دلائل کو ”المنتقى من منہاج الاعتدال“ میں اختصاراً ذکر کیا ہے، ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ حفاظ حدیث، روایتوں پر کیسی گہری نگاہ رکھتے تھے، ملاحظہ ہو:

۱۔ ”... والجواب المطالبة بصحة هذا فإنه من وضع الطريقة لا يوثق حافظ في وضعه ولا أراكَ تثقل من مُسندٍ مُعتبرٍ ولا من كتاب مُحدثٍ...“

”..... اس حدیث کا جواب، اول تو اس کی صحت کا مطالبہ ہے؛ کیونکہ اسے جھوٹ گھڑنے والے شخص نے وضع کیا ہے، کسی بھی حافظ حدیث کو اس کے من گھڑت ہونے میں تردد نہیں ہے، اور میں نے نہیں دیکھا کہ یہ حدیث کسی معتبر سند سے مروی ہو.....“

۲۔ ”... ومن المعلوم أنَّ علياً رضی اللہ عنہ تزوّج بفاطمة رضی اللہ عنہا بالمدينة وھلّ أئني على الإنسان ﷺ مكيّة باتفاق المُفسرين، فلاح كذب.“

”..... اور یہ بات (سب کو) معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح مدینہ منورہ میں ہوا ہے، اور اس قصہ میں نازل ہونے والی آیت ﷺ علی الإنسان ﷺ کے بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ کی ہے، لہذا اُن کا جھوٹ کھل کر سامنے آگیا۔“

۳۔ ”... ثم قد ثبت في الصحيحين أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن النَّذر وقال: إنَّه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به مِنَ الْبَخِيلِ، فالله مَدَح الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ، لا على نفس عقده...“

”..... پھر صحیحین میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے نذر سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ”نذر خیر نہیں لاتی، اور بات صرف یہ ہے کہ نذر کے ذریعے بخیل سے نکلوا یا جاتا ہے“، نیز اللہ نے نذر کو پورا کرنے کی تو تعریف

کی ہے، (البتہ) نذر ماننے کی تعریف نہیں کی.....۔

کلام کی وضاحت:

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے نذر ماننے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی ”صحیح“ لے میں یہ روایت تخریج کی ہے:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ - وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَرُّ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے نذر سے منع فرمایا ہے اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”نذر خیر نہیں لاتی، اور بات صرف یہ ہے کہ نذر کے ذریعے بخیل سے نکلوا یا جاتا ہے۔“

یہی روایت الفاظ کے تھوڑے اختلاف کے ساتھ ”الصحيح للبخاري“ ۲ میں بھی ہے۔

اب ہم صحیحین کی اس روایت کے مقابلے میں زیر بحث روایت کا جائزہ لیں، تو معلوم ہوگا کہ اس روایت میں آپ ﷺ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نذر ماننے کی ترغیب دے رہے ہیں، چنانچہ اس روایت کو قبول کرنا، گویا کہ (معاذ اللہ) آپ ﷺ کے قول و فعل میں تضاد کا قائل ہونا ہے، یہ کھلی دلیل ہے کہ یہ روایت خود ساختہ ہے۔

۴۔ ”... ثُمَّ لَمْ تَكُنْ لِفَاطِمَةَ جَارِيَةً اسْمَهَا فَضَّةٌ ... وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ خَادِمًا فَعَلِمَهَا أَنَّ تُسَبِّحَ عِنْدَ الْمَنَامِ وَتُكَبِّرُ وَتُحَمِّدُ مِائَةً۔ وَقَالَ: هَذَا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خَادِمٍ۔“

..... (اس قصہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضہ نامی باندی کا ذکر ہے)

۱۔ الجامع الصحيح لمسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر، ۱۲۶۱/۳، رقم: ۱۶۳۹، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية - بيروت۔

۲۔ الجامع الصحيح للبخاري: باب إلقاء النذر العبد إلى القدس، ۱۲۴/۸، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۲ھ۔

حالانکہ حضرت فاطمہ ؓ کی ”فضۃ“ نامی کوئی باندی نہیں تھی..... بلکہ صحیحین میں حضرت علی ؓ سے یہ منقول ہے کہ حضرت فاطمہ ؓ، ایک مرتبہ حضور ﷺ کے پاس خادم مانگنے گئیں، تو آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ ؓ کو خادم کے بدلے یہ سکھا دیا کہ وہ سوتے وقت سومرتہ تسبیح، تحمید، تکبیر پڑھ لیا کرے، اور آپ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے۔

۵۔ ”... ثُمَّ تَرَكُ الْأَطْفَالَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلاَ غِذَاءٍ خِلَافَ الشَّرْعِ وَتَعْرِضُ لِلتَّلَفِ، وَالتَّبَيُّ ﷺ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بَعْنُ تَعُولُ...“۔
 ”..... (اس قصے میں حضرات حسنین ؓ کو تین دن مسلسل بھوکے رکھنے کا ذکر ہے، حالانکہ) تین دن تک بچوں کو بغیر غذا کے چھوڑے رکھنا، شریعت کے خلاف ہے، اور ایسا کرنا بچوں کو ہلاکت کے لئے پیش کرنا ہے، اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ تو (صدقہ کرنے میں) اپنی ذات سے ابتداء کر، پھر اپنے اہل و عیال پر خرچ کر.....“۔

کلام کی وضاحت:

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ تین دن بچوں کو بھوکا پیاسا رکھنا، انھیں اپنے ہاتھوں موت کے سپرد کرنے کے مترادف ہے، ظاہر ہے شریعت نے اس کی اجازت کسی کو نہیں دی کہ نفلی صدقات کے لئے بچوں کی جان خطرے میں ڈال دی جائے، حالانکہ صدقات کے بارے میں آپ ﷺ کی تعلیمات یہ ہے: ”ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بَعْنُ تَعُولُ...“۔ تو (صدقہ کرنے میں) اپنی ذات سے ابتداء کر، پھر اپنے اہل و عیال پر خرچ کر.....“۔ حاصل یہ ہے کہ اس قصہ میں یہ خلاف شرع امور، اس کے من گھڑت ہونے پر خود دلیل ہیں۔

واضح رہے کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حدیث: ”ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بَعْنُ

”أفضل الصدقة ما كان عن ظَهْر غِنَى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول“ -

ولمسلم عن جابر رضي الله عنه في قصة المُدَبَّر في بعض الطرق: "أبدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلاهلك" -

حدیث: ”اَبْدًا بِنَفْسِكَ ثُمَّ بَمَنْ تَعُولُ“۔ یہ حدیث میں نے ان لفظوں کے ساتھ نہیں دیکھی، البتہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے: ”افضل صدقہ وہ ہے جو تو نگری سے زائد مال میں ہو، اور اوپر والا ہاتھ، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور ابتداء اپنے اہل و عیال سے کرو“۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت، جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اس میں قصہ بدر (غلام) کے بعض طرق میں یہ الفاظ ہیں: ”اپنی ذات سے ابتدا کرو، پہلے اس پر خرچ کرو، اس سے کچھ بچ جائے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو“۔

٦- "... ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَدِينَةِ أَسِيرٌ قَطُّ يَسْأَلُ النَّاسَ، بَلْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَقُومُونَ بِالْأَسِيرِ الَّذِي يَسْتَأْذِنُونَهُ..." -

”..... پھر مدینہ میں کبھی بھی کوئی ایسا قیدی نہیں تھا، جو لوگوں سے مانگتا پھرے، بلکہ مسلمان اپنے قیدیوں کی ضروریات کا انتظام خود فرماتے تھے۔“

۱۔ ثم قول الیتیم استشهد أبي يوم العقبة - هذا من الكذب الظاهر المتهووك، فَلَيْلَةُ الْعَقَبَةِ كانت مَبَايَعَةَ مُحَضَّة لَيْسَتْ غَزْوَةً فَقَبِحَ اللَّهُ مِنْ وَضَعَهُ۔

پھر (اس واقعے میں) یتیم کا یہ کہنا کہ میرے والد عقبہ میں شہید ہوئے ہیں، یہ بالکل کھلم کھلا جھوٹ ہے، کیونکہ لیلۃ عقبہ میں تو صرف بیعت ہوئی تھی، غزوہ نہیں ہوا تھا، اللہ اس حدیث کے گھڑنے والے کا برا کرے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کا خلاصہ:

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان دلائل کا حاصل یہ ہے کہ یہ روایت تفسیری، تاریخی، اور شرعی مسلمات کے بالکل خلاف ہے، اور حفاظ حدیث کا اتفاق ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔

۲۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ”روح المعانی“ ۱۷ میں حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وَأَقُولُ مَكْثُهَا وَمَدَّ يَتُّهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ جِدًّا كَمَا سَمِعْتُ فَلَا جَزْمَ فِيهِ بَشِيءٌ. وَابْنُ الْجَوْزِيِّ نَقَلَ الْخَبَرَ فِي تَبَصُّرَتِهِ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ عَلَى أَنَّهُ مَقْرُنٌ يَتَسَاهَلُ فِي أَمْرِ الْوَضْعِ حَتَّى قَالُوا إِنَّهُ لَا يَعُولُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ فَاحْتِمَالُ أَضْلَلِ التَّرْوِيلِ فِي الْأَمِيرِ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ وَفَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَائِمٌ وَلَا جَزْمٌ وَلَا إِنْثَابٌ لِقَعَاؤِضِ الْأَخْبَارِ وَلَا يَكَاذُ يَسْلَمُ الْمَرْجُوحُ عَنْ قِيلٍ وَقَالَ، نَعَمْ لَعَلَّهُ يَتَرَجَّحُ لِكَيْفِيَّةِ الَّتِي نَصَّحَتْهَا الرِّوَايَةُ الْأُولَى ثُمَّ إِنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِتُرْوِيلِهَا فِيهَا لَا يَتَخَصَّصُ حُكْمُهَا بَهَا بَلْ يَشْمُلُ كُلُّ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ الطَّبْرَسِيُّ مِنَ الشَّيْعَةِ فِي

مجمع البیان رِوَايَةُ لَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِيمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى الْقَوْلِ بَعْدَ النُّزُولِ فِيهَا لَا يَنْطَلِقُ مَقَامَهُمَا وَلَا يَنْقُصُ قَدْرُهُمَا إِذْ دُخِلَ لُهُمَا فِي الْأَبْرَارِ أَمْرٌ جَلِيلٌ بَلْ هُوَ دُخُولُ أَوَّلِيْنَ فَهَمَاهُمَا...“

”میں (علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ) کہتا ہوں کہ اس آیت کے کئی یاد دہانی ہونے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، چنانچہ (اس کے کئی یاد دہانی ہونے میں) یقینی بات نہیں کی جاسکتی اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تبصرے میں یہ روایت نقل کی ہے (یعنی اسے موضوعات میں لکھا ہے) اور وضع کا تعاقب نہیں کیا، کیونکہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پر وضع کا حکم لگانے میں متساہل ہیں، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ (وضع) کے باب میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مراجعت (رائے معلوم کرنا) نہیں کی جائے گی۔

اس آیت شریفہ میں یہ احتمال موجود ہے کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، البتہ یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی اسے ثابت قرار دے سکتے ہیں؛ کیونکہ روایتوں کے مابین اختلاف ہے، اور کسی بھی ترجیح والے قول کا اعتراض سے خالی رہنا مشکل ہے، البتہ پہلی روایت میں مذکورہ کیفیت سے، اس آیت کے اہل بیت کے بارے میں نازل ہونے کا احتمال رائج ہو جاتا ہے، پھر اگر ہم اس کے قائل بھی ہو جائیں کہ یہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، پھر بھی اس آیت میں موجود حکم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص نہیں رہتا، بلکہ یہ حکم ہر اس شخص سے تعلق رکھتا ہے، جو ایسے اعمال بجالائے، جیسا کہ ”مجمع البیان“ میں طبری شیعہ (فرقہ امامیہ کے

بڑوں میں شمار ہوتے ہیں، تو فی ۵۳۸ھ) نے عبد اللہ بن میمون بن ابی عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی سند سے ایک روایت میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اگر یہ قول اختیار کریں کہ یہ آیت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تو اس سے ان کی قدر و منزلت میں کمی نہیں آتی، کیونکہ ان دونوں کا نیک لوگوں میں داخل ہونا ایک واضح بات ہے، بلکہ وہ دونوں (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ) تو بطریق اولیٰ ابرار (نیک لوگوں) میں داخل ہوں گے، کیونکہ وہ (دونوں) تو وہی ہیں.....“۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی وضاحت:

واضح رہے کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ یہ چند امور ہیں:

۱- علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ کے کئی یا مدنی ہونے میں شدید اختلاف ہے، یقیناً طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سابقہ اقتباس کے معارض (خلاف) ہے، کیونکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں نازل ہونے والی آیت ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ اس کے بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ مکی ہے، اور زیر بحث واقعہ مدنی ہے (چنانچہ ثابت ہوا کہ یہ قصہ موضوع ہے)۔

۲- علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع قرار دیا ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پر وضع کا حکم لگانے میں متساہل ہیں، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ (وضع) کے باب میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مراجعت (رائے معلوم کرنا) نہیں کی جائے گی۔

آپ جان چکے ہیں کہ اس حدیث پر وضع کا حکم لگانے میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متفرق نہیں ہیں، بلکہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ سے قبل حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بہت سے علماء نے اسے موضوع کہا ہے؛ چنانچہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ

ذہبی، علامہ سیوطی رحمہ اللہ، ان سب محدثین نے اس روایت کو من گھڑت کہا ہے، بلکہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے: ”إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الْكِذْبِ الْمَوْضُوعِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ، الَّذِي هُمْ أَئِمَّةُ هَذَا الشَّانِ وَخُكَّامُهُ...“۔ معرفت حدیث رکھنے والے ایسے علماء جو اس دین کے مقتداء اور فیصل ہیں، ان کے نزدیک یہ حدیث بالاتفاق جھوٹ اور من گھڑت ہے.....“۔

۳۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے میں کافی اضطراب ہے، اول تو اس کے مکی یا مدنی ہونے میں، دوم یہ کہ اس واقعے کا مصداق اہل بیت ہیں یا کوئی اور صحابی، اور اس خاص تناظر میں کہ ائمہ حدیث اسے من گھڑت بھی قرار دے رہے ہیں، یہ اضطراب، روایت کے ساقط الاعتبار ہونے کو اور بھی مؤکد کر دیتا ہے واللہ اعلم۔

ائمہ حدیث کے اقوال کا خلاصہ:

حکیم ترمذی رحمہ اللہ، حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ، حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ، حافظ سیوطی رحمہ اللہ، علامہ شوکانی رحمہ اللہ، علامہ طاہر بنی رحمہ اللہ، علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ، ان سب محدثین نے اس روایت کو من گھڑت قرار دیا ہے، البتہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس واقعے کے ثبوت میں امکانی احتمالات ذکر کیے ہیں، لیکن یہ احتمالات اس واقعے کو ثابت قرار دینے سے قاصر ہیں (ما قبل میں تفصیل آچکی ہے) یہی وجہ ہے کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس واقعے کے ثبوت میں جزم (یقین) کا انداز اختیار نہیں فرمایا۔

روایت کا فنی حکم:

محدثین کرام کے اقوال سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، اس لئے اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔

روایت نمبر: (۱۵)

علوم شرعیہ میں تصنیف و تالیف کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کی تذکیر و تشہیر دیگر فنون و علوم سے یکسر مختلف ہے، کیونکہ شریعت کے تمام مضامین، اپنی خاص بنیادی اساس پر قائم ہوتے ہیں، جن کی روشنی میں ہر تصنیف و تالیف کی صحت و نُقصم کا فیصلہ ہوتا ہے، خصوصاً احادیث کو نقل کرنے کے سلسلے میں محدثین کرام کی وضع کردہ شرائط پر پورا اترنا انتہائی اہم ہے، ورنہ صاحب تصنیف بعض اوقات غیر مستند روایات کی تشہیر کرنے لگتا ہے، ہمارے پاک و ہند کی تصنیفات میں اس اہم فریضے کی طرف مزید توجہ کی ضرورت ہے، چنانچہ ہم یہاں خاتم المحدثین مولانا عبد العزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے عرف میں غیر مستند روایات کے پھیلنے کی کیا وجوہات ہیں، تاکہ ان اسباب سے اہتمام سے بچا جاسکے، ملاحظہ ہو:

”وَالسَّبَبُ أَنَّهُ قُلَّ اشْتِعَالُهُمْ بِصُنَاعَةِ الْحَدِيثِ، وَأَنَّهُمْ اعْتَمَدُوا عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْأَلْسِنَةِ مِنْ تَحْسِينِ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ وَأَنَّهُمْ اخْتَدَعُوا بِالْكُتُبِ الْغَيْرِ الْمُتَّفَحَةِ الْحَاوِيَةِ لِلرُّطَبِ وَالْيَابِسِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُلْغُغْهُمْ وَعَيْدُ التَّهَاوُنِ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ، وَأَيْضاً مِنْهُمْ مَنْ يَعْتَمِدُ عَلَى كُلِّ مَا أَسْنَدَ مِنْ غَيْرِ قَدْحٍ وَتَعْدِيلٍ فِي الرُّوَاةِ“۔ حلہ

”(ان کتب میں رطب و یابس احادیث کی) وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین فن حدیث سے مشغولیت کم رکھتے تھے، اور مسلمان سے حسن ظن رکھتے ہوئے، زبان زد عام روایتوں پر بھروسہ کر لیتے [حالانکہ ایسا اعتماد صرف ماہر فن پر ہی کیا جاسکتا ہے، نہ کہ حدیث میں کم اشتغال رکھنے والوں

پر [اور یہ مصنفین رطب و یابس پر مشتمل، غیر منقح کتابوں سے دھوکے میں پڑ گئے، اور (ان کے بارے میں یہی حسن ظن ہے کہ) ان مصنفین کو حدیث نقل کرنے میں تہاوان (حقیر سمجھنا) کی وعید نہیں پہنچی ہوگی، اور ان میں بعض مصنفین ایسے بھی ہیں کہ سند کے راویوں کی جرح و قدح دیکھے بغیر، ہر سند والی روایت پر اعتماد کر لیتے ہیں۔“

بہر حال ہمارے معاشرے میں ارباب تصنیف کے ساتھ ساتھ، ہر فرد امت کو حدیث کے معاملے میں انتہائی حساس رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ من گھڑت اور ساقط الاعتبار احادیث کی روک تھام ہو سکے۔

اسی اہمیت کے پیش نظر ذیل میں ایک ایسی حدیث پیش کی جائے گی، جو محدثین کرام کے نزدیک بے اصل اور من گھڑت ہے، اس لئے اس کے بیان کرنے سے احتراز ضروری ہے۔

روایت کا عنوان:

آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”اللہ کی معرفت میرا سرمایہ ہے.....“۔

تحقیق اجمالی کا خاکہ:

روایت کی تحقیق تین بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے:

۱- روایت اور اس کے مصادر

۲- روایت کے بارے میں ائمہ کے اقوال اور اس کا خلاصہ

۳- تتمہ اور روایت کا فنی حکم

روایت اور اس کے مصادر اصلہ:

تجۃ الاسلام امام ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ ”احیاء علوم الدین“ لے میں لکھتے ہیں:

لے اتحاف السادة المتقين (احیاء علوم الدین مع شرحہ): کتاب المَحَبَّة والشوق والأُنس والرضا:

۵۸۶/۱، دار الکتب العلمیۃ بیروت۔

”وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: سألت رسول الله ﷺ عن سنته فقال:

”المعرفة رأس مالي، والعقل أضل ديني، والحب أساسي، والشوق مركزبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزني، والحزن رفيقي، والعلم سلاحني، والصبر رداي، والرضا غنيمتي، والعجز فخري، والرهق جفني، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حصني، والجهد خلقي، وقوة عيني في الصلاة“۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے آپ کی سنتوں کے متعلق دریافت کیا، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی معرفت میری پونجی ہے، اور میرے دین کی بنیاد اور اصل، عقل ہے، اور میری اساس محبت ہے، اور میری سواری شوق ہے، اور اللہ کی یاد میری انسیت کی چیز ہے، اور اللہ پر بھروسہ میرا خزانہ ہے، اور غم میرا ساتھی ہے، اور علم میرا ہتھیار ہے، اور صبر میری چادر ہے، اور اللہ کی خوشنودی میری غنیمت ہے، اور میرا فخر عجز و انکساری ہے، اور میرا پیشہ دنیا سے بے رغبتی ہے، اور میری قوت یقین ہے، اور سچائی میری شفاعت کرنے والی ہے، اور اللہ کی اطاعت مجھے کافی ہے، اور جہاد میرے اخلاق ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے“۔

علامہ قاضی ابوالفضل عیاض النجفی ص ۵۴۳ (ھ) نے ”الشفاء بتعريف حقوق المصطفى“ لے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مذکورہ مرفوع روایت بلا سند نقل کی ہے، اس میں یہ اضافہ بھی ہے:

”وفي حديث آخر: وثمرة فؤادي في ذكره، وغمي لأجل أمّتي،

وَشَوْقِي إِلَى رَبِّي عَزَّوَجَلَّ۔“

يَكْتَحِبُهُمْ؛“ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ”اور میرے دل کا پھل اللہ کی یاد میں ہے، اور میرا غم امت کے لئے ہے، اور میرا شوق اللہ عزوجل کی جانب ہے۔“

روایت کے بارے میں ائمہ حدیث کا کلام:

حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طاہر ثنی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب محدثین نے زیر بحث روایت پر تبصرہ کیا ہے، ذیل میں ان محدثین کرام کے اقوال اور آخر میں ان کا خلاصہ لکھا جائے گا۔

۱- حافظ مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

حافظ مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۰۵ھ) ”إِتِّخَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ“ لہ میں رقمطراز ہیں:

”قال العِزْرَاقِيُّ: ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَّاضٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَلَمْ أَجِدْ لَهُ إِسْنَادًا أَهْلًا۔ قُلْتُ: وَسُئِلَ عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فِتَاوَيْهِ فَقَالَ: لَا أَصْلَ لَهُ۔“

علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے اور مجھے اس کی سند نہیں ملی، میں (حافظ مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ) کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ (۹۷۴ھ) سے ان کے دونوں مجموعہ فتاویٰ میں اس روایت کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کی ”اصل“ نہیں ہے۔

۲- علامہ تاج الدین سُکبلی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ تاج الدین سُکبلی رحمۃ اللہ علیہ (۷۷۱ھ) نے ”طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَى“ لے میں ”الاحیاء“ میں مذکور ایسی روایتوں کے لئے ایک فصل قائم کی ہے، جن کے بارے میں علامہ تاج الدین سُکبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ”لَمْ أَجِدْ لَهَا إِسْنَادًا“ (یعنی مجھے اس کی اصل نہیں ملی) کہا ہے، چنانچہ ”احیاء“ کی زیر بحث روایت کو اسی فصل کے تحت ذکر کیا ہے۔

۳- علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ (۹۸۶ھ) نے ”تذکرۃ الموضوعات“ لے میں لکھا ہے:

”فِي الْمَخْتَصَرِ ”الْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِي... ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَّاضٌ وَلَمْ يَوْجَدْ“۔

مختصر (امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب) میں ہے ”الْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِي...“۔
اسے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ روایت نہیں ملی (یعنی اس کی سند نہیں ملی)۔

۴- علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

امام محمد بن علی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۵۰ھ) ”الفوائد المجموعۃ“ لے میں رقمطراز ہیں:

”ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَّاضٌ، وَأَثَارُ الْوَضْعِ عَلَيْهِ لَا يَبْهَتُ“۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا ہے، اور وضع کے آثار اس پر ظاہر ہیں۔

۵- علامہ خفاجی مصری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ شہاب الدین احمد بن محمد الخفاجی المصری رحمۃ اللہ علیہ (۱۰۶۹ھ) ”تَسْلِيم

لے طبقات الشافعية الكبرى: الطبقة الخامسة، تحت ترجمة محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، كتاب المحبة والشوق... ۵۲۹/۳، م: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۰ھ۔ لے تذکرۃ الموضوعات: باب فضل الرسول وخصاله... ص: ۸۷، کتب خانہ مجیدیہ ملتان پاکستان۔ لے الفوائد المجموعۃ: باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ص: ۳۲۶، عبد الرحمن بن يحيى، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة ۱۴۱۶ھ۔

الریاض فی شرح الشفاء“ لہ میں لکھتے ہیں:

”وہذا الحدیث ذکرہ فی الإحياء وقال الحافظ العراقي: إنَّه لا أصل له، وقال الشُّيْطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إنَّه موضوعٌ وَاثَارُ الْوَضْعِ لَا حِجَّةَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُشَبِّهُ كَلَامَ الصُّوفِيَّةِ“۔

امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ حدیث ”احیاء“ میں ذکر کی ہے اور اس کے بارے میں علامہ عراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، اور اس حدیث میں وضع کے آثار ظاہر ہیں، اور یہ حدیث صوفیہ کے کلام کے مشابہہ ہے۔

۶۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا کلام:

ملا علی قاری رحمہ اللہ (۱۰۱۴ھ) ”شَرْحُ الشِّفَاء“ لہ میں لکھتے ہیں:

”فهذه كَلِمَاتٌ جَامِعَةٌ معانيها مُطَابَقَةٌ لِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالْمُصَنِّفُ ثَبَّتَ ثِقَةً حُجَّةً فَحُشِنُ الظَّنِّ بِهِ أَنَّهُ مَارَواها إِلَّا عَنِ بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَنَا بَيِّنَةٌ، وَأَمَّا قَوْلُ الدَّلْجِيِّ: قَالَ الْأَيْمَةُ: موضوعٌ - يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِإِعْتِبَارِ بَعْضِ أَفْرَادِهِ بِنَاءً عَلَى إِخْتِلَافِ إِسْنَادِهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ“۔

اس حدیث کے کلمات اپنے معنی میں جامع ہیں، اور یہ کلمات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، اور مصنف (قاضی عیاض رحمہ اللہ) ثبت، ثقہ اور جت ہیں، اُن سے حسن ظن کا تقاضا یہی ہے کہ انہوں نے کسی دلیل (سند) ہی سے یہ حدیث نقل کی ہوگی، اگرچہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل (سند) نہیں ہے، اور دلجی رحمہ اللہ (یعنی محمد بن محمد الدلجی المصری رحمہ اللہ التونی

لہ نسیم الریاض: فصل، وأما خوفه به، ۱۳۳/۲، المکتبۃ السلفیۃ۔ المدینۃ المنورۃ۔
لہ شرح الشفاء: القسم الأول، الباب الثاني، فصل: وأما ما خوفه به: ۳۲۵/۱، ۳: عبد اللہ محمد الخلیلی، دار الکتب العلمیۃ بیروت

۹۴۷ھ، موصوف نے ”الإصطفاء“ کے نام سے ”شفاء“ کی شرح لکھی ہے (کہ یہ کہنا ہے کہ ائمہ نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے، اس قول میں یہ احتمال ہے کہ یہ حدیث اختلافِ اسناد کی بناء پر، اپنے بعض افراد کے اعتبار سے موضوع ہو، جیسا کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے واللہ اعلم۔

ائمہ حدیث کے کلام کا خلاصہ:

واضح رہے کہ حافظ عراقی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ، علامہ سیوطی رحمہ اللہ، حافظ مرتضیٰ زبیدی رحمہ اللہ، علامہ طاہر ثنی رحمہ اللہ، علامہ خفاجی رحمہ اللہ اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ، ان سب محدثین نے اس روایت کو بے اصل قرار دیا ہے، اور علامہ شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ (شرح شفاء)، علامہ دہلوی رحمہ اللہ (شارح شفاء)، علامہ سیوطی رحمہ اللہ (ایک قول کے مطابق)، اور امام شوکانی رحمہ اللہ ان علمائے کرام رحمہم اللہ نے واضح لفظوں میں اس روایت کو موضوع کہا ہے، ان نامور محدثین کی مذکورہ تصریحات کے بعد اب ہم ملا علی قاری رحمہ اللہ کا سابقہ قول دوبارہ ذکر کرتے ہیں، ملاحظہ ہو:

”قاضی عیاض رحمہ اللہ ثبت، ثقہ اور حجت ہیں، ان سے حسن ظن کا تقاضا یہی ہے کہ انہوں نے کسی دلیل (سند) سے یہ حدیث نقل کی ہوگی، اگرچہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل (سند) نہیں ہے۔“

گویا کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس روایت کی کوئی سند ثابت نہیں ہے، آپ دیکھ چکے ہیں کہ گذشتہ ائمہ کرام رحمہم اللہ نے یہ تصریح کی ہے کہ یہ روایت بے اصل، بلکہ من گھڑت ہے، اس خاص تناظر میں جب کہ اس روایت کی سند ثابت نہیں ہے، اور محدثین عظام اس کے ساقط الاعتبار اور بے اصل ہونے کی تصریح کرتے رہیں ہیں، قاضی عیاض رحمہ اللہ کا ”شفاء“ میں اس حدیث کو بلا جرح نقل کرنا، ثبوت حدیث کے لئے کافی نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں یہ توجیہ قرین قیاس ہے کہ

کسی دوسرے شخص نے اس روایت کو ذکر کیا ہو، اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس شخص پر اعتماد کر لیا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔

بہر حال محدثین کرام کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی خبر کا انتساب اسی وقت ہو سکتا ہے، جب وہ کسی معتبر سند سے ثابت ہو جائے، اس لئے سابقہ نصوص سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ زیر بحث روایت بے اصل اور من گھڑت ہے؛ اس لئے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔

تتمہ:

اس عنوان کے تحت زیر بحث روایت پر مشتمل ”معجم ابن عساكر“ اور ”كشَفُ الْخَفَاءِ“ کی دو روایتیں اور ان کا فنی حکم لکھا جائے گا۔

”مُعْجَمُ ابْنِ عَسَاكِر“ کی روایت:

واضح رہے، پہلے لکھا جا چکا ہے کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ”حدیث آخر“ کے تحت اس زیر بحث حدیث میں کچھ اضافہ ذکر کیا ہے، حافظ ابن عساكر رحمہ اللہ نے ”معجم ابن عساكر“ میں ان اضافی کلمات کی تخریج اور روایت پر کلام کیا ہے۔ چنانچہ ”معجم ابن عساكر“ لہ میں ہے:

”حدثني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو العلاء التَّائِبُ بِأَذِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى بوشَنج و كان فقيهُ الكَرَامِيَّةِ ومقدمهم مِنْ لفظه ببوزجان قُصْبَةُ جَامٍ مِنْ نَوَاحِي نَيْسَابُور قال: ثنا الأستاذ الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن محمد عن أبيه عن جده قال: ثنا أبو الإمام أبو حامد أحمد بن إسحاق بن جمع، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الشورميني، ثنا محمود بن محمد الزاوهي، ثنا مأمون بن أحمد السلمي، ثنا مُقَاتِلُ بن سليمان، ثنا جعفر بن هارون الواسطي، عن

سمعان بن المہدی، عن أنس بن مالک رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ”رَاحَةُ نَفْسِي مَعَ أَصْحَابِي، وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، وَتَمَرَّةُ فَوَادِي ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَيْبِي لِأَجْلِ أُمَّتِي الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَشَوْقِي إِلَى مُوَلَّائِي ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾۔^۱

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: میری جان کی راحت میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ کی یاد میرے دل کا پھل ہے، اور میرا غم اپنے ان امتیوں کے لئے ہے، جو آخری زمانے میں آئیں گے، اور میرا شوق اپنے مولیٰ کی طرف ہے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾۔

حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تحریر روایت کے بعد لکھتے ہیں:

”هذا إسناد باطل ومتن متكرر وفيه غير واحد من المجتهولين ومأمون بن أحمد غير ثقة ولا مأمون۔“

یہ سند باطل ہے اور اس کا متن ”منکر“ ہے، اور اس میں کئی مجہول راوی ہیں، اور مأمون بن احمد غیر ثقہ اور غیر مأمون راوی ہے۔

”کشف الخفاء“ کی روایت:

اسی طرح شیخ اسماعیل بن محمد الجکونی رحمہ اللہ نے ”کشف الخفاء“ کے میں اسی مضمون کی ایک روایت نقل کی ہے:

”الشَّرِيعَةُ أَقْوَالِي، وَالطَّرِيقَةُ أَفْعَالِي، وَالْحَقِيقَةُ خَالِي، وَالْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِي۔“
شریعت میرے اقوال ہیں، اور طریقت میرے افعال ہیں، اور حقیقت


میرا حال ہے، اور معرفۃ میرا اس المال ہے۔
پھر موصوف لکھتے ہیں:

”لَمْ أَرْ مَنْ ذَكَرَهُ فَضْلاً عَنْ بَيَانِ حَالِهِ، نَعَمْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ رَأَاهُ فِي كِتَابِ
بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ فَلْيُزْجَعْ“۔

مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ روایت کس نے ذکر کی ہے، چہ جائیکہ اس روایت کی
حالت (فنی مقام) معلوم ہو، البتہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے بعض صوفیاء کی
کتابوں میں اسے دیکھا تھا، چنانچہ مراجعت کر لی جائے۔

زیر بحث روایت کا فنی حکم:

زیر بحث روایت ائمہ حدیث کی تصریحات کے مطابق بے اصل اور من گھڑت
ہے، اسی طرح حدیث کے الفاظ میں اضافہ ”الْمُعْجَمُ لِابْنِ عَسَاكِر“ اور ”كَشْفُ
الْخَفَاء“ کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی بے اصل اور باطل ہے؛ اس لئے اس
روایت کو مع اضافات بیان کرنا جائز نہیں۔



روایت نمبر: (۱۶)

آپ نے قرآن کریم کے اختتام پر یہ دُعا ضرور مشاہدہ کی ہوگی، جسے دعاء ختم قرآن یا دعاء ماثورہ کے عنوان سے لکھا جاتا ہے:

”اللَّهُمَّ أَنْتَ إِمامٌ وَأَنْتَ أَوْهَدِي وَرَحْمَةً، اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ واجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ“

ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص اسے محض دُعا سمجھ کر پڑھے اور دوسروں سے بیان کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اگر رسول اللہ ﷺ کی طرف اس دُعا کا انتساب کیا جائے، تو پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ روایت کسی معتبر، قابل بیان سند سے ثابت ہے یا نہیں!

ذیل میں اس دُعا کی بحیثیت حدیث، تحقیق ذکر کی جائے گی، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ ﷺ کی جانب اس کی نسبت جائز ہے یا نہیں۔

عنوان تحقیق:

واضح رہے کہ یہ دُعا اگرچہ مسلسل عبارت کے ساتھ لکھی جاتی ہیں، لیکن روایات کی جانب مراجعت کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ دُعا دراصل دو مختلف اجزاء پر مشتمل ہے، اور ہر جزء کا ذکر علیحدہ حدیث میں آتا ہے، اور دونوں کا فنی حکم بھی مختلف ہے، صحائف قرآنیہ میں یہ اجزاء ان الفاظ سے منقول ہیں:

۱- اللَّهُمَّ أَنْتَ إِمامٌ وَأَنْتَ أَوْهَدِي

۲- اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ واجْعَلْهُ لِي إِماماً وَأَوْهَدِي

وَرَحْمَةً، اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي
تِلَاوَتَهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبَّ الْعَالَمِينَ۔
ذیل میں ہر جزء کی علیحدہ تحقیق اور اس کا فنی حکم ذکر کیا جائے گا۔

دعا کا پہلا جزء:

”إِذَا خْتَمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَنْسِ وَخَشَّيْ فِي قَبْرِي“۔

ترجمہ: ”آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ تم میں جو شخص قرآن ختم کر لے، تو یہ دعا
پڑھے: اللَّهُمَّ أَنْسِ وَخَشَّيْ فِي قَبْرِي“۔ اے اللہ! قبر میں میری وحشت
اور تنہائی کو، اُنسیت کا سامان بنا دے۔

یہ دعا ایک حدیث میں منقول ہے۔ اس حدیث کی تحقیق چار اجزاء پر مشتمل ہے:

۱- حدیث کی مصادرِ اصلیہ سے تخریج

۲- روایت پر ائمہ حدیث کا کلام

۳- متہم راوی پر ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال

۴- گزشتہ تفصیلات سے ماخوذ، روایت کا حکم

مصادرِ اصلیہ سے روایت کی تخریج:

حافظ دیلمی رحمۃ اللہ علیہ ”مسند الفردوس“ لے میں لکھتے ہیں:

”عَنْ اللَّيْثِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ

بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَالِمِ الْخَطَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضی اللہ عنہ مَرْفُوعاً:

لے انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة: ۶۳/۶، رقم: ۲۵۳۸، مكتبة المعارف-الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۵ھ۔

واضح رہے کہ مجھے ”مسند الفردوس“ فی الحال میسر نہیں ہے، اس لئے میں نے ”سلسلة الأحاديث الضعيفة“ سے سند ذکر کی ہے، یہاں ایک امر کی وضاحت ضروری ہے کہ ”سلسلة الأحاديث الضعيفة“ کی مذکورہ سند میں ”سالم الخطاط“ لکھا ہے، اور علامہ عبد الرؤف المناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کا کام ”سالم الخياط“ لکھا ہے، اور مراجعت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہی (سالم الخياط) صحیح ہے، البتہ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ تصحیف (تبدیلی) نہ ہو اور سالم کی دونوں نسبتیں ہوں، یعنی الخياط اور الخياط۔ واللہ اعلم۔

”إِذَا خَتَمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ آتِنْسِ وَحُشَّتِي فِي قَبْرِي“۔

ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”تم میں جب کوئی شخص قرآن ختم کرے تو وہ یہ پڑھے: ”اللَّهُمَّ آتِنْسِ

وَحُشَّتِي فِي قَبْرِي“۔ اے اللہ! قبر میں میری وحشت اور تنہائی کو، اُنسیت

کا سامان بنادے۔

واضح رہے کہ حافظ دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت حاکم نیساپوری رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے

تخریج کی ہے، اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”تاریخ یحییٰ ثور“ لے میں تخریج کیا ہے۔

روایت پر کلام:

زیر بحث روایت کو علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عزااق رحمۃ اللہ علیہ، علامہ

شوکانی اور علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب محدثین نے سند میں موجود جو بیاری کذاب

کی وجہ سے من گھڑت کہا ہے، ذیل میں ان محدثین کرام کے اقوال تفصیل سے لکھے

جائیں گے۔

۱۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ علیہ ”فیض القدير“ ۲ میں لکھتے ہیں:

”...إِنَّ فِيهِ لَيْثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ الدَّهْلَبِيُّ فِي الضَّعْفَاءِ: قَالَ بَنُ أَبِي

شَيْبَةَ: مَتْرُوكٌ - وَسَالِمُ الْخَيْطِ، قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِشَيْءٍ“۔

”..... اس روایت کی سند میں لیسٹ بن محمد ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ”الضعفاء“

میں لکھتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیسٹ کو ”متروک“ (کلمہ جرح) کہا

ہے اور سالم خیاط رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لیسٹ کو یحییٰ نے ”لیس بشی“ (کلمہ

جرح) کہا ہے۔

ایک اہم وضاحت:

واضح رہے کہ علامہ عبدالرؤف السناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ سند پر کلام کرتے ہوئے، متکلم فیہ راوی لیث بن محمد اور سالم بن عبداللہ انخیاط کو موضوع بنایا ہے، لیکن اسی سند میں احمد بن عبداللہ الجؤنی باری کذاب بھی موجود ہے (ان کے بارے میں تفصیل آگے آئے گی) اس لئے اس حدیث کی سند پر کلام کرتے ہوئے جو بیاری کو موضوع بنانا، روایت کے مقام کو سمجھنے کے لئے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ (عنقریب آئے گا) علامہ ابن عرّاق رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو من گھڑت کہنے میں جو بیاری رحمۃ اللہ علیہ کو مدد بنایا ہے، واللہ اعلم۔

۲- حافظ ابن عرّاق رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ ابن عرّاق رحمۃ اللہ علیہ ”تنزیہ الشریعة“ لہ میں رقمطراز ہیں: ”(حا) من حدیث أبي امامة رضی اللہ عنہ وفيه الجؤني باري“ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے تخریج کی ہے اور اس میں ”جؤنی باری“ ہے۔

ایک اہم نکتے کی وضاحت:

واضح رہے کہ احمد بن عبداللہ الهروی نام کے دوراوی ہیں:

۱- أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أيوب الحنفى الهروى
یہ ”ثقة“ راوی ہے۔

۲- أحمد بن عبد الله بن خالد الهروى الجؤني باري

یہ مشہور کذاب راوی ہے، زیر بحث سند میں یہی راوی موجود ہے، یہاں یہ وضاحت اسی لئے کی گئی ہے کہ ان مشترک ناموں کی وجہ سے، صحیح مصداق سمجھنے میں غلطی نہ ہو جائے، واللہ اعلم۔

۳- علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ”الفوائد المجموعۃ“ ۱۷ میں لکھتے ہیں: ”فی إسناده وَضَاع“، اس حدیث کی سند میں ایک روایت گھڑنے والا راوی ہے۔

۴- علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ ”تذکرۃ الموضوعات“ ۷۷ میں رقمطراز ہیں: ”فیہ أحمد بن عبد اللہ الجویباری، أحد المشهورین بالكذب“۔ اس حدیث میں احمد بن عبد اللہ جو بیاری ہے، جو شہرت یافتہ جھوٹوں میں سے ہے۔

روایت پر کلام کا خلاصہ:

ائمہ حدیث کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث احمد بن عبد اللہ بن خالد الجویباری کذاب کی وجہ سے موضوع ہے۔

أحمد بن عبد اللہ بن خالد الجویباری کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال:
ائمہ حدیث نے زیر بحث، موضوع روایت میں أحمد بن عبد اللہ بن خالد الجویباری کو کذاب قرار دیا ہے، جو بیاری کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال
”میزان الاعتدال“ ۳۷ سے ملاحظہ ہوں:

”قال ابن عدي: كان يَضَع الحديث لابن كرام على مائريده... وقال ابن حبان: هو أبو علي الجويباري دجال من الدجاجلة... وقال النسائي والذَّارِقُطْنِي: كَذَاب. قلت: الجويباري مِمَّنْ يُضَرَّبُ الْمَثَلُ بِكَذِبِهِ... قال البيهقي رحمۃ اللہ علیہ: فَإِنِّي أَعْرِفُهُ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَدْ وَضَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ“۔

حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ، ”الضعفاء والمتروکین“ کے میں شیخ ابن حبان رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں: ولعلہما قد وضعاً علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الصحابة رضی اللہ عنہم و التابعین رضی اللہ عنہم مئیساً ألف حدیث ...“۔

”..... شاید کہ جو یاری اور محمد بن تمیم سعدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم پر ایک لاکھ حدیثیں گھڑی ہیں.....“۔

روایت کا فنی حکم:

گزشتہ توضیحات سے یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ روایت خود ساختہ اور من گھڑت ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی جانب اس دعا (اللّٰهُمَّ اِنِّسْ وَحْشَتِي فِي قَبْرِی) کا انتساب ہرگز جائز نہیں ہے، البتہ اگر آپ ﷺ کی جانب نسبت کیے بغیر یہ دعا پڑھی جائے تو یہ اپنی جگہ درست ہے، واللہ اعلم۔

جیسا کہ شروع میں کہا گیا تھا کہ زیر بحث دعا ”حدیث“ کی حیثیت سے دو اجزاء پر مشتمل ہے، ان اجزاء میں پہلے جزء کی تحقیق اور فنی حکم یہاں تک مکمل ہوا، اب ذیل میں جزء ثانی کی تحقیق اور فنی حکم لکھا جائے گا۔

دعا کا دوسرا جزء:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو عِنْدَ خَتَمِ الْقُرْآنِ: ”اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اللَّهُمَّ ذَكِّرْ نِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ أُنَاءَ اللَّيْلِ وَأُنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبَّ الْعَالَمِينَ“۔

ترجمہ: آپ ﷺ ختم قرآن کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے: ”اے اللہ! قرآن کے وسیلے سے مجھ پر رحم فرما اور قرآن کو میرے لئے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دیجئے۔ اس قرآن کا جو حصہ میں بھول چکا ہوں، وہ مجھے یاد دلادیں اور قرآن کے جس حصے سے میں جاہل ہوں، مجھے وہ سکھادیں، اور شب و روز مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں اور اے رب العالمین! قرآن کو میرے لئے حجت بنا دیں۔“

اُس دعا کا ذکر روایت میں موجود ہے۔

روایت کی تحقیق تین اجزاء پر مشتمل ہے:

۱- روایت کا مصدر اصلی

۲- روایت پر ائمہ حدیث کا کلام

۳- روایت کا فنی حکم

روایت کا مصدر:

شیخ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ ”إحياء علوم الدين“ لے میں لکھتے ہیں:

فَإِذَا فَرَغَ قَالَ مَا كَانَ يَقُولُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ:
 ”اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اللَّهُمَّ
 ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آتَاءَ اللَّيْلِ
 وَأَطْرَافِ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبَّ الْعَالَمِينَ“۔

تلاوت قرآن کرنے والا جب قراءت قرآن سے فارغ ہو جائے، تو وہ دعا مانگے جو آپ ﷺ قرآن کے ختم پر مانگا کرتے تھے (یعنی): ”اے اللہ! قرآن کے وسیلے سے مجھ پر رحم فرما اور قرآن کو میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دیجئے۔ اس قرآن کا جو حصہ میں بھول چکا ہوں، وہ مجھے یاد دلادیں اور قرآن کے جس حصے سے میں جاہل ہوں وہ مجھے سکھادیں، اور شب و روز مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں اور اے رب العالمین! قرآن کو میرے لیے حجت بنا دیں۔“

اہم وضاحت:

ذیل میں ”الاحیاء“ کی مذکورہ عبارت میں موجود دو لفظوں ”القرآن“ اور ”أطراف النهار“ کے بارے میں مختصر کلام لکھا جائے گا۔

۱..... واضح رہے کہ ہمارے پاس ”الاحیاء“ کے موجودہ نسخے میں یہ دعا اسی طرح موجود ہے، (اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا...) یعنی دعا میں لفظ ”القرآن“ (صفتِ العظیم کے بغیر) لکھا ہے، اسی طرح علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے ”البرہان فی علوم القرآن“ اور علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ”طبقات الشافعیۃ الکبریٰ“ میں، علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المُعْنِی عن حمل الأسفار“ میں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”النشر فی القراءات العشر“ میں، ان سب محدثین کرام نے، صرف ”القرآن“ (العظیم کے بغیر) لکھا ہے، البتہ مصاحفِ قرآنیہ کے آخر میں جو یہی دعا لکھی جاتی ہے، اس میں لفظ ”القرآن العظیم“ (صفتِ العظیم کے ساتھ) لکھا گیا

ہے، اسی طرح ”إحياء علوم الدين“ کی شرح ”اتحاف السادة المتقين“ میں بھی لفظ ”القرآن العظيم“ (صفتِ اعظم کے ساتھ) لکھا گیا ہے، ممکن ہے کہ ”إحياء علوم الدين“ کے بعض نسخوں میں یہ لفظ ”القرآن العظيم“ (صفتِ اعظم کے ساتھ) لکھا گیا ہے، اور مصاحف قرآنیہ میں بھی لفظ ”القرآن العظيم“ (صفتِ اعظم کے ساتھ) ہونے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بعض کتب میں یہ لفظ ”القرآن“ صفتِ ”اعظم“ کے ساتھ لکھا ہے، بہر حال اس بارے میں ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں کہ یہ اختلاف نسخ ہے یا تصحیف (لفظ کا بدل جانا) ہے؛ کیونکہ اس بارے میں حتمی رائے مصادرِ اصلیہ (وہ کتابیں جن کے مؤلفین اپنی سند سے احادیث تخریج کرتے ہیں) کی جانب مراجعت کے بعد ہی ممکن ہوتی ہے، اور حافظ عراقی رحمہ اللہ اور علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس روایت کی تخریج میں دو مصادرِ اصلیہ لکھے ہیں:

۱- ابو منصور مظفر بن حسین ارجانی رحمہ اللہ کی ”فضائل القرآن“

۲- ابو بکر بن ضحاک رحمہ اللہ کی ”شمال“

اور یہ دونوں کتابیں بندہ کو اب تک نہیں مل سکی ہے، ممکن ہے کہ ان مصادر کی جانب مراجعت سے کوئی حتمی فیصلہ قائم ہو سکے، البتہ علامہ زرگشی رحمہ اللہ، علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ، علامہ عراقی رحمہ اللہ، اور علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ، ان محدثین کرام کی عبارتوں میں لفظ ”القرآن“، صفت ”اعظم“ کے بغیر لکھا گیا ہے، اس لئے بہتر یہی ہے کہ لفظ ”القرآن“، صفت ”اعظم“ کے بغیر لکھا جائے، واللہ اعلم۔

۲..... ایک دوسری اہم بات یہ بھی ہے، کہ حسبِ ثابِت قرآنی صحائف اور ”اتحاف السادة المتقين“ میں لفظ ”آناء الليل و آناء النهار“ لکھا ہے، جبکہ علامہ عراقی رحمہ اللہ، اور علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی عبارتوں میں یہ لفظ ”آناء الليل و اطراف النهار“ لکھا ہے، اور علامہ زرگشی رحمہ اللہ نے صرف ”آناء الليل“ لکھا ہے، واللہ اعلم۔

روایت پر ائمہ حدیث کا کلام:

زیر بحث روایت پر علامہ عراقی رحمہ اللہ، علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ، علامہ زرکشی رحمہ اللہ اور علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے کلام کیا ہے، ذیل میں ان محدثین کرام کی عبارتیں، اور آخر میں ان کا خلاصہ لکھا جائے گا۔

۱- علامہ عراقی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ عراقی رحمہ اللہ (۸۰۶ھ) لکھتے ہیں:

”رواہ أبو منصور المظفر بن الحسين الأرجاني في فضائل القرآن، وأبو بكر بن الضحاك في الشمائل، كلاهما من طريق أبي ذر الهذلي من رواية داود بن قيس معضلاً“۔^۱

اس روایت کو ابو منصور مظفر بن حسین ارجانی رحمہ اللہ نے ”فضائل القرآن“ اور ابو بکر بن ضحاک رحمہ اللہ نے ”شمائل“ میں تخریج کیا ہے، اور یہ دونوں سندیں ابو ذر ہروی رحمہ اللہ کے طریق سے، داود بن قیس رحمہ اللہ سے معضلاً (جس سند میں دوراوی پے در پے ساقط ہو گئے ہوں) تخریج کی گئی ہیں۔

حافظ عراقی رحمہ اللہ کے کلام کی وضاحت:

حافظ عراقی کی اس عبارت سے چار امور حاصل ہوتے ہیں:

- ۱- اس حدیث کی تخریج دو محدثین نے کی ہے:
- ابو منصور مظفر بن حسین ارجانی رحمہ اللہ نے ”فضائل القرآن“ میں
- اور ابو بکر بن ضحاک رحمہ اللہ نے ”شمائل“ میں

۲- ان دونوں محدثین کی سندیں ابو ذر ہروی پر مشترک ہو جاتی ہیں۔

۳- داود بن قیس رحمہ اللہ (تابعی) اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں، اور داود

^۱ المغني عن حمل الأسفار: ۱/ ۲۲۶، أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، مكتبة دار الطبرية - الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۱۵ھ۔

بن قیس رضی اللہ عنہ تک سند متصل ہے، پھر داؤد کے بعد تابعی اور صحابی کے نام سند میں مذکور نہیں ہیں، اسی کو روایت کا ”معضل“ ہونا کہا گیا ہے۔

۴۔ سند میں حافظ عراقی رضی اللہ عنہ نے صرف دو راویوں، یعنی ابو ذر ہر وی رضی اللہ عنہ اور داؤد بن قیس رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ کسی راوی کا نام ذکر نہیں کیا، ذیل میں ابو ذر ہر وی رضی اللہ عنہ اور داؤد بن قیس رضی اللہ عنہ کے مختصر احوال لکھے جائیں گے:

ابو ذر ہر وی:

ابو ذر ہر وی عبد بن احمد بن محمد کے بارے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ”سیر أعلام النبلاء“ لے میں لکھتے ہیں:

”موصوف حافظ، امام، مجدد، علامہ، شیخ الحرم..... بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری پیدائش ۳۵۵ھ یا ۳۵۶ھ کو ہوئی ہے، ابو ذر ہر وی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”ابو ذر ہر وی ثقہ، ضابط اور دیندار تھے، جن کا انتقال ۴۳۴ھ میں ہوا ہے۔“

داؤد بن قیس:

ابو سلیمان داؤد بن قیس الدباغ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ”التقریب“ لے میں لکھتے ہیں:

”ثقة، فاضل“ اور آپ کا انتقال خلیفہ ابو جعفر کے زمانے میں ہوا ہے۔

داؤد بن قیس کے مزید احوال امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں بھی آئیں گے۔

حافظ عراقی رضی اللہ عنہ کے کلام کا حاصل:

پہلے بھی یہ بات کہی جا چکی ہے کہ حافظ عراقی رضی اللہ عنہ اور علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ

لے سیر أعلام النبلاء: ۱/۵۵۳، رقم: ۳۷۰، ت: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة-بيروت، الطبعة الثانية ۱۴۰۲ھ۔

لے تقریب: ۱۹۹، رقم: ۱۸۰۸، ت: شيخ محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، الطبعة الرابعة ۱۴۱۸ھ۔

لے تقریب: ۱۹۹، رقم: ۱۸۰۸، ت: شيخ محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، الطبعة الرابعة ۱۴۱۸ھ۔

(موصوف کا کلام عنقریب آئے گا) نے اس روایت کی تخریج میں دو مصادرِ اصلیہ لکھے ہیں:

۱- ابو منصور مظفر بن حسین ارجانی رحمہ اللہ کی ”فضائل القرآن“۔

۲- ابو بکر بن ضحاک رحمہ اللہ کی ”شمائل“۔

اور یہ دونوں کتابیں بندہ کو اب تک نہیں مل سکی ہیں، اس لیے میں مکمل سند پر مطلع نہیں ہوں، البتہ حافظ عراقی رحمہ اللہ اور علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس روایت کی سند میں ابو ذر ہرادی اور داؤد بن قیس کے نام لکھے ہیں، یقیناً یہ محدثین کرام مکمل سند اور اس میں موجود راویوں کے حالات سے واقف ہیں، جن میں دو راویوں ابو ذر ہرادی رحمہ اللہ اور داؤد بن قیس رحمہ اللہ کے بارے میں ”توثیقی اقوال“ آپ کے سامنے آچکے ہیں، اس لئے مذکورہ روایت کے بارے میں ہم حافظ عراقی رحمہ اللہ اور حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ یہ روایت ”معضل“ ہے جو ضعیف کی ایک قسم ہے، اور اس کا فضائل میں بیان کرنا جائز ہے۔

بہر حال حافظ عراقی رحمہ اللہ کے کلام کی توضیحات میں اس روایت کا فنی حکم بھی سامنے آچکا ہے، البتہ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ، علامہ زکشی رحمہ اللہ، اور علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ کے اقوال ذیل میں لکھے جائیں گے۔

۲- حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ (المتوفی ۸۳۳ھ) ”النشر فی القراءات العشر“ ۱ء میں حافظ عراقی رحمہ اللہ کے موافق کلام نقل کر کے لکھتے ہیں:

”... حدیث مُعْضَلٌ لِأَنَّ دَاوُدَ بْنَ قَيْسٍ هَذَا هُوَ الْقَرَاءَةُ الدَّبَاغُ الْمَدَنِي

مِنْ تَابِعِي التَّابِعِينَ يَرْوِي عَنْ نَافِعِ بْنِ جَبْرِ بْنِ مَطْعَمٍ وَابِرَاهِيمَ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنِينٍ - رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ

مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ وَكَانَ ثِقَةً صَالِحاً عَابِداً مِنْ أَقْرَانِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ خَرَجَ

لہ مسلم فی صحیحہ۔ و هذا الحديث لا أعلم ورد عن النبي ﷺ في ختم القرآن حديث غيره“۔

”..... یہ معضل (جس سند میں دو راوی پے در پے ساقط ہو گئے ہوں) حدیث ہے کیونکہ داؤد بن قیس فراء، دباغ، مدنی، تبع تابعین میں سے ہے، داؤد بن قیس، نافع بن جبیر بن مطعم اور ابراہیم بن عبد اللہ بن حنین سے روایت نقل کرتے ہیں، اور یحییٰ بن سعید القطان اور عبد اللہ بن مسلمہ قعنبی، یہ دونوں داؤد بن قیس سے احادیث روایت کرتے ہیں، داؤد بن قیس ثقہ، صالح، عابد، امام مالک رحمہ اللہ کے اقران (ساتھیوں) میں تھے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں داؤد بن قیس کی ایک روایت تخریج کی ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ ختم قرآن کی یہ حدیث داؤد بن قیس کے علاوہ کسی اور سے بھی منقول ہو۔

۳۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ زرکشی رحمہ اللہ ”البرہان فی علوم القرآن“ لہ میں لکھتے ہیں:

”رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَذْغُو عِنْدَ خَتَمِ الْقُرْآنِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ، وَاجْعَلْهُ لِي أَمَانًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ، وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ، وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آتَاءَ اللَّيْلِ، وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبَّ الْعَالَمِينَ“۔ رواه في شعب الإيمان بأطول من ذلك، فليُنظر فيه“۔

”امام بیہقی رحمہ اللہ نے ”دلائل النبوة“ وغیرہ میں یہ روایت تخریج کی ہے: آپ ﷺ ختم قرآن کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے: ”اے اللہ! قرآن کے وسیلے سے مجھ پر رحم فرما اور قرآن کو میرے لیے امان، نور، ہدایت اور

رحمت بنادیکجے، اس قرآن کا جو حصہ میں بھول چکا ہوں، وہ مجھے یاد دلادیں اور قرآن کے جس حصے میں جاہل ہوں، وہ مجھے سکھادیں، او مجھے شب میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمادیں، اور اے رب العالمین! قرآن کو میرے لئے حجت بنادیں۔“

(علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث تفصیل سے ”شعب الایمان“ میں تخریج کی ہے، اس میں دیکھ لیا جائے۔

اہم وضاحت:

علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں دو امور بیان کیے گئے ہیں:

۱- زیر بحث روایت ”دلائل النبوة“ میں موجود ہے۔

۲- اور ”شعب الایمان“ میں یہ روایت تفصیل سے موجود ہے۔

ذیل میں ان دونوں امور پر مختصر تبصرہ ہوگا، اور ”شعب الایمان“ میں موجود ختم قرآن کی مفصل دعا کا فنی حکم بھی لکھا جائے گا۔

”دلائل النبوة“ اور ”شعب الایمان“ کی روایت:

واضح رہے کہ بندہ کو ”دلائل النبوة“ میں تو یہ روایت نہیں ملی، البتہ ”شعب الایمان“ لے میں ختم قرآن کی دعا تفصیل سے موجود ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں:

كان علي بن الحسين يدحجو عن النبي ﷺ أنه كان إذا ختم القرآن حمداً لله...“ آپ ﷺ جب قرآن ختم فرما لیتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے.....“۔ مگر ملحوظ خاطر رہے کہ ”شعب الایمان“ کی اس حدیث میں زیر بحث روایت کے الفاظ نہیں ہیں، اس لیے ”شعب الایمان“ کی اس حدیث کو زیر بحث روایت کی تائید میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

”شعب الإیمان“ کی روایت کا فنی مقام:

دوسری بات یہ بھی ہے کہ ”شعب الإیمان“ کی اس روایت میں ایک راوی ”عمرو بن شمر الجعفی الکوفی“ ہے، عمرو بن شمر پر تبصرہ سے قبل ایک ”تصحیف“ (تبدیلی) کی وضاحت ضروری ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ”شعب الإیمان“ کے بعض نسخوں میں، اس حدیث کی سند میں ”عمرو بن شمر کی جگہ، عمرو بن سمرہ“ لکھا ہے، قرآنِ قویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح عمرو بن شمر ہے، اور عمرو بن سمرہ تصحیف (تبدیلی) ہے کیونکہ سند میں مذکور راوی ”جابر جعفی“ سے عمرو نامی روایت نقل کرنے والا ہے، اور عمرو بن شمر کے شیوخ میں تو جابر جعفی کا نام موجود ہے، لیکن عمرو بن سمرہ کے شیوخ میں جابر جعفی کا نام نہیں ہے، واللہ اعلم۔

بہر حال ذیل میں عمرو بن شمر کے بارے میں ائمہ کے اقوال لکھے جائیں گے، تا کہ ”شعب الإیمان“ کی مذکورہ روایت کا فنی مقام سمجھنا آسان ہو۔

عمرو بن شمر کے بارے میں ائمہ کے اقوال:

عمرو بن شمر کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال ”میزان الاعتدال“ لے سے ملاحظہ ہو:

یحییٰ بن معین نے عمرو بن شمر کو ”لیس بشیخ“ (کلمہ جرح)، امام بخاری رحمہ اللہ نے ”منکر الحدیث“ (کلمہ جرح)، جوزجانی رحمہ اللہ نے ”زانیع کذاب“ (کج رو، جھوٹا)، نسائی رحمہ اللہ اور دارقطنی رحمہ اللہ نے ”متروک الحدیث“ (کلمہ جرح) کہا ہے، اور ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ برافضی صحابہ رضی اللہ عنہم کو سب و شتم کرتا تھا، اور ثقہ راویوں پر حدیثیں گھڑتا تھا۔

ائمہ رجال کے اقوال سے واضح ہے کہ ”شعب الإیمان“ کی یہ روایت،

”عمرو بن شمر الجعفی“ کی وجہ سے ساقط الاعتبار ہے، اور ضعف شدید کی وجہ سے فضائل میں بھی اسے بیان نہیں کر سکتے۔

۴۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول:

علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ”طبقات الشافعية الكبرى“ ۱ء میں زیر بحث روایت کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں اُن احادیث کے تحت ذکر کیا ہے، جن کی سند علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ملی۔

روایت پر کلام کا خلاصہ:

حاصل کلام یہ ہے کہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ”معضل“ (جس سند میں دو یا دو سے زائد راوی پے در پے ساقط ہو گئے ہوں) کہا ہے، اور داؤد بن قیس (تابعی) اسے نقل کرنے والے ہیں، حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید کسی راوی پر کلام ذکر نہیں کیا، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے موافق کلام کیا ہے، اور حدیث کے راوی داؤد بن قیس کا محاسن (خوبیوں) پر مشتمل ترجمہ بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بحوالہ ”دلائل النبوة للبيهقي“ اور ”شعب الإيمان للبيهقي“ نقل کیا ہے (ان روایتوں کی تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے)۔

علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اس حدیث کو اُن روایتوں میں ذکر کیا ہے، جس کی سند اُن کو نہیں ملی، لیکن یہ بات روایت کے ثبوت کے لئے یہاں مانع نہیں بن سکتی، کیونکہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ”معضل“ کہا ہے، یعنی حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی سند اور قتی مقام دونوں سے واقف ہیں، چنانچہ اس واقفیت سے علامہ تاج الدین سبکی کے قول کی تلافی ہو جاتی ہے۔


روایت کا فنی مقام:

بہر حال ائمہ کرام کے ان نصوص پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ یہ روایت ”معضلاً“ داؤد بن قیس الفراء رضی اللہ عنہ (تابع تابعی) سے مروی ہے، اور محض (جس سند میں دو راوی پے در پے ساقط ہو گئے ہوں) ضعیف کی ایک قسم ہے، اس لیے فضائل کے باب میں اسے بیان کرنا جائز ہے۔

البتہ یہ واضح رہے کہ اس ماثور دعا کے الفاظ میں معمولی اختلاف بھی ہے، جس کی تفصیل ماقبل میں گذر چکی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول الفاظ پر اعتماد کیا جائے، اور وہ دعا یہ ہے، حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا ان الفاظ سے نقل کی ہے:

”اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ واجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَّ نُورًا وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً، اللّٰهُمَّ ذَكِّرْ نِيْ مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَّ عَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَّ ارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهُ اَنْاءَ اللَّيْلِ وَّ اطْرَافَ النَّهَارِ واجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَّارَبَّ الْعَالَمِيْنَ“۔

تلاوت قرآن کرنے والا جب قراءت قرآن سے فارغ ہو جائے، تو وہ دعا مانگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ختم پر مانگا کرتے تھے (یعنی): ”اے اللہ! قرآن کے وسیلے سے مجھ پر رحم فرما اور قرآن کو میرے لئے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دیجئے۔ اس قرآن کا جو حصہ میں بھول چکا ہوں، وہ مجھے یاد دلادیں اور قرآن کے جس حصے سے میں جاہل ہوں، مجھے وہ سکھادیں، اور شب و روز مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمادیں اور اے رب العالمین! قرآن کو میرے لئے حجت بنا دیں۔“



روایت نمبر: (۱۷)

خیر القرون سے آج تک اسلاف امت حدیث کو میزانِ اسناد میں تولتے رہے ہیں، اور اسناد کے بغیر روایتوں کو قابلِ اعتنا نہیں سمجھتے، چنانچہ علامۃ قاضی حسن بن عبد الرحمن رَافِعُ مَزَی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ ”المُحَدَّثُ الْفَاصِلُ بَيْنَ الرَّاوي وَالْوَاعِي“ لہ میں لکھتے ہیں:

”كُلُّ حَدِيثٍ لَيْسَ فِيهِ حَدَّثْنَا وَأَخْبَرْنَا، فَهُوَ خُلٌّ وَبَقْلٌ۔“

جس حدیث میں حد ثنا اور اخبارنا (یعنی سند) نہیں ہو، تو وہ بے قیمت ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ محدثین کرام بلا سند روایتوں کو خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ اسے انتہائی مضرب سمجھتے ہیں، لہذا امام شافعی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ فرماتے ہیں:

”مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ الْحَدِيثَ بِلَا إِسْنَادٍ، كَمَثَلِ حَاطِبٍ لَيْلٍ، يَحْمِلُ

حُزْمَةً حَطَبٍ فِيهِ أَفْعَى وَهُوَ لَا يَذَرِي“۔^۱

جو شخص بلا سند حدیث کی جستجو میں ہو، اس کی مثال رات کو لکڑیاں چننے والے اس شخص کی سی ہے، جو لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھاتا ہے، اور اسے معلوم نہیں

ہوتا کہ اس میں سانپ ہے۔

بہر حال محدثین عظام رَضِیَ اللہُ عَنْہُم کے اسی منہج فکر کے پیش نظر، ذیل میں ایک بے سند روایت کی تحقیق پیش کی جائے گی، جو ہمارے عرف میں انتہائی مشہور ہے، اور اسے آپ ﷺ کے انتساب سے ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ روایت کے بے سند ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے احتراز کیا جاتا، اور ائمہ متبوعین کے اقوال معلوم کر کے ان کا اتباع کیا جاتا، فإلى الله المشتكى۔

۱۔ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: باب القول في التحديث والإخبار، ص: ۵۱۷، الدكتور محمد عجاج الخطيب، دار الفكر - بيروت، الطبعة الثالثة ۱۴۰۳ھ۔

۲۔ الإسناد من الدين: ص: ۲۰، تالیف عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، الطبعة الأولى ۱۴۱۲ھ۔

عنوان روایت:

”كنتُ كَثْرًا مَحْفِيًّا لَا أَعْرِفُ، فَأُحْبِبُّ أَنْ أَعْرِفَ، فَخَلَقْتُ خَلْقًا
فَعَرَفْتُهُمْ بِي فَعَرَفُونِي“ -

مَعْرِفَتُهُمْ: میں ایسا چھپا ہوا خزانہ تھا کہ جسے کوئی پہچانتا نہیں تھا، (لہذا) میں
نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، تو میں نے ایک مخلوق پیدا کی، پھر اسے اپنی
معرفت کروائی، چنانچہ انھیں میری معرفت حاصل ہو گئی۔

بعض روایتوں میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”فَعَرَفْتُ إِلَهُهُمْ فِيَّ عَرَفُونِي“ -

تحقیق کا اجمالی خاکہ:

حدیث کی تحقیق بنیادی طور پر دو اجزاء پر مشتمل ہے:

۱- روایت پر ائمہ حدیث کا کلام اور اس کا خلاصہ

۲- روایت کا فنی حکم

روایت پر ائمہ حدیث کا کلام:

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ زرکشی رحمہ اللہ، حافظ سخاوی رحمہ اللہ، حافظ سیوطی رحمہ اللہ،
علامہ احمد بن عبد الکریم رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ، علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ، حافظ ابن
عزاق رحمہ اللہ اور شیخ عبد الفتاح ابو غزہ رحمہ اللہ، ان سب محدثین کرام رحمہم اللہ نے زیر بحث
روایت کو ”بے اصل“ قرار دیا ہے، ذیل میں ان تمام ائمہ کے اقوال اور آخر میں ان
اقوال کا خلاصہ لکھا جائے گا۔

۱- حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام:

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ”الْتَّبَوَات“ لہ میں لکھتے ہیں:

وَسَأَلَنِي هَذَا عَمَّا يَحْتَجُّونَ بِهِ مِنَ الْحَدِيثِ، مِثْلَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي الْعَقْلِ وَأَنْ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَقْلَ، وَمِثْلَ حَدِيثِ كُنْتُ كُنْتُ لَا أُعْرِفُ فَأُحْيِي أَنْ أُعْرِفَ وَغَيْرَ ذَلِكَ فَكَتَبْتُ لَهُ جَوَابًا مُبْشُوطًا وَذَكَرْتُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مَوْضُوعَةٌ وَأَبُو حَامِدٌ وَهَوَلَاءُ لَا يُعْتَمِدُونَ عَلَى هَذَا وَقَدْ نَقَلُوهُ إِنَّمَا مِنْ رَسَائِلِ إِخْوَانِ الصَّفَا أَوْ مِنْ كَلَامِ أَبِي حَبَانَ التَّوَجِيدِيِّ أَوْ مِنْ نَحْوِ ذَلِكَ۔

مجھ سے اس شخص (ایک اجنبی سائل) نے اُن لوگوں کی متدل حدیثوں کے متعلق پوچھا، جیسے عقل کی مذکورہ حدیث، اور یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو وجود بخشا، اور یہ حدیث کہ (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا؛ میں نے اس بات کو پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے، اور ان کے علاوہ احادیث کے بارے میں سوالات کیے، ان سوالات کے جواب میں، میں نے اسے تفصیلی خط لکھا، اور اسے آگاہ کیا کہ یہ حدیثیں من گھڑت ہیں، ابو حامد رحمہ اللہ اور یہ (اہل حق) لوگ ان احادیث پر اعتماد نہیں کرتے، اور ان (اہل باطل) لوگوں نے یہ روایتیں رسائلِ اخوان الصفا [فرقہ اسماعیلیہ باطنیہ کی ایک جماعت]، یا ابو حبان توحیدی [ایک زندیق فلسفی، معتزلی]، یا ان جیسے کسی شخص سے نقل کی ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک دوسرے مقام پر ”مجموع الفتاویٰ“ لے میں رقم طراز ہیں:

”هَذَا الِيس مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا أُعْرِفُ لَهُ إِسْنَادًا صَحِيحًا وَلَا ضَعِيفًا۔
یہ آپ ﷺ کا کلام نہیں ہے، اور اس کی کوئی صحیح یا ضعیف سند میری معرفت میں نہیں ہے۔“

۲- علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ ”التذکرة في الأحاديث المشتهرة“ لہ میں رقمطراز ہیں:

”قال بعض الحفاظ: ليس هذا من كلام النبي ﷺ ولا يُعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف“۔

بعض حفاظ فرماتے ہیں کہ یہ آپ ﷺ کا کلام نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کسی صحیح یا ضعیف سند کی معرفت (پہچان) ہے۔

۳- حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

حافظ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ”المقاصد الحسنة“ لہ میں تحریر فرماتے ہیں:

قال ابن تيمية رحمۃ اللہ علیہ: إنه ليس من كلام النبي ﷺ ولا يُعرف له سند صحيح ولا ضعيف، وتبعه الزركشي وشيخنا“۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ ﷺ کا کلام نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کسی صحیح یا ضعیف سند کی معرفت (پہچان) ہے، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے شیخ (حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ) نے بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی متابعت کی ہے۔

۴- علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ”الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة“ لہ میں بیان کرتے ہیں:

”لا أصل له“۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

لہ التذكرة في الأحاديث المشتهرة: في الزهد، ۱/ ۱۳۶، ت: مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ۱۴۰۶ھ۔

لہ المقاصد الحسنة: حرف الكاف، ۳۷۷، رقم: ۸۳۶، ت: عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ۱۴۲۷ھ۔

لہ الدرر المنتشرة: ۲۰۳، رقم: ۳۲۸، محمد عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۰۸ھ۔

البتہ حافظ سیوطی رحمہ اللہ ہی نے ”ذیل الأحادیث الموضوعۃ“ لے میں لکھا ہے:
 ”قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ: موضوع، وهو كما قال“۔

ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ من گھڑت روایت ہے (علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ) اور یہ حدیث ایسی ہی ہے، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی من گھڑت ہے۔

۵- علامہ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ نے بھی ”تنزیہ الشریعة“ لے میں لکھا ہے:
 ”قال ابن تَيْمِيَّة: موضوع“۔

ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے۔

۶- علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ کا کلام:

اسی طرح علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ ”تذکرة الموضوعات“ لے میں تصریح فرماتے ہیں:
 ”قال ابن تَيْمِيَّة ليس مِنَ الحديث ولا يُعْرَفُ له سندٌ صحيحٌ ولا ضعيفٌ وَتَبِعَهُ الرَّزُّ كَشِي وشيخنا، وفي الذيل، قال ابن تيمية: موضوع وهو كما قال“۔

ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی صحیح یا ضعیف سند معروف ہے، نیز علامہ زرگشی رحمہ اللہ اور ہمارے شیخ (حافظ ابن حجر رحمہ اللہ) نے بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اتباع کی ہے، اور ”ذیل“ (علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی تصنیف) میں ہے: ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے (علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ) اور یہ حدیث ایسی ہی ہے (یعنی من گھڑت)۔

لہ أنظر السلسلة الضعيفة: رقم: ۶۵۲۳، مكتبة المعارف-الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۵ھ۔
 لے تنزیہ الشریعة: الفصل الثالث، ۱/۱۳۸، ت: عبد الوہاب عبد اللطیف و عبد اللہ محمد الصدیق، دار الکتب العلمیہ بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۰۱ھ۔
 لے تذکرة الموضوعات: کتاب التوحید، ص: ۱۱، کتب خانہ مجیدیہ ملتان۔ پاکستان۔

۷۔ علامہ احمد بن عبد الکریم الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ احمد بن عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ ”الْجَدُّ الْحَثِيثُ“ لے میں لکھتے ہیں:

”هُوَ مشهورٌ عندَ الصوفیةِ، واعتَقَدُوهُ، وبنَّوا علیہ أصولَہم، وأنکرہ ابنُ تَیْمِیَّةٍ وَالزُّرْكَشِيُّ وابنُ حجرٍ وَالسیوطیُّ وَغَیْرُہم“۔

یہ حدیث صوفیہ کے نزدیک مشہور و معروف ہے، اور وہ اس حدیث کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس پر اپنے اصولوں کی بنیاد رکھتے ہیں، حالانکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس حدیث کا انکار کیا ہے۔

۸۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ”المَصْنُوعُ فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ“ لے میں رقم طراز ہیں:

”نَصَّ الْحَفَظُ كَابِنِ تَیْمِیَّةٍ وَالزُّرْكَشِيِّ وَالسَّخَاوِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ“۔

حفاظ حدیث جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، اور سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث کی اصل نہیں ہے۔

البتہ ”مرقاۃ المفاتیح“ لے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لفظاً غیر صحیح اور معنی صحیح کہا ہے، ملاحظہ ہو:

”وَهَذَا الْمَعْنَى يُصَحِّحُ مَعْنَى مَا يُنْقَلُ حَدِيثًا وَلَمْ يَصِحْ لَفْظًا: كُنْتُ كَثْرًا

مُخْفِيًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأَنْ أُعْرِفَ وَلِذَا قَالَ ابْنُ

عَبَّاسٍ رحمۃ اللہ علیہ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

(سورة الذَّارِيَات: ۵۶) أَيْ لِيُعْرِفُون...“۔

لے الجدد الحثيث: ۱۷۵، رقم: ۳۶۲، ت: فواز أحمد زمرلی، دار ابن حزم۔ بیروت۔
لے المصنوع: ۱۳۱، رقم: ۲۳۲، ت: الشیخ عبدالفتاح أبو غنڈہ ایچ۔ ایم۔ سعید کمپنی، کراچی۔ پاکستان۔
لے مرقاۃ المفاتیح: کتاب الإیمان، باب الإیمان بالقدر، ۳۳۲/۱، مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ۔ کوئٹہ (پاکستان)۔

” (ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ) یہ معنی (ما قبل کے ایک امر کی طرف اشارہ ہے) اس حدیث کے معنی کو صحیح قرار دینے والا ہے، جو بطور حدیث منقول ہے، لیکن لفظاً صحیح نہیں ہے (یعنی): ”میں چھپا ہوا خزانہ تھا، لہذا میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، پھر میں نے ایک مخلوق اپنی پہچان کے لئے پیدا کی“۔ اسی بناء پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ترجمہ: میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”لِيَعْبُدُونِ“ (تاکہ وہ میری عبادت کرے) کی تفسیر ”لِيَعْرِفُونِ“ (تاکہ وہ مجھے پہچانیں) سے کی ہے.....۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی وضاحت:

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت شریفہ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ترجمہ: میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں لفظ ”لِيَعْبُدُونِ“ (تاکہ وہ میری عبادت کریں) کی تفسیر ”لِيَعْرِفُونِ“ (تاکہ وہ مجھے پہچانیں) سے کی ہے، اس تفسیر کے مطابق آیت شریفہ کا یہ معنی ہوگا: میں نے جن و انس کو اپنی معرفت (پہچان) کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہی مضمون زیر بحث حدیث کا ہے: ”كُنْتُ كَثْرًا مُّخْفِيًّا لَا أَعْرِفُ، فَأُخْبِثُ أَنْ أَعْرِفَ، فَخَلَقْتُ خَلْقًا فَعَرَفْتُهُمْ بِي فَعَرَفُونِي“۔ ترجمہ: ”میں ایسا چھپا ہوا خزانہ تھا کہ جس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، (لہذا) میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے ایک مخلوق پیدا کی، پھر اسے اپنی معرفت کروائی، چنانچہ انھیں میری معرفت حاصل ہو گئی۔“ اس لیے یہ حدیث اگرچہ لفظاً ثابت نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ثابت ہے۔

ایک اہم فائدہ:

واضح رہے کہ اس حدیث کے معنی ثابت ہونے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس مضمون کو بہانہ کہا جاسکتا ہے، اور اس سے مختلف اصلاحی فوائد وغیرہ اخذ کئے جاسکتے ہیں، لیکن

رسول اللہ ﷺ کی جانب انتساب کے لیے بہر حال معتبر سند کا ہونا اپنی جگہ مسلم ہے، چنانچہ ثابت ہوا کہ کسی روایت کے معنی کا ثبوت، اسے ”حدیث رسول اللہ ﷺ“ کہلانے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے، ورنہ ایسی سینکڑوں من گھڑت روایتیں پیش کی جاسکتی ہیں، جن کا مضمون قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور ان موضوع روایتوں کے معنی کا ثبوت انھیں حدیث رسول اللہ ﷺ نہیں بنانا بلکہ وہ من گھڑت ہی کہلاتی ہیں، اور ان من گھڑت روایتوں کے معنی پر مشتمل نصوص اپنی جگہ معتبر، ثابت اور قابل بیان رہتی ہیں، واللہ اعلم۔

۹- علامہ عجلونی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ اسماعیل العجلونی ”کشف الخفاء ومزيل الإلتباس“ لے میں تحریر فرماتے ہیں:

”قال ابن تيمية: ليس من كلام النبي ﷺ ولا يُعرف له سند صحيح ولا ضعيف. وتبعه الزركشي والحافظ ابن حجر في اللآلئ والسيوطي وغيرهم. وقال القاري: لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ أَي لِيَعْرِفُونِي كَمَا فَسَّرَهُ ابن عباس رضي الله عنهما... وهو واقع كثيرًا في كلام الصوفية، واعتمدوا وبنوا عليه أصولًا لهم“۔

ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ ﷺ کا کلام نہیں ہے، اور اس حدیث کی کوئی صحیح یا ضعیف سند کی معرفت (پہچان) نہیں ہے، امام زرکشی رحمہ اللہ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی متابعت کی ہے، اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”الآلئ“ میں اور سیوطی رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی متابعت (پیروی) کی ہے، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی صحیح ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ أَي لِيَعْرِفُونِ سے ماخوذ ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما

یَعْبُدُونَ کی تفسیر ”یَعْرِفُونَ“ سے کی ہے،..... صوفیائے کرام رحمہم اللہ کے کلام میں یہ حدیث بہت زیادہ رائج ہے، اور صوفیا اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور انھوں نے اس پر اپنے اصولوں کی بنیاد رکھی ہے۔

۱۰۔ علامہ آلوسی رحمہم اللہ کا کلام:

علامہ شہاب الدین آلوسی رحمہم اللہ ”روح المعانی“ لہ میں رقمطراز ہیں:

”وَتَعَقَّبَهُ الْحَفَظُ فَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يُعْرَفُ لَهُ سَنَدٌ صَحِيحٌ وَلَا ضَعِيفٌ، وَكَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُمَا. وَمَنْ يَرْوِيهِ مِنَ الصُّوفِيَةِ مُعْتَرِفٌ بِعَدَمِ ثُبُوتِهِ نَقْلًا لَكِنْ يَقُولُ: إِنَّهُ ثَابِتٌ كَشْفًا، وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ الْأَكْبَرُ قُدَّسَ سِرُّهُ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ، وَالتَّصْحِيحُ الْكَشْفِيُّ شُشْنَةُ لَهُمْ...“

حفاظ حدیث رحمہم اللہ نے اس حدیث کا تعاقب (یعنی اس پر کلام) کیا ہے، چنانچہ ابن تیمیہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے، اور اس حدیث کی کوئی صحیح یا ضعیف سند کی معرفت (پہچان) نہیں ہے، امام زَرَكْشِي رحمہم اللہ، حافظ ابن حجر رحمہم اللہ وغیرہ نے بھی یہی بات کی ہے، اور بعض صوفیوں (یعنی سند کے اعتبار سے) تو اس حدیث کے ثابت نہ ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کشفاً ثابت ہے، اور شیخ اکبر قدس سرہ نے مذکور باب میں یہ بات صاف لفظوں میں کہی ہے اور ”نصحیح کشفی“ (مکاشفہ سے کسی حدیث کو صحیح کہنا)

لہ روح المعانی: ۲۴/۲، دار احیاء التراث العربی - بیروت۔

لہ قال العلامة ابن الأثير في ”النهاية في غريب الاثر“:

الشُّشْنَةُ: السَّجِيَّةُ وَالطَّبِيعَةُ وَقِيلَ: الْقِطْعَةُ وَالْمُضْغَةُ مِنَ اللَّحْمِ، وَهُوَ مَثَلٌ وَأَوَّلُ مَنْ قَالَهُ أَبُو أَحْزَمٍ الطَّائِي. وَذَلِكَ أَنَّ أَحْزَمَ كَانَ عَاقِلًا لَيْسَ بِهِ فَتَاتٌ وَتَرَكَ بَيْنَ عَقْلٍ وَجَدَهُمْ وَضَرَبَهُ وَأَذْمُوهُ، فَقَالَ:

لَنْ يَبْقَى زَقْلُونِي بِاللَّحْمِ شُشْنَةُ أَغْرَفَهَا مِنْ أَحْزَمٍ

(النهاية لابن الأثير: ۳/۲۹۶، باب الشين مع النون، أبو عبد الله عبد السلام علوش، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۲ھ)

الاصوفیائے کرام رحمہم اللہ کی ایک طبیعت ہے.....“۔

۱۱۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہم اللہ کا کلام:

شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہم اللہ ”المَضْنُوع“ لہ میں زیر بحث روایت کے تحت، علامہ آلوسی رحمہم اللہ کا کلام لانے کے بعد لکھتے ہیں:

”وَيُشِيرُ الْإِمَامُ الْأَلُّوسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا إِلَى أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالتَّضْحِيحِ الْكُشْفِيِّ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَهُوَ كَذَلِكَ...“۔

امام آلوسی رحمہم اللہ اپنے اس کلام سے اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ محدثین کے نزدیک کشف کے ذریعے کسی حدیث کو صحیح قرار دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے.....“۔

ائمہ حدیث کے کلام کا خلاصہ:

حافظ ابن تیمیہ رحمہم اللہ، علامہ زرکشی رحمہم اللہ، حافظ سخاوی رحمہم اللہ، حافظ سیوطی رحمہم اللہ، علامہ احمد بن عبدالکریم رحمہم اللہ، علامہ آلوسی رحمہم اللہ، علامہ طاہر پٹنی رحمہم اللہ، حافظ ابن عزاقر رحمہم اللہ اور شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہم اللہ ان سب محدثین کرام کے نزدیک یہ روایت ”بے اصل“ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلام ثابت نہیں ہے، بلکہ حافظ ابن تیمیہ رحمہم اللہ اور علامہ سیوطی رحمہم اللہ سے صاف منقول ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے؛ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا انتساب جائز نہیں ہے، اسی طرح ملا علی قاری رحمہم اللہ نے بھی ایک قول کے مطابق حافظ ابن تیمیہ رحمہم اللہ کی موافقت کی ہے، البتہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ اگرچہ یہ روایت لفظوں کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے ثابت ہے، ملا علی قاری رحمہم اللہ کا یہ قول سابقہ ائمہ کے اقوال کے منافی نہیں ہے، کیونکہ روایت کے معنی ثبوت سے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہونا لازم نہیں آتا، جیسا کہ ماقبل میں تفصیل گذر چکی ہے، اور شیخ اکبر رحمہم اللہ کا اسے کشف سے صحیح قرار دینا محدثین کے نزدیک

حجت نہیں ہے، اور حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں محدثین کرام ہی قابل اقتدا اور مرجع ہیں، اس کی تفصیل بھی ماقبل میں گزر چکی ہے۔ واللہ اعلم۔

روایت کا فنی حکم:


ائمہ کرام رحمہم اللہ کی سابقہ تصریحات میں یہ بات تکرار سے نقل ہوتی رہی ہے کہ یہ روایت بے اصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف ایسا کلام ہی منسوب ہو سکتا ہے، جو پایہ ثبوت تک پہنچ چکا ہو، بصورت دیگر روایت قابل التفات و بیان نہیں رہتی، چنانچہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ”المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للعلامة علي القاري“ لہ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

”... وإذا كان الحديث لا إسناده، فلا قيمة له ولا يلتفت إليه، إذا

الإعتماد في نقل كلام سيدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إلينا، إنما هو على الإسناد الصحيح الثابت أو ما يقع موقعه، وما ليس كذلك فلا قيمة له“۔

”..... اور جب حدیث کی سند ہی نہ ہو، تو وہ بے قیمت اور غیر قابل التفات ہے، کیونکہ ہماری جانب ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نقل کرنے میں اعتماد صرف اسی سند پر ہو سکتا ہے، جو صحیح سند سے ثابت ہو، یا جو اس کے قائم مقام ہو، اور جو حدیث ایسی نہ ہو تو وہ بے قیمت ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت بے اصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔



روایت نمبر (۸۸)

محدثین کرام ہر زمانے میں ”اسنادِ حدیث“ کی اہمیت اور اس پر استقامت کو بیان کرتے رہیں ہیں، یہی وہ محفوظ منہج ہے جس کی بدولت اُمت مسلمہ، یہود و نصاریٰ سے ممتاز اور فضل الہی کی مستحق رہی ہے، اور اس نعمت کی ناقدری اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، چنانچہ قاضی ابوبکر ابن العربی العافری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وَاللّٰهُ أَكْرَمَ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالْإِسْنَادِ، لَمْ يُعْطِهِ لِأَحَدٍ غَيْرِهَا، فَاحْذَرُوا أَنْ تَسْلُكُوا مَسْلَكَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى، فَتَحْذَرُوا بِغَيْرِ إِسْنَادٍ، فَتَكُونُوا سَالِبِينَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَنْ أَنْفُسِكُمْ، مُطَرِّقِينَ لِلتَّهْمَةِ إِلَيْكُمْ، خَافِظِينَ لِمَعْتَرِلَتِكُمْ، وَمُشْتَرِكِينَ مَعَ قَوْمٍ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ، وَرَاكِبِينَ لِسُنَنِهِمْ“۔^۱

”اللہ تعالیٰ نے ”اسناد“ سے اس امت کا اعزاز فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علاوہ کسی اور پر یہ نوازش نہیں کی ہے؛ چنانچہ تم یہود و نصاریٰ کے راستوں کو اختیار مت کروں کہ بلا سند ہی حدیثیں بیان کرتے رہو، ورنہ تم اپنے آپ سے اللہ کی نعمت کو خود ہی سلب کرنے، دوسروں کو تہمت کا موقع دینے والے، اپنا مقام خود گھٹانے والے بن جاؤ گے، اور ایسی قوم کے ساتھ شریک اور ان کے طور طریقے اختیار کر نیوالے بن جاؤ گے جن پر اللہ کی لعنت اور غضب نازل ہوا ہے۔“

اسی فریضے کے پیشِ نظر ذیل میں ایک ایسی روایت بیان کی جائے گی جو ائمہ حدیث کے نزدیک بے سند ہے، اس لیے آپ ﷺ کے انتساب سے اس روایت کو

۱۔ الإسناد من الدین: ص: ۲۹، تالیف عبد الفتاح أبو غُدَّة، مکتب المطبوعات الإسلامية بحلب، الطبعة الأولى ۱۴۱۲ھ۔

بیان کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بالاتفاق رسول اللہ ﷺ کی طرف صرف ایسے امور منسوب کیے جاسکتے ہیں، جو معتبر سند سے ثابت ہوں، لیکن ہمارے تسامیل کا یہ عالم ہے کہ یہ روایت زبان زد عام ہے، فی‌الہ اللہ المشتکی۔
تحقیق روایت:

”أَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ حَجَّةً فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ“۔

فَرَجَّحْنَا، وہ یوم عرفہ جو جمعہ کے روز ہو، تمام دنوں میں سب سے افضل ہے، اور اس دن کا حج جمعہ کے علاوہ کے ستر حج سے افضل ہے۔
بعض روایتوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں:

”إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ الْحَجُّ أَكْبَرَ“۔
فَرَجَّحْنَا، یوم عرفہ جب جمعہ کے دن ہو، تو وہ حج، حج اکبر ہے۔
ہمارے پاک و ہند میں یہ روایت تقریباً انھیں لفظوں سے عام ہے۔

تحقیق کا اجمالی خاکہ:

حدیث کی تحقیق دو بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے:

۱۔ حدیث کی مصادرِ اصلیت سے تخریج

۲۔ روایت پر ائمہ حدیث کا کلام اور اس کا فنی حکم

مصادرِ اصلیت سے تخریج:

علامہ ابن الاثیر الجزیری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۶۷۱ھ) ”جامع الأصول“ لہ میں لکھتے ہیں:

”(ط) طلحة بن عبيد الله بن كزير: أن رسول الله ﷺ قال: أفضل

الْأَيَّامِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ حِجَّةً فِي غَيْرِ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَأَفْضَلُ الدَّعَاءِ دَعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالتَّبَيُّونُ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- أَخْرَجَ الْمُوطَّأُ مِنْ قَوْلِهِ: أَفْضَلُ مَا قُلْتُ وَالْحَدِيثُ بِطَوْلِهِ أَخْرَجَهُ رَزِينٌ-“

طلحہ بن عبید اللہ بن کریم فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ فرمایا: وہ یوم عرفہ جو جمعہ کے روز ہو، تمام دنوں میں سب سے افضل ہے، اس دن کا حج جمعہ کے علاوہ کے ستر حج سے افضل ہے، اور افضل دعا، یوم عرفہ کی دعا ہے، اور میں اور مجھ سے قبل انبیاء کا سب سے افضل قول ”لا إله إلا الله وحده لا شريك له“ ہے۔“

(علامہ ابن الاثیر الحجازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ) اس حدیث کا جزء ”افضل ما قلت“ (سے آخر تک) موطاً امام مالک میں منقول ہے، البتہ مکمل حدیث کی تخریج رزین رحمہ اللہ نے کی ہے۔

علامہ ابن الاثیر رحمہ اللہ کے قول کی وضاحت اور موطاً امام مالک کی روایت: علامہ ابن الاثیر الحجازی رحمہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس مکمل حدیث کی تخریج حافظ رزین رحمہ اللہ نے کی ہے، البتہ ”موطاً مالک“ میں لفظ ”افضل الدعاء“ سے آخر تک کا مضمون تو مذکور ہے، لیکن زیر بحث مضمون یعنی ”افضل الايام يوم عرفة...“ موجود نہیں، ”موطاً امام مالک“ لہ کی روایت ملاحظہ ہو:

”وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَفْضَلُ الدَّعَاءِ دَعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ: أَنَا وَالتَّبَيُّونُ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ-“

طلحہ بن عبید اللہ بن کریم سے منقول ہے کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”افضل دعا، یوم عرفہ کی دعا ہے، اور میرے اور مجھ سے قبل انبیاء کے اقوال میں افضل۔“ لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ وحده لا شریکَ لہ“ ہے۔

”التَّجْرِيدُ لِلصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ“ کا مختصر تعارف:

ما قبل میں علامہ ابن الاثیر الجزیری رحمہ اللہ کا یہ کلام سامنے آچکا ہے کہ زیر بحث مکمل روایت حافظ رزین رحمہ اللہ نے تخریج کی ہے، دراصل حافظ رزین بن معاویہ عبدری رحمہ اللہ (توفی ۵۳۵ھ) نے ”التَّجْرِيدُ لِلصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ“ کے نام سے ایک کتاب آسانید ذکر کیے بغیر، ابواب پر مرتب کی ہے، اس کتاب میں صحیحین، موطا مالک رحمہ اللہ، سنن ترمذی رحمہ اللہ، سنن أبی داؤد رحمہ اللہ اور سنن نسائی رحمہ اللہ کی احادیث جمع کی گئی ہیں، چنانچہ علامہ ابن الاثیر جزیری رحمہ اللہ نے ”جامع الأصول“ لہ میں ”التَّجْرِيدُ لِلصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ“ کا تعارف ان لفظوں کیا ہے:

”وتلاهم آخراً أبو الحسن رزین بن معاویہ العبدري السرقسطي، فجمع بين كتب البخاري ومسلم والموطأ لمالك وجامع أبي عيسى الترمذي وسنن أبي داؤد الشَّجِسْتَانِي وسنن عبد الرحمن النسائي، رحمه الله عليهم۔ وَرَتَّبَ كتابه على الأبواب دون المسانيد۔“

”التَّجْرِيدُ لِلصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ“ کے اس مختصر تعارف سے حافظ ابن الاثیر الجزیری رحمہ اللہ کے سابقہ کلام کی مزید وضاحت بھی ہوگئی کہ حافظ رزین رحمہ اللہ کے منہج کے مطابق ”التجريد“ کی زیر بحث روایت بھی سند سے خالی ہے۔

روایت پر کلام:

زیر بحث روایت کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ، علامہ زرقانی رحمہ اللہ، علامہ عبد الروف المناوی رحمہ اللہ، علامہ مبارکپوری رحمہ اللہ، ان سب محدثین کرام نے اس روایت کو ”بے اصل“ قرار دیا ہے، ذیل میں محدثین عظام کے اقوال

لہ جامع الأصول: الفصل الثالث، ۱/۹، ت: محمد حامد الفقہی، إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الرابعة ۱۴۰۳ھ

اور آخر میں ان کا خلاصہ لکھا جائے گا۔

۱- علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ ابن قیم الحوزیہ رحمہ اللہ ”زاد المعاد“ لے میں لکھتے ہیں:

”وَأَمَّا مَا اسْتَفَاضَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَوَامِ بِأَنَّهَا تَعْدِلُ ثَنِينَ وَسَبْعِينَ حَجَّةً، فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ“۔

یہ جو زبان زد عام ہے کہ (اگر عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ حج) بہتر حج کے برابر ہے، یہ باطل ہے، رسول اللہ ﷺ سے اس کی کوئی اصل ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ سے اس کی اصل ثابت ہے، واللہ اعلم۔

۲- حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ”فتح الباری“ لے میں رقم طراز ہیں:

”وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ زَيْنُ فِي جَامِعِهِ مَرْفُوعاً: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ حَجَّةً فِي غَيْرِهَا، فَهُوَ حَدِيثٌ لَا أَعْرِفُ حَالَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ صَحَابِيَّهَ وَلَا مَنْ أَخْرَجَهُ، بَلْ أَدْرَجَهُ فِي حَدِيثِ الْمُوطَأِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُرْسِلاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ، وَلَيْسَتْ الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُوطَأَاتِ۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ أَحْتَمَلُ أَنْ يُزَادَ بِالسَّبْعِينَ التَّحْدِيدُ أَوِ الْمُبَالَغَةُ، وَعَلَى كُلِّ مِنْهُمَا فَتَبَيَّنَتِ الْمَرْيَةُ بِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ“۔

زین نے اپنی ”جامع“ میں یہ روایت مرفوعاً ذکر کی ہے کہ یوم عرفہ جو جمعہ کے دن ہو، ان تمام دنوں سے بہتر ہے، جن پر سورج طلوع

لے زاد المعاد: ۱/۲۵، ت: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرئؤوط، مؤسسه الرسالة- بيروت، الطبعة السابعة وعشرون ۱۴۱۵ھ۔

لے فتح الباری: باب اليوم اكملت لكم... ۲۷۰/۸، رقم: ۳۶۰۶، دار المعرفة- بيروت۔

ہوتا ہے، اور یہ حج دوسرے حج سے ستر درجے افضل ہے۔ (حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ) اس روایت کی مجھے معرفت نہیں ہے، کیونکہ امام رَزِین نے اس میں نہ تو صحابی کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی یہ لکھا ہے کہ اس روایت کی تخریج کس نے کی ہے، البتہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس روایت (یعنی افضل دعا، یوم عرفہ کی دعا ہے، اور میرے اور مجھ سے قبل انبیاء کے اقوال میں افضل ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ“ ہے) کو طلحہ بن عبید اللہ بن کریم سے مرسل تخریج کیا ہے، لیکن مذکورہ اضافہ (یعنی یوم عرفہ جو جمعہ کے دن ہو، ان تمام دنوں سے بہتر ہے، جن پر سورج طلوع ہوتا ہے) موطات کے نسخوں میں سے کسی نسخے میں موجود نہیں ہے، پھر اگر اس کی اصل ہو بھی، تو اس میں اس کا احتمال ہے کہ سبعین (ستر) سے مراد تحدید (حد بندی) یا مبالغہ ہو، چنانچہ دونوں معنی (تحدید یا مبالغہ) کی صورت میں فضیلت ثابت ہو جائے گی۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے کلام میں دو امور قابل ضبط (تحریر) ہیں:

۱۔ امام رَزِین نے یہ روایت بلا سند تخریج کی ہے، اور میں اس روایت کی ”اصل“ سے واقف نہیں ہوں۔

۲۔ روایت کا یہ جزء، (یوم عرفہ جو جمعہ کے دن ہو، ان تمام دنوں سے بہتر ہے، جن پر سورج طلوع ہوتا ہے) موطات میں سے کسی موطن میں نہیں ہے، البتہ موطن امام مالک میں صرف یہ روایت موجود ہے:

”افضل دعا، یوم عرفہ کی دعا ہے، اور میرے اور مجھ سے قبل انبیاء کے اقوال میں افضل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ہے۔“

تقریباً یہی کلام علامہ ابن الاثیر رحمہ اللہ کا ماقبل میں گزر چکا ہے۔

۳- علامہ زرقانی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے ”شَرْحُ الزُّرْقَانِي عَلَى مَوْطَأِ مَالِك“ لہ میں اور علامہ عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ نے ”فيض القدير“ لہ میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے قول پر تقریر اور متابعت (پیروی) فرمائی ہے۔

۴- علامہ شامی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ ”رَدُّ الْمُحْتَار“ لہ میں لکھتے ہیں:

”رواہ رزین بن معاویۃ فی تَجْرِیدِ الصَّحَاحِ۔ لکن نَقَلَ المناوي عن بعض الحُقَاطِ أَنَّ هذا الحديث باطل لا أصل له۔ نعم ذکر الغزالي فی الإحياء: قال بعض السَّلَف: إذا وافق يومَ عرفة يومَ الجمعة غفر لكلِّ أهل عَرَفَةَ“۔

رَزِین بن معاویہ رحمہ اللہ نے ”تجرید الصحاح“ میں اس کی تخریج کی ہے..... لیکن مناوی رحمہ اللہ نے بعض حفاظ سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث باطل، بے اصل ہے، البتہ امام غزالی رحمہ اللہ نے ”إحياء“ میں ذکر کیا ہے کہ بعض سلف کا ارشاد ہے: جب یوم عرفة، جمعہ کے دن ہو تو سب عرفة والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔

۵- علامہ مبارکپوری رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ محمد عبدالرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ ”تحفة الأخوذی“ لہ میں لکھتے ہیں:

”تنبيه: قد اشتهر بين العوام أَنَّ يومَ عرفة إذا وافقَ يومَ الجُمُعَةِ كان الحَجُّ حَجًّا كَبِيرًا لا أَصْلَ لَهُ...“

لہ شرح الزُّرْقَانِي عَلَى مَوْطَأِ الإمام مَالِك: ۳۸۷/۱، ماجا فی الدعاء، المطبعة الخيرية بمصر، الطبعة ۱۳۱۰ھ۔

لہ فیض القدير: ۳۹۵/۳، رقم: ۳۰۹۶، دار المعرفة - بیروت، الطبعة الثانية ۱۳۹۱ھ۔

لہ رَدُّ الْمُحْتَار: مطلب فی فضل وقفة يوم الجمعة، ۳۷/۳، دار عالم الكتب - الرياض، الطبعة ۱۳۲۳ھ۔

لہ تحفة الأخوذی: ۳۱/۳، رقم: ۹۶۵، ت: عبد الوهاب عبد اللطیف، دار الفکر - بیروت۔


تنبیہ: زبان زد عام ہے کہ یوم عرفہ جب جمعہ کے دن ہو، تو وہ حج، حج اکبر ہے، یہ بے اصل بات ہے.....۔“

ائمہ کرام رحمہم اللہ کے کلام کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم:

محدثین کرام کے اقوال آپ کے سامنے آچکے ہیں، ان اقوال میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے صاف لفظوں میں اس روایت کو باطل کہا ہے، اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، علامہ زرقانی رحمہ اللہ، عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ، علامہ مبارکپوری رحمہ اللہ ان سب محدثین کرام نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ روایت بے اصل ہے اور سند اثبات نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام منسوب کیا جاسکتا ہے، جو کسی معتبر سند سے ثابت ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے اس روایت کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، محدثین کرام کے اس فنی مسلمہ قاعدے کو شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے ”المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للعلامة علي القاري“ لہ کے مقدمہ میں ان لفظوں میں ذکر کیا ہے:

”... وإذا كان الحديث لا إسناد له، فلا قيمة له ولا يلتفت إليه، إذا الإعتقاد في نقل كلام سيدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إلينا، إنما هو على الإسناد الصحيح الثابت أو ما يقع موقعه، وما ليس كذلك فلا قيمة له۔“

”..... اور جب حدیث کی سند ہی نہ ہو، تو وہ بے قیمت اور غیر قابل التفات ہے، کیونکہ ہماری جانب ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نقل کرنے میں اعتماد صرف اسی حدیث پر ہو سکتا ہے، جو صحیح سند سے ثابت ہو، یا جو اس کے قائم مقام ہو، اور جو حدیث ایسی نہ ہو تو وہ بے قیمت ہے۔“



اسی فریضے کے پیش نظر ذیل میں ایک ایسی ہی مشہور روایت پیش کی جائے گی، جس کے الفاظ آپ سے ثابت نہیں ہیں، ایسی روایت کا حکم محدثین کرام کے نزدیک یہ ہے کہ اسے آپ کی جانب منسوب نہیں کیا جائے، کیونکہ آپ ﷺ کی جانب صرف ایسا کلام ہی منسوب ہو سکتا ہے، جو معتبر سند سے ثابت ہو، البتہ اس روایت کے معنی پر مشتمل دیگر مرفوع (آپ ﷺ کا قول) اور موقوف (صحابی کا قول) روایات ثابت ہیں (تفصیل آگے آئے گی)۔

میں ان اصطلاحات کی عام فہم تعریف لکھی جائے گی۔

حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ اپنے ”مقدمۃ“ میں اس حدیث مرفوع اور حدیث موقوف کی تعریف ان لفظوں سے کی ہے۔

”وہو ما أضيف إلى رسول الله ﷺ خاصة“۔

جو بات (قول، فعل، تقریر) خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کی جائے، وہ مرفوع ہے۔

”وہو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أفعالهم وأقوالهم ونحوها...“۔

اور صحابی رضی اللہ عنہ سے منقول اقوال اور افعال وغیرہ، موقوف کہلاتے ہیں.....“۔

عنوانِ روایت:

”الَّذِي نَجِيفَةُ وَطَلَاتُهَا كِلَابٌ“۔

بَیِّنْہُمْ، دنیا مر دار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔

تحقیق کا اجمالی خاکہ:

اس حدیث کی تفصیلی تحقیق سے قبل، اس کا خلاصہ ذہن نشین کر لیں؛ تاکہ ہر مرحلے کو سمجھنا آسان رہے۔

۱۔ یہ روایت انہیں الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔

۲۔ اس روایت سے ملتے جاتے الفاظ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں۔

۳۔ اس روایت کے الفاظ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن اس مضمون پر

مشتمل دوسری روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معتبر سند کے ساتھ منقول ہیں۔

تحقیق کے مختلف مراحل:

پہلے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موقوف (صحابی کا قول) روایت اور اس کا فنی حکم ذکر

کریں گے۔

پھر روایت کے مضمون پر مشتمل مرفوع (آپ ﷺ کا قول) روایات لکھی جائیں گی۔

آخر میں زیر بحث روایت ”الدُّنْيَا جِيفَةٌ وَطَلَابُهَا كِلَابٌ“ کے بارے میں علما کے اقوال لکھے جائیں گے، جن میں صاف لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ روایت ان لفظوں کے ساتھ آپ ﷺ سے ثابت نہیں ہے، چنانچہ اس روایت کو آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی موقوف (صحابی کا قول) روایت:

حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصہبانی رحمہ اللہ ”حلیۃ الأولیاء“ لہ میں رقمطراز ہیں:

”حدثنا أبو يعلى الحسين بن محمد الزبيری، ثنا محمد بن المسيب، ثنا عبد الله بن حبيب سمعتُ يوسف بن أسباط يقول: الدنيا دارٌ نعیم الظالمین۔ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا جيفةٌ فَمَنْ أَرَادَهَا فَلْيُضْبِرْ عَلَى مُخَالَطَةِ الْكِلَابِ“

ترجمہ: ”عبد اللہ بن حُبیب فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف بن اسباط کو فرماتے ہوئے سنا: یہ دنیا ظالم لوگوں کی نعمتوں کا ٹھکانہ ہے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مردار ہے؛ چنانچہ جو شخص اس کا خواہش مند ہو، وہ کتوں سے جھگڑنے کو برداشت کرے۔“

یہ روایت حافظ ابن الاثیر الجزیری رحمہ اللہ نے بھی ”أَشَدُّ الْعَابَةِ“ لہ میں تخریج کی ہے، ”حلیۃ الأولیاء“ اور ”أَشَدُّ الْعَابَةِ لابن الاثیر“ کی یہ دونوں سندیں یوسف بن اسباط پر مشترک ہو جاتی ہیں۔

ایک اہم وضاحت:

واضح رہے کہ ”حلیۃ الأولیاء“ کی مذکورہ سند میں یوسف بن اسباط سے نقل کرنے والے راوی کا نام عبداللہ بن خُبَیق ہے، البتہ ”أُسْدُ الْغَابَةِ“ کی سند میں یوسف بن اسباط سے نقل کرنے والے راوی کا نام عبداللہ بن خُبَیق کی جگہ، عبداللہ بن حنیف لکھا گیا ہے، اور ”سیر أعلام النبلاء“ اور ”تاریخ الإسلام“ میں، یوسف بن اسباط سے روایت نقل کرنے والوں میں عبداللہ بن خُبَیق کا نام مذکور ہے، اس لئے قرین قیاس یہی ہے کہ یہ نام عبداللہ بن خُبَیق ہے، جو عبداللہ بن حنیف سے مَصْحُفٌ یعنی تبدیل ہوا ہے، واللہ اعلم۔

رُوَاۃِ سند پر ائمہ رجال کا کلام:

مذکورہ سند میں کل چار راوی ہیں، ذیل میں ہر ایک کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال ذکر کیے جائیں گے، اور آخر میں حضرت علیؑ کی اس موقوف روایت کا فنی حکم بھی لکھا جائے گا:

۱- أبو یعلیٰ الحسین بن محمد الزبیری

موصوف کا ترجمہ مجھے نہیں مل سکا، البتہ ”أُسْدُ الْغَابَةِ“ لہ کی سند میں ابواسحاق ابراہیم بن محمد المزکی نے ابو یعلیٰ حسین کی متابعت کی ہے، یعنی ”أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ“ نے ابو یعلیٰ کے شیخ ”محمد بن المسیب“ سے یہی روایت نقل کی ہے، ابواسحاق ابراہیم بن محمد المزکی کے بارے میں حافظ ذہبی ”سیر أعلام النبلاء“ لے میں لکھتے ہیں:

”الإمام، المَحْدِثُ، الْقُدْوَةُ... شَيْخٌ بَلَدُهُ وَمَحَدُّهُ“۔ (اپنے شہر کے شیخ اور محدث)

۲- محمد بن المسیب بن إسحاق بن عبد اللہ

لہ أُسْدُ الْغَابَةِ: زہد علی رضی اللہ عنہ وعدلہ، ۹۶/۲، الشیخ علی محمد المعوض والشیخ أحمد الموجود، دار الکتب العلمیۃ بیروت۔

لہ سیر أعلام النبلاء: ۱۶/۱۲۳، ت: شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة۔ بیروت، الطبعة الثانیہ ۱۴۰۳ھ۔

موصوف کے بارے میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ ”تاریخ الإسلام“ لے میں لکھتے ہیں:
 ”الحافظ الجَوَّال الزاهد... قال أبو عبد الله الحاكم: كان من العباد
 المجتهدين...“

..... ابو عبد اللہ حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن مسیب عبادت گزار مجتہدین
 میں سے تھا۔

۳- عبد اللہ بن حُبَيْق الأنطاکی الزاهد

موصوف کے بارے میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ ”تاریخ الإسلام“ لے میں لکھتے ہیں:
 ”صاحب يوسف بن أسباط، له كلام حسن في التصوف
 والمعاملة... وقد روى عن يوسف، عن الثوري، عن المُنْكَدِر، عن
 جابر رَفَعَهُ قال: مُدَارَاهُ النَّاسِ صَدَقَةٌ - قال الطَّبْرَانِي: لم يروه عن
 الثوري إلا يوسف - تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ حُبَيْق“

عبد اللہ بن حُبَيْق، یوسف بن اسباط کے (روایت نقل کرنے والے) ساتھی
 ہیں، عبد اللہ بن حُبَيْق کا تصوف اور معاملات میں اچھا کلام ہے، اس کے بعد حافظ
 ذہبی رحمہ اللہ نے طبرانی رحمہ اللہ کے حوالے سے موصوف کی ایک مرفوع روایت نقل کی،
 جس میں عبد اللہ بن حُبَيْق، اور ان کے شیخ یوسف بن اسباط دونوں متفرد (یعنی نقل
 روایت میں تنہا) ہیں، طبرانی رحمہ اللہ کی روایت یہ ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”لوگوں
 سے نرمی سے پیش آنا صدقہ ہے“۔

”الجرح والتعديل“ لے میں ابن ابی حاتم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ولم أَكُتُبْ عنه، كُتِبَ إِلَيَّ أَبِي بِجُرْمٍ مِنْ حَدِيثِهِ“

لے تاریخ الإسلام: ۴/ ۴۵، رقم: ۱۰۸۶۳، ت: مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية -
 بيروت، الطبعة الأولى ۲۰۰۵ھ۔

لے تاریخ الإسلام: ۴/ ۲۵۱، رقم: ۸۴۳، ت: مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية - بيروت،
 الطبعة الأولى ۲۰۰۵ھ۔

لے الجرح والتعديل: باب العين، ۵/ ۵۳، رقم: ۴۵۵۰، ت: مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب
 العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ۲۰۰۵ھ۔

میں نے عبد اللہ بن خبیب کی احادیث نہیں لکھی، حالاں کہ میرے والد (ابو حاتم رحمہ اللہ) نے ابن خبیب کی روایتوں کا ایک جزء (مجموعہ) میرے پاس بھیجا تھا۔

۴- یوسف بن أسباط الشیبانی الزاهد الواعظ

موصوف کے بارے میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ ”میزان الاعتدال“ لے میں لکھتے ہیں: ”وَقَفَّهَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَا يَحْتَجُّ بِهِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: كَانَ قَدْ دَفَنَ كُتُبَهُ، فَكَانَ لَا يَجِيءُ بِحَدِيثٍ كَمَا يَنْبَغِي“۔

یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے یوسف بن اسباط کی توثیق کی ہے، ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”یوسف“ سے احتجاج درست نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”یوسف بن اسباط“ نے اپنی کتابیں دفن کر دی تھی، چنانچہ وہ حدیث کو مناسب طریقے پر پیش نہیں کر سکتا تھا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ”لسان المیزان“ لے لکھتے ہیں:

”... قَالَ [ابن عدي]: ويوسف عندي من أهل الصدق، إلا أنه لما غَدِمَ كُتُبَهُ، كَانَ يَحْمِلُ عَلَى حِفْظِهِ، فَيَغْلُطُ وَيَشْتَبِهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَتَعَمَّدُ الْكُذْبَ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي الطَّبَقَةِ الثَّلَاثَةِ مِنَ ”الثَّقَاتِ“ ...“۔

”..... ابن عدي رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”یوسف“ میرے نزدیک ”اہل صدق“ میں سے ہیں، البتہ جب ان کے پاس اپنی کتابیں نہ رہی تو وہ اپنے حافظہ سے حدیث بیان کرتے تھے، جس کی وجہ سے حدیث میں غلطیاں ہونے لگیں، اور انھیں احادیث میں اشتباہ بھی ہو جاتا تھا، البتہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جان بوجھ کو جھوٹ بولتے تھے، (حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں) اور ابن حبان رحمہ اللہ نے ”یوسف بن اسباط“ کو ثقات کے تیسرے طبقے میں ذکر کیا ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موقوف روایت کا فنی حکم:

آپ سند کے تمام راویوں کے حالات تفصیل سے ملاحظہ فرما چکے ہیں، ان راویوں میں کوئی ایسا راوی نہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ یہ روایت درجہ اعتبار سے ساقط ہے، چنانچہ اس روایت کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب کر کے بیان کرنا درست ہے۔

زیر بحث روایت کے مضمون پر مشتمل مرفوع روایات:

اگرچہ علمائے کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ”الدنيا جيفة وطلابها كلاب“۔ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ آپ ﷺ سے ثابت نہیں ہے (اس کی تفصیل عنقریب آئے گی)، اس لیے ان الفاظ سے یہ روایت بیان کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اس مضمون پر مشتمل مرفوع روایات (آپ ﷺ کا قول وغیرہ) ثابت ہیں، ذیل میں ایسی دو مرفوع روایات اور ان کا فنی حکم لکھا جائے گا۔

پہلی مرفوع روایت:

امام ابو بکر الصديق نے اپنی ”مسند“ لے میں تخریج کی ہے:

”وبأسنادہ [حدثنا محمد بن الحسن، ناھانی، بن المتوکل: ناعبد اللہ ابن سلیمان، عن إسحاق، عن أنس رضی اللہ عنہ] رفعه قال: ”يَنَادِي مُنَادٍ: دَعُوا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا، دَعُوا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا، دَعُوا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا- ثَلَاثًا- مَنْ أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا أَكْثَرَ مِمَّا يَكْفِيهِ أَخَذَ جِيفَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ“۔ وهذه الأحاديث لا نَعْلَمُ تُرَوَّى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنِ أَنَسٍ...“۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ایک منادی کہتا

ہے: دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو، دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو، دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو، دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ یعنی تین دفعہ یہ ارشاد فرمایا۔ جو شخص کفایت سے زیادہ دنیا لے تو وہ مردار لینے والا ہے اور اس کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔

(امام ابو بکر البرزّی رحمہ اللہ فرماتے ہیں) اور آپ ﷺ کی یہ احادیث، جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، ہماری معلومات کے مطابق صرف اسی سند سے منقول ہیں.....۔“

حافظ بیہقی رحمہ اللہ ”مجمع الزوائد“ لہ میں مذکورہ روایت نقل کر کے لکھتے ہیں:

”رواہ البرزّار وقال: لا یروى عن النبی ﷺ إلا من هذا الوجه۔ وفيه هانیء بن المتوکل وهو ضعيف۔“

امام برزّی رحمہ اللہ نے اس روایت کی تخریج کی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ سے یہ روایت صرف اسی طریق سے مروی ہے اور اس میں ”ہانی بن متوکل“ ضعیف راوی ہے۔

مسند برزّی کی روایت کا فنی حکم:

اس روایت میں حافظ بیہقی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق، ”ہانی بن متوکل“ ضعیف راوی ہے، اور ضعیف روایات جمہور علما کے نزدیک فضائل کے باب میں بیان کی جاسکتی ہیں، بشرطیکہ روایت ضعیف شدید سے خالی ہو، چنانچہ یہ مرفوع روایت بیان کرنا درست ہے۔

دوسری مرفوع روایت:

اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی مضمون کی ایک دوسری مرفوع روایت بھی

مروی ہے، چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الذُرُّ الْمُنْتَبِرَةُ“ لہ میں پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سابقہ موقوف روایت علامہ ابوالشیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی ہے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کی یہ مرفوع روایت تحریر فرمائی ہے:

”وَأَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً: وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ: يَا دَاوُدُ! مِثْلُ الدُّنْيَا كَمِثْلِ حَبِثَةِ الْجَنَّةِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهَا الْكِلَابُ يَجْتَرُونَهَا، أَفْتَحِبُّ أَنْ تَكُونَ كَلْباً مِثْلَهُمْ تَجْتَرُ مَعَهُمْ“۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد! دنیا کی مثال اس مردار کی طرح ہے، جس پر کتے جمع ہو کر اس کو نوچ رہے ہوں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم بھی ان جیسے کتے بن کر اسے نوچو؟!

دیلیمی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کا فنی حکم:

مسند الفردوس مہیا نہ ہونے کی وجہ سے بندہ اب تک اس روایت پر مطلع نہیں ہو سکا، البتہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الذُرُّ الْمُنْتَبِرَةُ“ میں یہ روایت نقل کر کے سکوت فرمایا ہے، واللہ اعلم۔

یہاں تک زیر بحث روایت (الدنيا حيفة وطلابها كلاب) کے موقوف طریق اور اس کے مضمون پر مشتمل مرفوع روایتوں اور ان کے فنی احکام کو بیان کیا گیا ہے، ذیل میں مذکورہ روایت کے الفاظ کے بارے میں فنی تحقیق لکھی جائے گی۔

عنوان روایت

”الدنيا حيفة وطلابها كلاب“۔

اس روایت کی تحقیق دو بنیادی اجزا پر مشتمل ہے:

- ۱۔ روایت کے بارے میں ائمہ کا کلام
- ۲۔ ائمہ کے کلام کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم

روایت پر کلام:

علامہ صفحانی رحمہ اللہ، علامہ نجم الدین الغزّی رحمہ اللہ، علامہ احمد بن عبد الکریم العامری رحمہ اللہ، اور حافظ اسماعیل العجلونی رحمہ اللہ، ان سب محدثین کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ روایت ان لفظوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔

۱۔ علامہ نجم الدین الغزّی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ نجم الدین الغزّی رحمہ اللہ (۱۰۶۱ھ) ”إِتْقَانُ مَا يَحْسُنُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْأَلْسِنِ“ لہ میں لکھتے ہیں: ”۔۔۔ (الدنيا جيفةٌ وطلاتها كلابٌ) ليس هذا اللَّفْظُ فِي الْمَرْفُوعِ“

”۔۔۔ (دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں) یہ الفاظ مرفوعاً (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) ثابت نہیں ہیں۔“

۲۔ علامہ احمد بن عبد الکریم العامری رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ احمد بن عبد الکریم العامری رحمہ اللہ (۱۱۴۳ھ) ”الْجَدُّ الْحَثِيثُ فِي بَيَانِ مَا لَيْسَ بِحَدِيثٍ“ لہ میں لکھتے ہیں:

”ليس بهذا اللَّفْظُ فِي الْمَرْفُوعِ - نعم، جاء عن علي رضي الله عنه: الدنيا جيفةٌ، فَمَنْ أَرَادَهَا فَلْيَضْبِرْ عَلَى مُخَالَطَةِ الْكِلَابِ، وفي الحديث: دَعُوا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا، دَعُوا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا، وفي الحديث: مَنْ أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا فَوْقَ مَا يَكْفِيهِ، أَخَذَ جِيفَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ“

یہ الفاظ مرفوعاً ثابت نہیں ہے، البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ”دنیا مردار

لہ إِتْقَانُ مَا يَحْسُنُ: ۲۰۸، رقم: ۷۸۹، ت: الدكتور يحيى مراد، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ۲۰۰۳ھ۔

لہ الجَدُّ الْحَثِيثُ: ۱۰۰، رقم: ۱۶۵، ت: فواز أحمد زمرلي، دار ابن حزم - بيروت۔

ہے، لہذا جو شخص اس دنیا کا خواہش مند ہو، وہ کتوں سے جھگڑنے کو برداشت کرے۔“ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے: ”دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو، دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو“، اور ایک دوسری حدیث میں ہے، ”جو شخص دنیا سے اپنی کفایت سے زائد لے گا، تو وہ مردار کو لینے والا ہے، حالانکہ اسے اس کا شعور نہیں۔“ علامہ احمد بن عبد الکریم العامری رحمہ اللہ نے جن روایتوں کا ذکر کیا ہے، یہ روایتیں ”الدنيا جيفة وطلابها كلاب“ کے مضمون پر مشتمل موقوف (صحابی رحمہ اللہ کا قول) اور مرفوع (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) احادیث ہیں، ان کی تفصیل اور فنی حکم ماقبل میں گزر چکا ہے، دوبارہ مراجعت فرمائیں۔

۳۔ حافظ عجلونی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ اسماعیل عجلونی رحمہ اللہ (۱۱۶۲ھ) ”كُشْفُ الْخَفَاء“ لہ میں لکھتے ہیں:
 ”الدنيا جيفة، وطلابها كلاب“، قال الصَّغَانِي: موضوع۔ اقول: ولأن
 كان معناها صحيحاً لكانت ليس بحديث۔“

”دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔“ علامہ صغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، میں (حافظ اسماعیل عجلونی رحمہ اللہ) کہتا ہوں: اگرچہ اس کا معنی صحیح ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، اس کے بعد حافظ عجلونی رحمہ اللہ نے علامہ نجم الدین غزّی رحمہ اللہ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا اس حدیث پر کلام نقل کیا، جسے ہم ماقبل میں لکھ چکے ہیں، آخر میں حافظ اسماعیل عجلونی رحمہ اللہ نے اس روایت کے مضمون پر مشتمل امام شافعی رحمہ اللہ کے چند اشعار ذکر کیے، ملاحظہ ہو:

ومن يأمن الدنيا فاني طعمتها وسيق إلينا عذبها و عذابها
 فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها
 فان تجتنبها كنت مسلماً لأهلها وان تجتذبها نازعتك كلابها

يَتَذَكَّرُكُمْ؛ اور دنیا میں کون مامون رہا ہے، میں نے اس دنیا کو اس حالت میں چکھا ہے کہ اس کی خوش گوار اور تکلیف دہ چیزیں ہمیں پہنچتی رہی ہیں۔ یہ دنیا ایک مردار جانور کی مانند ہے، جس پر کتے اکٹھے ہو کر اسے نوچنے کی فکر میں ہوں۔ چنانچہ اگر تو اس دنیا سے کنارہ کش رہے گا، تو ان دنیا داروں سے سلامتی پالے گا، اور اگر تو بھی اسے نوچنا چاہے گا تو یہ کتے تجھ سے جھگڑا کریں گے۔

ائمہ کے کلام کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم:

علامہ صفّانی رحمہ اللہ، علامہ نجم الدین عَزَّی رحمہ اللہ، علامہ احمد بن عبدالکریم عامری رحمہ اللہ، حافظ اسماعیل عَمَلُونِی رحمہ اللہ، ان سب محدثین کرام نے روایت: ”الدنيا جيفة وطلأَتْهَا كِلَابٌ“۔ (دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں) کے بارے میں یہ تصریح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت ثابت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف ایسا کلام ہی منسوب ہو سکتا ہے، جو پایہ ثبوت تک پہنچ چکا ہو، بصورت دیگر روایت قابل التفات و بیان نہیں رہتی، چنانچہ شیخ عبدالفتاح ابو غَدَّہ رحمہ اللہ ”المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للعلامه علي الفاري“ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

”... وإذا كان الحديث لا إسناده له، فلا قيمة له ولا يُلْتَفَتُ إليه، إذا الاعتماد في نقل كلام سيدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إلينا، إنما هو على الإسناد الصحيح الثابت أو ما يقع موقعه، وما ليس كذلك فلا قيمة له“۔

”..... اور جب حدیث کی سند ہی نہ ہو، تو وہ بے قیمت اور غیر قابل التفات ہے، کیونکہ ہماری جانب ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نقل کرنے

میں اعتماد صرف اسی حدیث پر ہو سکتا ہے، جو صحیح سند سے ثابت ہو، یا جو اس کے قائم مقام ہو، اور جو حدیث ایسی نہ ہو تو وہ بے قیمت ہے۔

تمام روایات کا حاصل:

”الدنيا جيفة وطلابُها كِلَابٌ“۔ ترجمہ: دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ اس روایت کی تحقیق تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے، یہاں آخر میں اس مکمل بحث و تحقیق کے نتائج ملاحظہ ہوں:

۱- یہ روایت انہیں الفاظ کے ساتھ آپ ﷺ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اسے آپ ﷺ کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔

۲- اس روایت سے ملتے جاتے الفاظ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں، روایت

یہ ہے:

الدنيا جيفة فمن أَرَادَهَا فَلْيَضْبِرْ عَلَى مُخَالَطَةِ الْكِلَابِ“۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مردار ہے، لہذا جو شخص اس کا خواہش مند ہو، وہ کتوں سے جھگڑنے کو برداشت کرے۔

۳- اس روایت کے الفاظ اگرچہ آپ ﷺ ثابت نہیں، لیکن اس مضمون پر مشتمل روایات آپ ﷺ سے معتبر سند کے ساتھ ثابت ہیں، چنانچہ ”مسند بزار“ کی روایت یہ ہے:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ”يُنَادِي مُنَادٍ: دَعُوا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا، دَعُوا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا، دَعُوا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا- ثَلَاثًا- مَنْ أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا أَكْثَرَ مِمَّا يَكْفِيهِ أَخَذَ جِيفَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ“۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ایک منادی کہتا ہے: دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو، دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو، دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ یعنی تین دفعہ یہ ارشاد فرمایا۔ جو شخص کفایت سے زیادہ دنیا لے تو وہ مردار لینے والا ہے اور اس کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔

روایت نمبر: (۲۰)

محدثین کرام ہر زمانے میں احادیث کو خس و خاشاک سے صاف کرتے رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی یہ کاوشیں ساری امت پر احسان ہیں، کیوں کہ ان محدثین عظام نے لوگوں کے سامنے شریعت کو صاف اور نکھرے انداز میں پیش کر دیا ہے، لیکن ہمارے اس دور کا الیہ یہ ہے کہ جب ایک عامی شخص کے سامنے کسی زبان زد عام من گھڑت حدیث کا اظہار کیا جاتا ہے تو اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے اس معنی اور مضمون کی بہت سی حدیثیں ثابت ہیں؛ لہذا اسے بیان کرنے میں بھی حرج نہیں ہونا چاہیے، گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر نیکی کو آپ ﷺ کی جانب منسوب کیا جاسکتا ہے، اسی طرح ہر برائی کی نفی کا انتساب آپ ﷺ کی طرف کر سکتے ہیں، اور بلاشبہ آپ ﷺ خیر کو پھیلانے اور شر کو ختم کرنے والے ہیں، لیکن بہر حال آپ ﷺ کی طرف صرف ایسا قول ہی منسوب ہو سکتا ہے، جو معتبر سند سے ثابت ہو، بلکہ آپ ﷺ کی جانب جھوٹی خبر منسوب کرنے پر سخت وعید ہے، چنانچہ ”الجامع الصحيح للبخاری رحمہ اللہ“ میں ہے: ”مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“ لے۔ ”آپ ﷺ کا ارشاد ہے: جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔“

خاتم المحدثین امام عبد العزیز فرہاروی رحمہ اللہ نے ”کوثر النبی وزلال خوضہ الزوی“ لے میں عوام کے انہیں سطحی وساوس کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے:

”كثيراً ما يَصْغُ الكَذَّابُونَ تَرْغِيْباً فِي طَاعَةٍ، وَنَهْيَاً عَنْ مَعْصِيَةٍ، فَيُطْعَمُونَ

لے الجامع الصحيح للبخاری: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ۳۳/۱، رقم الحديث:

۱۰۷۷، ت: محمد زهير بن الناصر، دار طوق النجاة بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۲ھ۔

لے ”كوثر النبی وزلال خوضہ الزوی“ ص: ۱۰۵، المخطوط، نسخه العلامة عبد الله الولهاري (۱۲۸۳ھ)۔

المُحَدَّثُ فِي حَدِيثِهِمْ، فَيُظَنُّ الْعَامَّةُ أَنَّ هَذَا إِنْكَارٌ لِلطَّاعَةِ وَالْمُعَصِيَةِ،
فَإِذَا قُلْنَا: صَلَاةُ الْأَسَابِيعِ مَوْضُوعَةٌ، وَحَدِيثُ: ”مَنْ شَرِبَ الْبَنْجَ فَعَلِيهِ
كَذَا“ - مَوْضُوعٌ قَالَ السَّامِعُ: أَفْتَى فَلَانٌ بِأَنَّهُ لَا ثَوَابَ لِلصَّلَاةِ النَّافِلَةِ
وَأَنَّ الْبَنْجَ مَبَاخٌ -

جھوٹے راوی اکثر نیکی میں رغبت دلانے اور برائی سے روکنے کے لیے
حدیثیں گھڑ لیتے ہیں، پھر جب محدث اُن کی حدیثوں میں حرف گیری کرتا
ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیکی اور بدی کا انکار ہے؛ چنانچہ جب ہم نے
لوگوں سے کہا کہ ”صلَاةُ الْأَسَابِيعِ“ (خاص نوافل، جن کا شرعاً کوئی ثبوت
نہیں ہے) من گھڑت ہے اور حدیث: ”جو بھنگ، پے گا اس کو اتنا اتنا گناہ
ہوگا“ - یہ بھی موضوع ہے، اس پر ایک سننے والا کہنے لگا کہ فلاں نے فتویٰ
دیا ہے کہ نفل نمازوں پر کوئی ثواب نہیں ملتا اور بھنگ پینا بلاشبہ جائز ہے۔

بہر حال عوامی حلقوں میں اس اہم فریضے کو خوب رائج کرنے کی ضرورت ہے کہ
آپ ﷺ کی جانب کسی بات کو منسوب کرنے میں خوب احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور
من گھڑت، باطل حدیثوں سے سختی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی مقصود کے پیش نظر، ذیل
میں ایک ایسی ہی روایت بیان کی جائے گی جو باطل ہونے کی باوجود زبان زد عام ہے۔

عنوان روایت:

”مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَذَّاهْدَمَتْ لَهُ ذُنُوبُ أَرْبَعَةِ آلَافٍ كَبِيرَةٍ“
يَتَجَهَّمُ؛ جو شخص ”لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہے اور اسے کھینچ کر پڑھے (یعنی لباً
کرے) تو اس شخص کے چار ہزار گناہ کبیرہ ختم (یعنی معاف) ہو جاتے ہیں۔

تحقیق کا اجمالی خاکہ:

روایت کی تحقیق جاراً جزاً پر مشتمل ہے:

۱- مصادر اصلیت سے تخریج

۲- روایت پر ائمہ حدیث کا کلام اور اس کا خلاصہ

۳- متکلم فیہ راوی کے بارے میں ائمہ کے اقوال

۴- روایت کا فنی حکم

حدیث اور اس کے مصادر:

حافظ محب الدین ابو عبد اللہ محمد بن محمود رحمہ اللہ (جو ابن نجار کے نام سے مشہور ہیں) نے زیر بحث روایت کی تخریج کی ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ”لسان المیزان“ لے میں نعیم بن تمام کے ترجمے میں لکھتے ہیں:

”نعیم بن تمام عن أنس رضی اللہ عنہ وعنه الحسن بن إسماعيل اليماني له حديث أخرجه ابن التَّجَارِفي ”الذيل“ في ترجمة أبي القاسم عبد الله بن عمر بن محمد الكلؤذاني المعروف بابن ذَايَةَ، من رواية عن يونس بن طاهر بن محمد، عن عبد الرحمن بن محمد بن حامد، عن محمد بن عبد الوارث بن الحارث بن عبد الله بن عبد الملك الأنصاري الزاهد، عن الحسن-

ولفظ المتن: ”مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَذَّهَا هَدَمَتْ لَهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَبِيرَةٍ“

هذا حديث باطل...“

ترجمہ: حضرت انس بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ”جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسے کھینچ کر پڑھے (یعنی لباً کرے) تو اس شخص کے چار ہزار گناہ کبیرہ ختم ہو جاتے ہیں“۔ (حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں) یہ حدیث باطل ہے.....“

روایت پر ائمہ حدیث کا کلام:

۱- حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ”لسان المیزان“ میں لکھتے ہیں:

”هذا حديث باطل، أظنه يُعْنَم بن سالم... تُصَحِّفُ إسمه وإسم أبيه...“۔

تَعْنَم بن سالم: یہ حدیث باطل ہے اور میرا گمان ہے کہ یہ نام (یعنی نُعَیم بن تمام) دراصل یُعْنَم بن سالم ہے..... نعیم بن تمام کا اپنا اور والد کا نام مُصَحِّف (تبدیل) ہو گیا ہے.....“۔

۲- علامہ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ ”تنزیہ الشریعة“ ۷ میں رقم طراز ہیں:

” (می) من حديث أنس وفيه نُعَيم بن سالم (قُلْتُ) قال الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ في اللسان: أَخْرَجَهُ ابن التَّجَار رحمہ اللہ في الذيل إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: نُعَيم بنُونٌ فَعَيْنٌ مُهْمَلَةٌ ابن تَمَّام، وَأُظْنَهُ، يُعْنَم بن سالم، تُصَحِّفُ إسمه وإسم أبيه والحديث باطل انتهى والله تعالى أعلم“۔

دیلی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اپنی سند مطابق یہ روایت تخریج کی ہے، جس میں نُعَیم بن سالم ہے، میں کہتا ہوں (یعنی ابن عَرَّاق رحمہ اللہ) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ”لسان المیزان“ میں لکھتے ہیں: ابن نجار رحمہ اللہ نے ”ذیل“ میں اس کی تخریج کی ہے، مگر ابن نجار نے نُعَیم (نون اور عین کے ساتھ) بن تمام کہا ہے، اور میرا گمان ہے کہ نُعَیم بن سالم اور اُن کے والد کے نام میں تصحیف (تبدیلی) ہوئی ہے (اور صحیح نام، یُعْنَم بن سالم ہے)، اور یہ حدیث باطل ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کلام مکمل ہوا، واللہ اعلم۔

۷ لسان المیزان: ۲۸۸/۸، رقم: ۸۱۶۳، ت: الشیخ عبدالفتاح أبو غُدَّة دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى ۱۴۲۳ھ۔

۸ تنزیہ الشریعة: کتاب الذکر والدعاء، الفصل الثالث، ۲/۳۲۵، رقم: ۲۰، ت: عبد الوہاب عبد اللطیف وعبد اللہ محمد الصدیق دار الکتب العلمیة بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۰۱ھ۔

ایک اہم وضاحت:

واضح رہے کہ حافظ ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ”تاریخ بغداد“ پر ذیل (تتمہ، ضمیمہ) لکھا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ روایت حافظ ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذیل میں تخریج کی ہے، لیکن تلاش کے باوجود مجھے یہ روایت ”ذیل تاریخ بغداد“ میں نہیں ملی، اس لیے میں نے ثانوی مصدر یعنی ”لسان المیزان“ سے روایت ذکر کی ہے، واللہ اعلم۔

۳- علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ شمس الدین ابوالخیر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ (۸۳۳ھ) ”النشر فی القراءات العشر“ ۱۷ میں زیر بحث روایت کے ساتھ ایک دوسری حدیث نقل کر کے لکھتے ہیں:

”و كلاهما ضعیفان ولكنهما في فضائل الأعمال“۔

اگرچہ یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں، مگر فضائل اعمال میں ہیں (یعنی انہیں بیان کرنا جائز ہے)۔

حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی تفصیل آگے آئے گی۔

۴- علامہ طاہر بیٹنی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام:

علامہ طاہر بیٹنی رحمۃ اللہ علیہ ”تذکرۃ الموضوعات“ ۱۷ میں لکھتے ہیں:

”فیہ نعییم کذاب“۔

اس حدیث میں نعییم کذاب ہے۔

ائمہ رجال کے اقوال کا خلاصہ:

ائمہ رجال کے اقوال آپ کے سامنے آچکے ہیں، ان نصوص میں حافظ ابن

۱۷ النشر فی القراءات العشر: تذکرة التعظیم، ۳۳۵، ت: علی محمد الصّبّاغ، المطبعة التجارية الکبریٰ، دار الکتب العلمیۃ۔ بیروت۔

۱۷ تذکرۃ الموضوعات: ۵۵/۱، کتب خانہ مجیدیہ ملتان۔ پاکستان۔

حجر رضی اللہ عنہ نے صاف لفظوں میں اس روایت کو باطل کہا ہے، نیز علامہ ابن عَرَّاق رضی اللہ عنہ اور علامہ طاہر پٹنی رضی اللہ عنہ نے بھی حافظ صاحب کی موافقت کی ہے، البتہ علامہ ابن الجَزَری رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو محض ضعیف کہا ہے (جسے فضائل میں بیان کیا جاسکتا ہے)، لیکن واضح رہے کہ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ، علامہ ابن عَرَّاق رضی اللہ عنہ اور علامہ طاہر پٹنی رضی اللہ عنہ، ان تینوں محدثین کے مقابلے میں علامہ ابن الجَزَری رضی اللہ عنہ کا قول مرجوح ہے، بلکہ تسامح (بھول چوک) پر مبنی ہے؛ کیوں کہ جمہور علما کے نزدیک، ضعیف حدیث پر فضائل کے باب میں عمل کرنا جائز ہے، اور حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس جوازِ عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ حدیث ضعیف، ضعف شدید سے خالی ہو، چنانچہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ”القول البدیع“ لہ میں فرماتے ہیں:

”سَمِعْتُ شَيْخَنَا ابْنَ حَجَرَ أَيَّ الْعَسْقَلَانِي الْمَصْرِيِّ مَرَّارًا - وَكَتَبَهُ لِي بِحَظِّهِ - يَقُولُ: شَرْطُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ ثَلَاثَةٌ: الْأَوَّلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الضَّعْفُ غَيْرَ شَدِيدٍ فَيُخْرِجُ مِنْ أَنْفَرْدٍ مِنَ الْكَذَّابِينَ وَالْمُتَّهَمِينَ وَمِنْ فَحْشٍ غَلَطُهُ...“

”میں نے اپنے شیخ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے کئی دفعہ سنا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بذاتِ خود یہ شرائط لکھ کر بھی دیں۔ ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لئے تین شرائط ہیں: پہلی شرط اتفاق ہے کہ ضعف، شدید نہ ہو؛ لہذا اس شرط سے وہ کذابین، متہمین اور فاحش الغلط نکل گئے، جو نقل روایت میں منفرد ہوں.....“

اور زیر بحث روایت کی سند میں ایک راوی یَعْنَم بن سالم ہے، جن کے بارے میں ائمہ حدیث نے شدید جرح کی ہے (تفصیل آگے آئے گی) اور یَعْنَم اس روایت کے نقل کرنے میں متفرد ہے، یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عَرَّاق رضی اللہ عنہ اور علامہ طاہر پٹنی رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو باطل اور ساقط الاعتبار کہا ہے۔

علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کے اس روایت کو ضعیف اور قابل بیان کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے سند میں مذکور راوی نعیم بن تمام کو یَعْنَم بن سالم کے علاوہ کوئی اور راوی سمجھا ہو، اس لئے سند کو محض ضعیف فرما دیا (جو فضائل میں بیان کی جاسکتی ہے)، حالاں کہ یہاں اس راوی کے نام ”نُعیم بن تمام“ میں تبدیلی اور تصحیف ہو گئی ہے، اور لفظ ”نُعیم بن سالم“ درحقیقت ”یَعْنَم بن سالم“ ہے، جو شدید مجروح راوی ہے، ایسے راوی کی حدیث فضائل میں بھی بیان نہیں کی جاسکتی۔

یہاں تک زیر بحث روایت کے بارے میں ائمہ حدیث کے اقوال اور اس کا فنی حکم آپ کے سامنے آچکا ہے، اور ان اقوال میں ”یَعْنَم بن سالم“ کو کلام کا مدار بنایا گیا ہے، ذیل میں ”یَعْنَم بن سالم“ کے بارے میں ائمہ رجال کے تفصیلی اقوال لکھے جائیں گے تاکہ روایت کا فنی حکم سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے۔

یَعْنَم بن سالم بن قنبر مولیٰ علی رضی اللہ عنہ (یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام) کے بارے میں اقوال:

”لسان المیزان“ لے میں ہے:

”...أتی بعجائب، وبقي إلى زمان مالک... قال أبو حاتم: ضعيف:

وقال ابن جَبَّان: كان يَضْعُ على أنس بن مالک رضی اللہ عنہ وقال ابن يونس:

حدَّث عن أنس فكَذَّب، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة،

وقال الطحاوي: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قدِم علينا يَعْنَم بن سالم

مصر فحِثُّهُ، فسمعته يقول: تزَوَّجْتُ امرأةً من الجَنِّ، فلم أرْ جَعٌ إليه“۔

”..... یَعْنَم بن سالم عجائب (عجیب و غریب روایتیں) بیان کرتا تھا، وہ امام

مالک رحمہ اللہ کے زمانے تک زندہ رہا..... ابو حاتم رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے اور ابن

جَبَّان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ پر احادیث گھڑتا تھا، ابن یونس رحمہ اللہ نے


کہا ہے کہ یغتم بن سالم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت کرتا تھا، پھر اسے جھوٹا کہا جانے لگا، ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کی اکثر احادیث ”غیر محفوظ“ ہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یونس بن عبد الاعلیٰ“ نے ہمیں بتایا ہے کہ ”یغتم بن سالم“ ہمارے پاس مصر آیا، میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ایک جتنی سے نکاح کیا ہے، یہ سن کر میں ان کے پاس دوبارہ نہیں گیا۔

حافظ عقیلی رحمہ اللہ نے یغتم بن سالم کو ”منکر الحدیث“ (کلمہ جرح) کہا ہے۔^۱ حافظ ذہبی رحمہ اللہ ”میزان الاعتدال“ میں لکھتے ہیں: ”...أحد المشهورين بالكذب“۔^۲

یغتم بن سالم مشہور جھوٹوں میں سے ہے۔

روایت کا فنی مقام:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، علامہ ابن عَرَّاق رحمہ اللہ اور علامہ طاہر بنی رحمہ اللہ، ان محدثین رحمہ اللہ نے یغتم بن سالم کی وجہ سے اس روایت کو باطل، من گھڑت کہا ہے، اور یغتم کے علاوہ کوئی دوسرا اس روایت کو نقل کرنے والا نہیں ہے؛ اس لیے رسول اللہ ﷺ کی جانب انتہاب کر کے اسے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔



^۱ الضعفاء الكبير: یغتم بن سالم بن قیس، ۳/۳۶۶، رقم الترجمة: ۲۱۰۱، ت: د. عبد المعطی، دار الکتب العلمیۃ بیروت۔

^۲ میزان الاعتدال: غلام، غنیم، ۳/۳۳۷، تحقیق: علی محمد البجاوی، ناشر: دار المعرفة - بیروت۔

روایت نمبر: (۲۱)

ہر خبر سچی یا جھوٹی ہونے کا احتمال رکھتی ہے، تو جس طرح بعض اوقات عام خبروں میں بھی سچائی ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طرح خبر رسول اللہ ﷺ میں بھی رد و قبول کے لیے ایک خاص دلیل اور معیار کی ضرورت ہے، جسے محدثین کی اصطلاح میں ”اسناد“ کہا جاتا ہے۔

شریعت اسلامی میں ”اسناد“ کا استعمال اس قدر عام رہا ہے کہ اہل علم طبقہ حدیث کے علاوہ ادب، شعر، نثر، فقہ، تاریخ، لغت، قصص، حتیٰ کہ ظرافت پر مشتمل حکایات میں بھی ”اسناد“ کا اہتمام فرماتے رہے ہیں، اس اسلامی نظام صدق و سچائی کو شیخ عبدالشراح البوغدہ رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

هَذَا (السَّنَدُ) يَمْتَنِدُ وَيَتَسَعُّ وَيَتَصَلُّ بِكُلِّ عِلْمٍ نُقِلَ إِلَيْهِمْ، فَمَا نُقِلَ مِنْ تَفْسِيرِ لآيَاتِ الْقُرْآنِ كَانَ بِسَنَدٍ، وَمَا نُقِلَ مِنْ حَدِيثِ نَبِيِّ كَانَ بِسَنَدٍ، وَمَا نُقِلَ مِنْ تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ كَانَ بِسَنَدٍ أَيْضاً، وَمَا نُقِلَ مِنْ أَدَبٍ، أَوْ شِعْرِ، أَوْ نَثَرٍ، أَوْ فِقْهِ، أَوْ تَارِيخٍ، أَوْ لُغَةٍ: كَانَ بِسَنَدٍ أَيْضاً، بَلْ أَشَدُّ مِنْ هَذَا: مَا نُقِلَ مِنَ الْمُسَلِّيَّاتِ أَوْ الْمُصْحِكَاتِ كَأَخْبَارِ الْحَقَمِيِّ وَالْمُغَفَّلِينَ، أَوْ أَخْبَارِ الْأَذْكِيَاءِ وَالنَّابِهِينَ: نُقِلَ بِسَنَدٍ أَيْضاً۔^۱

”اس سند میں وسعت اور گنجائش بڑھتی رہی، حتیٰ کہ ہماری جانب منقول تمام علوم میں سندیں شامل ہو گئیں، چنانچہ قرآن کی منقولہ تفسیر سند کے ساتھ ہے، ہر منقول حدیث سند کے ساتھ ہے، حدیث کی منقولہ تفسیر سند کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ منقولہ ادب، شعر، نثر، فقہ، تاریخ، لغت، یہ تمام علوم سند

۱۔ الإسناد من الدين وصفحة مشرفة: ص: ۹۲، تالیف الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الأولى

۔ ساتھ ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر تسلی خیز، اور ظرافت کی باتیں جیسے احمق اور بے وقوف لوگوں کے قصے، ذہین اور زیرک لوگوں کے واقعات، یہ سب بھی سند کے ساتھ ہیں۔“

بہر حال! دیگر علوم کے مقابلے میں احادیث کا معاملہ انتہائی نزاکت پر مبنی ہے، جس میں سند ہی کی بنیاد پر رد و قبول کا فیصلہ ہوتا ہے؛ تاکہ شریعت اسلامیہ کو رطب و یابس سے بچایا جاسکے، اور اگر کسی روایت کی سند نہ ہو، تو وہ روایت قابل التفات ہی نہیں رہتی، چنانچہ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ ”المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للعلامة علي القاري“ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

”... وإذا كان الحديث لا إسناد له، فلا قيمة له ولا يُلتَفَتُ إليه، إذا الإعتقاد في نقل كلام سيدنا رسول الله ﷺ إلينا، إنما هو على الإسناد الصحيح الثابت أو ما يقع موقعه، وما ليس كذلك فلا قيمة له۔“

”..... اور جب حدیث کی سند ہی نہ ہو، تو وہ بے قیمت اور غیر قابل التفات ہے، کیوں کہ ہماری جانب ہمارے آقا رسول اللہ ﷺ کے کلام کو نقل کرنے میں اعتماد صرف اسی حدیث پر ہو سکتا ہے، جو صحیح سند سے ثابت ہو، یا جو اس کے قائم مقام ہو، اور جو حدیث ایسی نہ ہو تو وہ بے قیمت ہے۔“

اسی فریضے کے پیش نظر ذیل میں ایک مشہور بے سند روایت کی تحقیق ذکر کی جائے گی، جس کے بارے میں محدثین کرام نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ یہ قول آپ ﷺ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ روایت رسول اللہ ﷺ کی جانب منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔

عنوانِ روایت:

حدیث: ”الْحَدِيثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهِيمَةُ الْحَشِيشَ“۔

ترجمہ: مسجد میں باتیں کرنا، نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، جس طرح چوپایہ گھاس کھاتا ہے۔

اور بعض مقامات پر یہ روایت ان الفاظ سے منقول ہے:

حدیث: ”الْكَلَامُ الْمُبَاحُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ“۔

ترجمہ: مسجد میں جائز گفتگو بھی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑیوں کو۔

تحقیق کا اجمالی خاکہ:

روایت کی تحقیق تین اجزاء پر مشتمل ہے:

۱۔ روایت کا مصدر

۲۔ روایت پر ائمہ حدیث کا کلام

۳۔ ائمہ حدیث کے اقوال کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم

روایت کا مصدر:

جذہ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ ”احیاء علوم الدین“ لہ میں لکھتے ہیں:

ویروی فی الأثر أو الخبر: ”الْحَدِيثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهِيمَةُ الْحَشِيشَ“۔

ترجمہ: بعض صحابہ رضی اللہ عنہم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مسجد میں باتیں، نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہیں، جس طرح چوپایہ گھاس کھاتا ہے۔

روایت پر ائمہ حدیث کا کلام:

علامہ عراقی رحمہ اللہ، علامہ سفارینی رحمہ اللہ، علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ، علامہ سیوطی رحمہ اللہ، علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ، ملا علی قاری رحمہ اللہ، علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ، علامہ شوکانی رحمہ اللہ، حافظ مرتضیٰ زبیدی رحمہ اللہ اور شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ، ان سب محدثین نے زیر بحث روایت پر کلام کیا ہے، ذیل میں ان ائمہ کرام کے اقوال اور آخر میں ان اقوال کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔

۱- علامہ عراقی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ عراقی رحمہ اللہ ”المُعْنِي عَنْ حَمَلِ الْأَسْفَار“ لہ میں لکھتے ہیں:
”لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَضَلِّ“

میں اس کی اصل پر واقف نہیں ہوا۔

علامہ مرتضیٰ زبیدی رحمہ اللہ نے ”إِتْحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ“ لہ میں حافظ عراقی رحمہ اللہ کے کلام پر اکتفا کیا ہے۔

۲- ملا علی قاری رحمہ اللہ کا کلام:

ملا علی قاری رحمہ اللہ ”المَصْنُوع“ لہ میں لکھتے ہیں:
”لَمْ يَوْجَدْ، كَذَا فِي ”المختصر“

یہ روایت موجود نہیں، مختصر (امام سیوطی رحمہ اللہ کی تصنیف) میں اسی طرح ہے۔

۳- شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کا کلام:

شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے ”المَصْنُوع“ لہ کے حاشیے میں علامہ

لہ المعني عن حمل الأسفار: ۱/۱۰۷، رقم: ۴۱۰، ت: أبو محمد أشرف، مكتبة دار طبرية-الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۱۵ھ

لہ إتحاف السادة المتقين: كتاب أسرار الصلاة ومهمات/الباب الأول، ۵۰/۳، دار الكتب العلمية-بيروت

لہ المصنوع: ۹۲، رقم: ۱۰۹، ت: الشيخ عبدالفتاح أبو غدة، إيج-إيم، سعيد كمبني-كراچی۔

لہ المصنوع: ۹۴، رقم: ۱۰۹، ت: الشيخ عبدالفتاح أبو غدة، إيج-إيم، سعيد كمبني-كراچی۔

سفارینی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

”فہو کذب لا أصل له“۔

یہ جھوٹ، بے اصل روایت ہے۔

۴- حافظ شوکانی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ شوکانی رحمہ اللہ ”الفوائد المجموعہ“ ۱ء میں رقم طراز ہیں:

”قال الفیروز آبادی: لم یوجد“۔

فیروز آبادی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ روایت موجود نہیں۔

۵- علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ”طبقات الشافعیۃ الکبریٰ“

۲ء میں ”احیاء“ کی ان احادیث کے تحت ذکر کیا ہے، جس کی سند انہیں نہیں ملی ہے۔

۶- علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ ”تذکرۃ الموضوعات“ ۳ء میں رقم طراز ہیں:

”فی المختصر... لم یوجد“۔

مختصر (امام سیوطی کی تصنیف) میں ہے کہ یہ روایت موجود نہیں۔

ائمہ حدیث کے اقوال کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم:

علامہ عراقی رحمہ اللہ، علامہ سفارینی رحمہ اللہ، علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ، علامہ

سیوطی رحمہ اللہ، علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ، ملا علی قاری رحمہ اللہ، علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ، علامہ

شوکانی رحمہ اللہ، حافظ مرتضیٰ رحمہ اللہ، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ، ان سب محدثین

۱ء الفوائد المجموعہ: کتاب الصلوٰۃ، ۲۵، رقم: ۳۳، ت: عبد الرحمن بن یحییٰ، دار الکتب العلمیہ۔

بیروت، الطبعة ۱۳۱۶ھ۔

۲ء طبقات الشافعیۃ الکبریٰ: الطبقة الخامسة، ۴۸/۳، ت: مصطفیٰ عبد القادر عطا، دار الکتب

العلمیہ۔ بیروت، الطبعة الأولى ۱۳۲۰ھ۔

۳ء تذکرۃ الموضوعات: فضل المسجد...، ص: ۳۶، کتب خانہ مجیدیہ۔ ملتان، پاکستان۔

کے نزدیک یہ روایت کسی سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ علاحدہ سفارینی رحمہ اللہ نے اسے صاف ”موضوع“ کہا ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف معتبر سند ہی سے بات منسوب کی جاسکتی ہے، اس لیے اس روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔

نتیجہ:

سابقہ روایت کے معنی پر مشتمل ایک اور روایت زبان زد عام ہے، اس لیے ذیل میں اسے ذکر کرنے کے بعد اس کا فنی مقام لکھا جائے گا:

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن محمد العبدری القاسی الشیر با بن الحان رحمہ اللہ نے (۷۳۷ھ) ”المدخل“ لے میں مذکورہ ذیل روایت بلا سند لکھی ہے، روایت یہ ہے:

”وَرَوَى عَنْهُ أَيْضاً عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ فَأَكْثَرَ مِنَ الْكَلَامِ، تَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: أَشْكُتُ يَا وَلِيَّ اللَّهِ! فَإِنْ زَادَ، تَقُولُ: أَشْكُتُ يَا بَغِيضَ اللَّهِ! فَإِنْ زَادَ: تَقُولُ: أَشْكُتُ عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ“۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جب آدمی مسجد میں آتا ہے پھر بہت باتیں کرنے لگتا ہے، تو فرشتے اسے کہتے ہیں: اے اللہ کے ولی! خاموش ہو جا، اگر وہ پھر بھی باتوں میں لگا رہے، تو فرشتے کہتے ہیں: اے اللہ کے مبغوض بندے! چپ کر جا، اگر وہ پھر بھی باتیں کرتا رہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، چپ ہو جا“۔

علامہ ابن الحان رحمہ اللہ اور ان کی کتاب ”المدخل“ کا مختصر تعارف:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے موصوف کا تعارف ”الدرر الكامنة“ لے میں ان لفظوں

سے کیا ہے:

لے المدخل: ۲/۲۴۷، دار الفکر، بیروت، الطبعة ۱۴۰۱ھ۔


لے الدرر الكامنة: حرف الميم، ۳/۱۴۳، ت: الشيخ عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية۔

بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۸ھ۔

”محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج ابو عبد اللہ العبدی الفارسی رحمہ اللہ، مصر میں رہتے تھے، اپنے شہر میں سماعت حدیث کی، پھر مصر کے مختلف شہروں میں علم حاصل کیا، اس کے بعد حج کیا، اور حافظ تقی الدین عبید الأسعدی رحمہ اللہ سے ”موطأ“ کی سماعت اور پھر اس کی تدریس بھی کی، اس کے بعد شیخ ابو محمد بن ابی جرہ رحمہ اللہ کی صحبت اور برکات سے خوب فیض یاب ہوئے، آپ نے ”المدخل“ نامی ایک مجموعہ تیار کیا، جو بہت سے فوائد پر مشتمل ہے، اس میں ایسی بہت سی بدعات اور معیوب امور پر تنبیہ کی گئی ہے، جن کے لوگ مرتکب ہیں اور ان افعال میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان امور میں اکثر قابل انکار ہیں، البتہ بعض افعال قابلِ تحمل (گنجائش) ہیں، آپ کا انتقال ۷۳۷ھ میں ہوا ہے۔“

”المدخل“ کی روایت کا فنی حکم:

یہ روایت علامہ مرتضیٰ زبیدی رحمہ اللہ نے ”إِتِّخَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ“ ۱ء میں علامہ ابن الحاج رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کی ہے، لیکن حافظ ابن الحاج رحمہ اللہ کی مانند روایت کی سند اور اس پر کلام ذکر نہیں کیا، بہر حال یہ روایت بھی ہماری جستجو کے مطابق سند کی مقتضی ہے، اور تا حال کسی معتبر سند سے اس کا ثبوت نہیں مل سکا ہے، اس لیے اس روایت کو بھی بیان کرنا درست نہیں ہے؛ کیونکہ معتبر سند کے بغیر آپ رحمہ اللہ کی جانب کوئی بات منسوب کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے۔



روایت نمبر: (۳۲)

ہمارے معاشرے میں اسرائیلی روایات (بنی اسرائیل سے منقول روایات) کا ایک بڑا ذخیرہ زبان زد عام ہے، جن کے بارے میں دو امور اصولی طور پر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں:

۱- اسرائیلی روایات کو ہماری شریعت کی روشنی میں پرکھا جائے گا، ان میں صرف وہ روایات قابل بیان ہوں گی، جو ہماری شریعت کے موافق ہوں یا کم از کم وہ روایات، شریعت محمدیہ ﷺ کے خلاف نہ ہوں، لہذا اگر کوئی اسرائیلی روایت، ہماری شریعت کے مضامین کے خلاف ہوگی، تو اسے بیان کرنے سے احتراز کیا جائے گا، اس اصولی قاعدے کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

”فَيَأْتِيهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا مَا عَلِمْنَا صِحَّتَهُ مِمَّا أَيْدِينَا مِمَّا يَشْهَدُ لَهُ بِالْصِّدْقِ، فَذَاكَ صَحِيحٌ.
الثَّانِي: مَا عَلِمْنَا كُذْبَهُ بِمَا عِنْدَنَا مِمَّا يَخَالِفُهُ.

والثَّالِثُ: مَا هُوَ مُشْكُوتٌ عَنْهُ، لَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَلَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، فَلَا نُؤْمِنُ بِهِ وَلَا نَكْذِبُهُ، وَتَجُوزُ حِكَايَتُهُ لِمَا تَقَدَّمَ“۔
”اسرائیلیات کی تین قسمیں ہیں:

پہلی قسم ان اسرائیلیات کی ہے، جن کی صحت ہمیں معلوم ہے، کیوں کہ ہمارے پاس موجودہ نصوص ان کے حق میں صداقت اور سچائی کی شہادت دیتے ہیں۔

دوسری قسم وہ اسرائیلیات ہیں، جن کا جھوٹ ہونا ہمیں معلوم ہو، بایں صورت کہ ہمارے پاس موجودہ نصوص ان کی مخالفت کرنے والے ہیں۔

تیسری قسم وہ اسرائیلیات ہیں، جن کے بارے میں سکوت ہے، ان کا تعلق نہ

پہلی قسم سے ہے، نہ دوسری قسم سے ہے، ہم ان پر نہ ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی تکذیب کرتے ہیں، سابقہ تفصیل کی بنا پر ان اسرائیلیات کو بیان کرنا جائز ہے۔“

۲- اسرائیلیات کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان اسرائیلی روایتوں کو بعض اوقات آنحضرت ﷺ کی جانب منسوب کر دیا جاتا ہے، حالانکہ آپ ﷺ کی جانب صرف وہی روایت منسوب کی جاسکتی ہے، جو کسی معتبر سند سے ثابت ہو؛ اس لیے روایات کو اس قسم کے اختلاط سے محفوظ رکھنا انتہائی اہم ہے، ذیل میں اسی فریضے کے پیش نظر دو ایسی اسرائیلی روایتیں ذکر کی جائیں گی، جن کے بارے میں ائمہ حدیث نے یہ صراحت بھی کی ہے کہ یہ روایتیں آپ ﷺ سے ثابت نہیں ہے، اس کا مقتضی یہ تھا کہ ان روایتوں کو آپ ﷺ کی جانب منسوب کیے بغیر بیان کیا جاتا، لیکن عام طور پر انہیں آپ ﷺ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے؛ اس لیے ان روایتوں کو مرفوعاً (یعنی آپ ﷺ کے انتساب سے) بیان کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ انہیں صرف اسرائیلی روایت کہہ کر بیان کرنا چاہیے۔

عنوان تحقیق:

ذیل میں دو احادیث کی تحقیق لکھی جائی گی۔

۱- مَا وَسَعَنِي سَمَائِي وَلَا أَرْضِي وَلَكِنْ وَسَعَنِي قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ -
 ﷺ: میرے آسمان اور زمین مجھے نہیں سما سکے، البتہ میرے مومن بندے کا دل، مجھے اپنے میں سالیلتا ہے۔

۲- الْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ -

ﷺ: دل رب کا گھر ہے۔

دونوں روایتوں کی تحقیق کا اجمالی خاکہ:

دونوں روایتوں کی تحقیق دو اجزا پر مشتمل ہے:

۱- ائمہ حدیث کا کلام

۲- ائمہ حدیث کے اقوال کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم پہلی روایت: ”مَا وَسَّعَنِي سَمَائِي وَلَا أَرْضِي وَلَكِنْ وَسَّعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ“۔

ترجمہ: میرے آسمان اور زمین مجھے نہیں سما سکے، البتہ میرے مومن بندے کا دل، مجھے اپنے میں سالیق ہے۔

روایت پر کلام:

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ زرکشی رحمہ اللہ، علامہ عراقی رحمہ اللہ، حافظ سخاوی رحمہ اللہ، امام سیوطی رحمہ اللہ، ملا علی قاری رحمہ اللہ، علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ، اور حافظ ابن عزاقر، ان سب محدثین کرام نے وضاحت کی ہے کہ زیر بحث روایت رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ اسرائیلی روایت ہے، ذیل میں ان محدثین کرام کے اقوال لکھے جائیں گے۔

۱- علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ”مجموع الفتاویٰ“ ۱۷ میں لکھتے ہیں:

”هَذَا مَا ذَكَرُوهُ فِي الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ مَعْرُوفٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ“۔ ومعناه وَسَّعَ قَلْبُهُ مَحَبَّتِي وَمُعْرِفَتِي“۔

محدثین کرام نے یہ روایت اسرائیلیات میں ذکر کی ہے، اس روایت کی آپ ﷺ سے کوئی معروف سند نہیں ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ مومن بندے کا دل میری محبت اور میری معرفت کا احاطہ کر لیتا ہے۔

۲- حافظ زرکشی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ زرکشی رحمہ اللہ ”التذکرۃ فی الأحادیث المَشْتَهَرَة“ ۱۷ میں لکھتے ہیں:

”قال بعض الحفاظ هذا مذکور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي ﷺ“

بعض حفاظ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اسرائیلیات میں مذکور ہے اور اس کی کوئی سند آپ ﷺ سے معروف نہیں ہے۔

۳- حافظ سخاوی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ ”المقاصد الحسنۃ“ لہ میں رقم طراز ہیں:
”ذكره الغزالي في الإحياء بلفظ... وقال مخرجه العراقي: لم أر له أصلاً وكذا قال ابن تيمية: هو مذکور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي ﷺ“

امام غزالی رحمہ اللہ نے ”إحياء“ میں یہ روایت ان الفاظ سے تخریج کی ہے..... اور احادیث ”إحياء“ کی تخریج کرنے والے، یعنی علامہ عراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی کوئی اصل نہیں دیکھی، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ روایت اسرائیلیات میں مذکور ہے اور اس کی کوئی سند آپ ﷺ سے معروف نہیں ہے۔

۴- علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ سیوطی رحمہ اللہ ”الدرر المنتثرة“ لہ میں رقم طراز ہیں:

”لأصل له، قلت: أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن وهب بن منبه: إن

لہ المقاصد الحسنۃ: حرف الميم، ۳۲۹، رقم: ۹۸۸، ت: عبد اللہ محمد الصديق، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية ۱۴۲۷ھ۔

لہ الدرر المنتثرة: ۲۱۷، رقم: ۳۶۱، محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۰۸ھ۔

علامہ سیوطی نے ”الزهد لأحمد بن حنبل“ کے جس طریق کو بیان کیا ہے، اس کی مکمل سند یہ ہے:
”حدثنا عبد الله، حدثني أبي، أخبرنا إبراهيم بن خالد، حدثني غفر بن عبيد الله سمع وهب بن منبه يقول: إن الله عز وجل فتح السموات لحزقيل حتى نظر إلى العرش أو كما قال، فقال حزقيل: سبحانك ما أعظمك يارب! فقال الله: إن السموات والأرض لم يخلق أن تعملني وضيق من أن تسعني ويسعني قلب المؤمن الوارع اللين“ (الزهد لأحمد بن حنبل: زهد يوسف، ۱/۱۰۳، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ۱۴۰۳ھ)۔

اللَّهُ فَتَحَ السَّمَوَاتِ لِحَزْقِيلَ، حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْعَرْشِ، فَقَالَ حَزْقِيلُ:
سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَكَ يَا رَبَّ! فَقَالَ اللَّهُ: إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
ضَعُفْنَ عَنْ أَنْ يَسْعَنِي وَوَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ“۔

اس کی کوئی اصل نہیں ہے، میں (امام سیوطی رحمہ اللہ) کہتا ہوں ”امام احمد رحمہ اللہ“ نے ”الزهد“ میں وہب بن منہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو حز قیل کے لیے کھول دیا حتیٰ کہ حز قیل کو عرش نظر آنے لگا، حز قیل نے کہا: اے میرے رب! تیرے لیے پاکی ہے تو کس قدر عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ آسمان اور زمین مجھے سامنے سے کمزور پڑھ گئے، لیکن مومن کے دل نے مجھے سالیا۔

۵۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ اور حافظ ابن عزاوق رحمہ اللہ کا کلام:
ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ”المصنوع“ لے میں، علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ نے ”تذکرۃ الموضوعات“ لے میں اور حافظ ابن عزاوق نے ”تنزیہ الشریعة“ لے میں، ان سب محدثین نے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے اس روایت کو موضوع کہا ہے۔
ائمہ حدیث کے اقوال کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم:

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ زرکشی رحمہ اللہ، علامہ عراقی رحمہ اللہ، حافظ سخاوی رحمہ اللہ، امام سیوطی رحمہ اللہ، ملا علی قاری رحمہ اللہ، علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ، اور حافظ ابن عزاوق رحمہ اللہ، ان سب محدثین کرام نے وضاحت کی ہے کہ یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا جائز نہیں ہے، صرف اسرائیلیات کے حوالے سے بیان کی جاسکتی ہے۔

لے المصنوع: ۱۶۳، رقم: ۲۹۳، ت: الشیخ عبد الفتاح أبو غنّہ، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔

لے تذکرۃ الموضوعات: ص: ۳۰، کتب خانہ مجیدیہ ملتان۔ پاکستان۔

لے تنزیہ الشریعة: الفصل الثالث، ۱/۱۴۸، رقم: ۴۵، ت: عبد الوہاب عبد اللطیف و عبد اللہ محمد

الصدیق، دار الکتب العلمیۃ بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۰۱ھ۔

دوسری روایت: ”الْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ“۔

تَرْجُمَہ: دل رب کا گھر ہے۔

روایت پر کلام:

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ زرکشی رحمہ اللہ، حافظ سخاوی رحمہ اللہ، امام سیوطی رحمہ اللہ، ملا علی قاری رحمہ اللہ، علامہ طاہر طینی رحمہ اللہ اور حافظ ابن عزاقر رحمہ اللہ، ان سب محدثین کرام نے اس روایت پر کلام کیا ہے، ذیل میں ان محدثین کرام کے اقوال اور آخر میں اس روایت کافی حکم لکھا جائے گا۔

۱- حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سابقہ روایت (مَا وَسِعَنِي سَمَائِي وَلَا أَرْضِي...) اور اس پر کلام کے بعد یہ روایت لکھی ہے، پھر لکھتے ہیں:

”هَذَا مِنْ جَنْسِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ الْقَلْبَ بَيْتُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَمَعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ“۔^۱

یہ بھی پہلی روایت (مَا وَسِعَنِي...) کی جنس سے ہے، کیوں کہ مومن کا دل، اللہ پر ایمان اور اس کی معرفت و محبت کا گھر ہے۔

۲- علامہ زرکشی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ بھی سابقہ روایت پر کلام کے بعد اس روایت پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”هَذَا الْكَلَامُ مِنْ جَنْسِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ الْقَلْبَ بَيْتُ الْإِيمَانِ وَمَعْرِفَتِهِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ“۔^۲

۱- مجموع الفتاوى: ۱۸/۱، عامر الجزائر وأنور الباز، دار الفواء المنصورة، الطبعة الثالثة ۱۴۲۶ھ۔
۲- التذكرة في الأحاديث المشتهرة: ۱/۱۳۵، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ۱۴۰۶ھ۔

یہ کلام پہلے کلام (ماوَ سَعْنی.....) کی جنس سے ہے، کیوں کہ دل ایمان و معرفت کا گھر ہے اور یہ حضور ﷺ کا ارشاد نہیں ہے۔

۳- حافظ سخاوی رحمہ اللہ کا کلام:

حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ ”المقاصد الحسنۃ“ لہ میں لکھتے ہیں:
 ”لیس له أصل في المرفوع، والقلب بيت الإيمان ومعرفة ومحبته“۔
 اس روایت کی کوئی اصل مرفوع روایت میں نہیں ہے، اور مومن کا دل، اللہ پر ایمان اور اس کی معرفت اور محبت کا گھر ہے۔

۴- امام حافظ سیوطی رحمہ اللہ کا کلام:

علامہ سیوطی رحمہ اللہ ”الدرر المنتشرة“ لہ میں لکھتے ہیں:
 ”لا أصل له“۔ اس کی اصل نہیں۔

۵- ملا علی قاری رحمہ اللہ، علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ، اور حافظ ابن عزا ق رحمہ اللہ کا کلام:

حسب سابق ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ”المصنوع“ لہ میں، علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ نے ”تذکرۃ الموضوعات“ لہ میں اور حافظ ابن عزا ق رحمہ اللہ نے ”تنزیہ الشریعة“ لہ میں، ان سب محدثین نے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے اس روایت کو موضوع کہا گیا ہے۔

لہ المقاصد الحسنۃ: حرف القاف، ۳۵۵، رقم: ۷۷۴، ت: عبد اللہ محمد الصدیق، دار الکتب العلمیۃ بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۲۷ھ۔


لہ الدرر المنتشرة: ۱۹۸، رقم: ۳۱۳، محمد عبد القادر عطاء، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۰۸ھ۔
 لہ المصنوع: ۱۴۱، رقم: ۲۱۷، ت: الشیخ عبد الفتاح أبو غنڈہ، ایچ ایم سعید کمپنی۔ کراچی۔

لہ تذکرۃ الموضوعات: ص: ۳۰، کتب خانہ مجیدیہ ملتان پاکستان۔

لہ تنزیہ الشریعة: الفصل الثالث، ۱/۱۴۸، رقم: ۳۵، ت: عبد الوہاب عبد اللطیف و عبد اللہ محمد الصدیق، دار الکتب العلمیۃ بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۰۱ھ۔

ائمہ حدیث کے اقوال کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم:

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن عزاقر رحمۃ اللہ علیہ، ان سب محدثین کرام نے وضاحت کی ہے کہ یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے؛ اس لیے یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا جائز نہیں ہے، البتہ صرف اسرائیلیات کے حوالے سے بیان کی جاسکتی ہے۔



روایت نمبر: (۲۳)

آپ نے اور اِسنونہ پر مشتمل مختلف کتابیں دیکھی ہوں گی، تقریباً ہر کتاب میں کھانے سے قبل یہی مسنون دُعا لکھی جاتی ہے: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ بَرَکَةِ اللّٰهِ“۔ دراصل یہ مسنون دعا، ایک مفصل حدیث میں مذکور ہے، البتہ بعض کتابوں میں اس دُعا کے حوالے سے دواہم تسامحات (بھول چوک) موجود ہیں:

- ۱- دعا کا حوالہ دینے میں تسامح
- ۲- کلمات دعا میں تسامح
- ذیل میں انہیں تسامحات کے حوالے سے تحقیق ذکر کی جائے گی۔
- تحقیق کا اجمالی خاکہ:

دعا کی تحقیق پانچ بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے:

- ۱- دعا کے مصادر اور ان کا خلاصہ
- ۲- تسامح کا بیان
- ۳- درست حوالے اور صحیح دعا کی تعیین
- ۴- ایک اہم تنبیہ (اس میں ایک ممکنہ احتمال کار دہے)
- ۵- نتیجہ (اس میں ایک اعتراض کا جواب ہے)

دعا کے مصادر:

ہماری جستجو کے مطابق اس دعا ”بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ بَرَکَةِ اللّٰهِ“ کا اولین مصدر ”سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ“ لے ہے، یہ کتاب ابو الفتح محمد بن محمد بن علی بن ہمام المعروف بابن الإمام (۶۷۷ھ/۷۴۵ء) کی تالیف ہے، جس

لے سلاح المؤمن: ”ما جاء في التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَالشُّرُوبِ“، ۳۹۳، رقم: ۷۲۱، ت: محي الدين اديب مستوف دار ابن كثير- بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۲ھ۔

میں مصنف رحمہ اللہ نے یہ واقعہ اختصاراً نقل کیا ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شدید بھوک کی حالت میں اپنے چند رفقاء کے ساتھ ابو الہیثم مالک بن تیہمان انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کھانا تناول فرمانے تشریف لے گئے، کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا: ”إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا وَصَرَ بْثَمَ بِأَيْدِيكُمْ لَعَفَقُوا بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَاتِهِ...“۔ جب تمہیں ایسی نعمتیں کھانے کو مل جائے، اور تم کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ تو یہ کہو: اللہ کے نام اور (اس کی) برکت کے ساتھ کھانا کھانا ہوں۔“ اس روایت کے آخر میں ”مستدرک حاکم“ کا حوالہ دیا گیا ہے۔

اس عبارت میں مذکور چار چیزیں قابل ضبط (تحریر) ہیں:

۱- یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

۲- آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بھوک کی حالت میں، ابو الہیثم مالک بن تیہمان انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔

۳- دعا کے الفاظ یہ ہیں: ”بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَاتِهِ“۔

۴- اس روایت کی تخریج حاکم نیسا بوری رحمہ اللہ نے ”مستدرک“ میں کی ہے۔

اسی طرح امام ابو زید ثعالبی رحمہ اللہ (۸۷۵ھ/۸۷۵ھ) نے ”تفسیر

ثعالبی“ ۳ء میں ”سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ“ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔

حافظ ابو الخیر ابن الجری رحمہ اللہ (۸۵۱ھ/۸۳۳ھ) نے ”الحِصْنِ

الْحَصِينِ“ ۳ء میں یہ دعا ”بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَاتِهِ“ کے لفظوں سے نقل کی ہے،

لہ وضرب یدہ الی کذا: اُھوی۔ کذا فی لسان الغزب: ضرب، ۱/۶۳۳، ت: عامر أحمد حیدر، دار

الکتب العلمیۃ۔ بیروت، الطبعة الأولى ۲۰۰۳ھ۔

۳ الجواهر الحسان (تفسیر الثعالبی): سورة التکاثیر: ۵/۶۲۳، ت: الدکور عبدالفتاح أبوسنة، إحياء

التراث العربی۔ بیروت

۳ حصن حصین: ص: ۱۶۱، حواشی مولانا محمد ادریس، الناشر: گاباستزاردوبازار، کراچی۔

اس میں بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے ابو الہیثم رضی اللہ عنہ انصاری کے گھر تشریف لے گئے تھے۔

ہمارے پاک و ہند کے علما میں علامہ قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ (توفی ۱۳۶۷ھ) نے ”تفسیر مظہری“ لہ میں ”مستدرک حاکم“ کے حوالے سے اس واقعے اور دعا کو نقل کیا ہے، اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند رفقا کے ساتھ ابو الہیثم انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تھے، اور اس روایت میں بھی دعا کے الفاظ یہ ہیں: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰی بَرَکَّۃِ اللّٰهِ“۔

خلاصہ:

حاصل یہ ہے کہ ان تمام کتابوں میں مذکورہ دعا اور قصہ، بحوالہ ”مستدرک حاکم“ ہی ذکر کیا گیا ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور دعا کے الفاظ بھی یہ ہیں: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰی بَرَکَّۃِ اللّٰهِ“۔

تسالح کا بیان:

اب ہم ”مستدرک حاکم“ میں حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جائزہ لیں، تو معلوم ہوگا کہ یہ سارا قصہ تو بعینہ موجود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند رفقا کے ساتھ ابو الہیثم انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان تشریف لے گئے تھے، لیکن اس روایت میں زیر بحث دعا ”بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰی بَرَکَّۃِ اللّٰهِ“ کا ذکر ہی نہیں ہے، یہی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ (قصہ ابو الہیثم رضی اللہ عنہ) مستدرک حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ درج ذیل کتب میں بھی مذکور ہے، لیکن کہیں بھی اس دعا کا ذکر نہیں ہے۔

۱- المعجم الكبير: ۸/۲۴۰، رقم: ۱۵۹۱۰، ت: أبو محمد

الأسیوطی، دار الکتب العلمیۃ بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۸ھ۔

۲- شرح مشکل الآثار: ۱/۴۰۹، رقم: ۴۷۳، شعیب الأرناؤوط،

مؤسّسة الرسالة- بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۵ھ۔

۳- معرفة الصحابة لأبي نعيم: أبو الهيثم مالك بن النّيهان، رقم:

۳۲۹۵: ۱/ ۳۰۴۸، ت: عادل بن يوسف، دار الوطن للنشر-

رياض، الطبعة الأولى ۱۴۱۹ھ۔

۴- شعب الإيمان: ۳۳۰/۶، رقم: ۴۲۸۳، ت: مختار أحمد

الندوي، مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۳ھ۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کتابوں میں مذکورہ دعا کا حوالہ درست نہیں ہے، اور غریب آئے گا کہ دعا کے الفاظ میں لفظ ”علیٰ“ یعنی ”بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ بَرَکَةِ اللّٰهِ“ کہنا بھی درست نہیں ہے۔

درست حوالے اور صحیح دعا کی تعیین:

در حقیقت یہ واقعہ متعدد دفعہ پیش آیا ہے کہ آپ ﷺ بھوک کی حالت میں مختلف صحابہ کے گھروں میں تشریف لے گئے ہیں، سابقہ حوالوں سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ ابوالنّیّم مالک بن نّیّمان انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تھے، اسی طرح ”مستدرک حاکم“ لہ، ”المعجم الأوسط“ لہ اور ”شعب الإيمان“ لہ کی ایک دوسری روایت جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کے مطابق آپ ﷺ اپنے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان تشریف لے گئے تھے، وہاں آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تھا:

”خُبْزٌ وَلَحْمٌ وَتَمْرٌ وَنُسْرٌ وَرُطَبٌ إِذَا أَصْبَحْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَصَرِّبْهُم بِأَيْدِيكُمْ فَكُلُوا بِسْمِ اللّٰهِ وَبَرَکَةِ اللّٰهِ“۔ هذا حديثٌ صحيحٌ وَلَمْ يَخَرَّجَاهُ (کذا في المستدرک)۔

لہ مستدرک حاکم: کتاب الأَطْعَمَةِ: ۱۴۶/۴، رقم: ۴۱۷۸، ت: مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية- بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۲۲ھ۔

لہ المعجم الأوسط: ۲۶۶/۲، رقم: ۲۲۴۷، ت: طارق بن عوض اللّٰه، دار الحرمين- القاهرة، الطبعة ۱۴۱۵ھ۔

لہ شعب الإيمان: ۳۳۰/۶، رقم: ۴۲۸۳، ت: مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۳ھ۔

”روٹی، گوشت، ادھ کچری اور پکی ہوئی کھجوریں، جب ایسی نعمتیں پاؤ، اور پھر کھانے کے لئے ہاتھ بڑھاؤ تو اللہ کے نام اور (اس کی) برکت کے ساتھ کھاؤ۔“

(حاکم نسیا بُوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ) یہ حدیث صحیح ہے، اور حضرات شیخین نے اس کی تخریج نہیں کی ہے۔

واضح رہے کہ اس روایت میں دعا کے الفاظ یہ ہیں: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَبِرِکَۃِ اللّٰهِ“، یعنی لفظ ”علی“ کے بغیر۔
نتائج:

ان تمام نصوص سے دوا ہم نتائج اخذ ہوتے ہیں، جن کی طرف شروع میں اشارہ کیا گیا تھا:

۱- صحیح ہے کہ زیر بحث دعا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً (یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے) منقول ہے، جسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ”مستدرک“ میں تخریج کیا ہے، اور اس دعا کی نسبت حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ (قصہ ابی اہیشم رضی اللہ عنہ) کی طرف کرنا تسامح پر مبنی ہے۔

۲- دعا کے صحیح کلمات یہ ہیں: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَبِرِکَۃِ اللّٰهِ“۔ چنانچہ اس دعا میں لفظ ”علی“ کی زیادتی کرنا، یعنی ”بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰی بِرِکَۃِ اللّٰهِ“ کہنا درست نہیں ہے۔

”علی برکۃ اللہ“ کے ثبوت کی ایک توجیہ اور اس کا جائزہ:

ہمارے بعض معاصرین علماء کرام نے ”کلمات دعا“ کے بارے میں یہ بات بھی فرمائی ہے کہ ممکن ہے ”مستدرک حاکم“ کے بعض نسخوں میں یہ دعا لفظ ”علی“ کے ساتھ ہو، یعنی ”بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰی بِرِکَۃِ اللّٰهِ“، چنانچہ بعد کی جن کتابوں میں یہ دعا لفظ ”علی“ کے ساتھ ہے، ان مؤلفین نے ”مستدرک حاکم“ کے انہیں نسخوں سے یہ دعا نقل کی ہوگی۔

- یہ احتمال چند قوی قرائن کی وجہ سے قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا، قرائن یہ ہیں:
- ۱- ہماری جستجو کے مطابق ”مستدرک حاکم“ کے موجودہ متداول نسخوں میں، یہ دعا لفظ ”علی“ کے بغیر ہے، یعنی ”بسم اللہ وبرکۃ اللہ“۔
 - ۲- جیسا کہ حاکم نسیا بُوری رحمۃ اللہ علیہ (۳۲۱ھ/۴۰۵ھ) نے ”مستدرک حاکم“ میں، حدیث ابن عباس کے تحت، یہ دعا لفظ ”علی“ کے بغیر، یعنی ”بسم اللہ وبرکۃ اللہ“ تخریج کی ہے، اسی طرح حاکم نسیا بُوری رحمۃ اللہ علیہ سے قبل امام سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ (۲۶۰ھ/۳۶۰ھ) نے یہی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ تخریج کی ہے، جس میں یہ دعا لفظ ”علی“ کے بغیر، ”بسم اللہ وبرکۃ اللہ“ لکھی ہے، نیز حاکم نسیا بُوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ (۳۸۴ھ/۴۵۸ھ) نے ”شعب الایمان“ میں یہی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ تخریج کی ہے، جس میں یہ دعا لفظ ”علی“ کے بغیر، ”بسم اللہ وبرکۃ اللہ“ لکھی ہے، لہذا یہ کہنا کہ ممکن ہے، ”مستدرک حاکم“ کے بعض نسخوں میں یہ دعا لفظ ”علی“ کے ساتھ ہو، یعنی ”بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ“، اور بعد کے مؤلفین نے ”مستدرک حاکم“ کے انہیں نسخوں سے یہ دعا نقل کی ہو، یہ احتمال ان قرائن کی موجودگی میں بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے؛ کیونکہ ”مستدرک حاکم“ کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی یہ دعا لفظ ”علی“ کے بغیر منقول ہے؛ اس لیے صحیح بات یہی کہ ”المعجم الأوسط“ اور ”شعب الایمان“ کی طرح، ”مستدرک حاکم“ میں بھی یہ دعا لفظ ”علی“ کے بغیر، ”بسم اللہ وبرکۃ اللہ“ ہے، البتہ یہ ممکن ہے، کہ ”مستدرک“ کے حوالے سے ابتداء کسی کتاب میں یہ دعا تسامحاً (بھول چوک سے) لفظ ”علی“ کے ساتھ، یعنی ”بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ“ منقول ہوئی ہے (ہماری جستجو کے مطابق اس دعا یعنی ”بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ“ کا قدیم ترین مصدر ”سلاح المؤمن“ ہے)

پھر بعد والے مولفین اسی پر اعتماد کرتے ہوئے اسے نقل کرتے رہے، اور اس طرح یہ تسامح رائج ہو گئی ہو، واللہ اعلم۔
تہتمہ:

بعض افراد نے اس دعا کے بارے میں ایک شبہ کا اظہار کیا ہے کہ ”مستدرک حاکم“ کی عبارت ”فَكُلُوا بِسْمِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ اللَّهُ“ کا مدعی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ”بِسْمِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ اللَّهُ“ کھانا کھانے کی مسنون دعا ہے، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں: ”آؤ، بِسْمِ اللَّهِ!“ اسی طرح کھانا تیار ہو تو کہتے ہیں: ”بِسْمِ اللَّهِ کیجئے!“ نیز یہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی یہ موجود نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم دیا ہو کہ کھانے سے قبل، دُعا کے یہ الفاظ ہیں، اور امام نسائی رحمہ اللہ اور حافظ ابن السنی رحمہ اللہ کی ”عمل الیوم واللیلۃ“، اور امام نووی رحمہ اللہ کی ”الأذکار“، ان کتابوں میں اس دعا کا نام و نشان تک نہیں۔

اس شبہ کا حاصل، تین امور ہیں:

۱- آپ ﷺ نے کھانے سے قبل اس دعا کا حکم نہیں فرمایا۔

۲- اور ادکی معتبر کتب میں یہ دعا موجود نہیں ہے۔

۳- جن روایات میں ”فَكُلُوا بِسْمِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ اللَّهُ“ جیسے الفاظ آئے ہیں، وہاں یہ دعا تعلیم فرمانا مقصود نہیں، بلکہ یہ جملہ بالکل ہمارے اس محاورے کی طرح ہے: بِسْمِ اللَّهِ کیجئے! یعنی کھانا کھائیے۔

ذیل میں ہر اشکال کا جواب لکھا جائے گا:

پہلے شبہ کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ صاحب اشکال کے سامنے ”مستدرک“ کی عبارت تھی، یعنی ”إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَصَرِّبْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ فَكُلُوا بِسْمِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ اللَّهُ“، اس وجہ سے اشکال پیدا ہوا کہ آپ ﷺ نے کھانے سے قبل اس دعا کا حکم نہیں فرمایا، حالانکہ ”المعجم الأوسط“ کی روایت میں صاف تاکید

الفاظ ”فَقُولُوا“ (یعنی تم یہ کہو) سے اس دعا کے پڑھنے کا حکم ہے، چنانچہ ”المعجم الأوسط“ لے میں ہے:

”إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا وَصَرَبْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ اللَّهُ، فَإِذَا شَبِعْتُمْ فَقُولُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا وَأَرْوَانَا وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا وَأَفْضَلَ، فَإِنَّ هَذَا كَفَّافٌ لِهَذَا“۔

تَعْنِي هَذَا: جب تم یہ (نعمتیں) پاؤ اور کھانے کے لئے ہاتھ بڑھاؤ تو یہ کہو: میں اللہ کے نام اور اس کی برکت سے کھانا شروع کرتا ہوں، پھر جب تم سیر ہو جاؤ تو یہ کہو: تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے، جس نے ہمیں سیر کیا اور سیر اب کیا اور ہم پر یہ فضل و انعام فرمایا، بلاشبہ ان دعاؤں کا پڑھنا ان نعمتوں کی مثل شکر گذاری بن جائے گی۔

اب اس عبارت میں کھانے سے قبل صاف لفظوں میں ”بِسْمِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ اللَّهُ“ پڑھنے کا حکم ہے، اور آپ ﷺ کا یہ ارشاد اس دعا کے سنت کہلانے کے لیے کافی ہے، چنانچہ یہ کہنا کہ ”آپ ﷺ نے کھانے سے قبل اس دعا کا حکم نہیں فرمایا“ یہ درست نہیں ہے، اور اسی سے تیسرے اشکال کا جواب بھی ہو گیا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جملہ خاطر مدارت کے طور پر کہا جاتا ہے، اور اس میں دعا کی تعلیم مقصود نہیں ہے، حالانکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ ﷺ کے الفاظ ”فَقُولُوا“ (یعنی تم یہ دعا پڑھو)، تعلیم دعا پر بالکل صریح ہے۔

دوسرے شبہ کا حاصل یہ تھا کہ اوراد کی معتبر کتب میں یہ دعا موجود نہیں ہے، حالانکہ یہ دعا، اورادِ مسنونہ کی معتبر کتب میں موجود ہے، مثلاً: علامہ ابن الإمام رحمہ اللہ


لہ المعجم الأوسط: ۲/۲۶۶، رقم: ۲۲۳۷، ت: طارق بن عوض اللہ، دار الحرمین - القاهرة، الطبعة ۱۴۱۵ھ۔

لہ الکفّاف: هو الذي لا يفضل عن الشيء، ويكون بقدر الحاجة إليه - كذا في النهاية لابن الأثير: باب الكفاف مع الفاء، ۳/۶۹۰، ت: أبو عبد الله عبد السلام علوش، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۲ھ۔

نے ”سَلَاخُ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ“ میں یہ دعا (اس میں لفظ ”علی“ کی زیادتی تسامح پر مبنی ہے، تفصیل ماقبل میں آچکی ہے)، اس عنوان کے تحت ذکر کی ہے: ”مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ“ یعنی یہ باب ہے، کھانے، پینے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں۔

اسی طرح پاک و ہند میں اورادِ مسنونہ کی مشہور اور متداول کتاب ”الْحَصْنُ الْحَصِينُ“ لے ہے، یہ کتاب حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی تالیف ہے، اس کتاب کا اردو ترجمہ عام طور پر دستیاب ہے، بندہ کے پاس فی الحال عربی نسخہ موجود نہیں ہے، اس لیے مترجم کتاب ہی کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں کہ یہ دعا ”الْحَصْنُ الْحَصِينُ“ میں اس عنوان سے مذکور ہے: ”اگر کسی کی دعوت میں عمدہ عمدہ اور لذیذ کھانے کھائے، تو کھانا شروع کرنے سے پہلے ”بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ“ کہے.....“۔

چنانچہ اب یہ کہنا کہ اوراد کی معتبر کتب میں یہ دعا موجود نہیں ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔



روایت نمبر: (۲۴)

محدثین کرام ہر زمانے میں یہ اہتمام فرماتے رہے ہیں کہ آثار صحابہ رضی اللہ عنہم کو ارشادات نبوی سے ممتاز رکھا جائے، تاکہ اسلامی مستدلات خلط سے محفوظ رہیں، اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ ایک شخص کبھی غلطی سے بھی غیر نبوی ﷺ الفاظ کو حضور ﷺ کی جانب منسوب کر سکتا ہے، علامہ ابن عراق رحمہ اللہ وضائیں کی ایک نوع کے بارے میں لکھتے ہیں:

”(الصِّنف السابع) قوم وقع الموضوع في حديثهم ولم يتعمدوا الوضع، كمن يغلط فيضيّف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام الصحابة أو غيرهم۔۔۔“

”ساتویں قسم ان لوگوں کی ہے جن کی احادیث میں من گھڑت روایات داخل ہو جاتی ہے، حالاں کہ یہ لوگ اسے خود وضع نہیں کرتے، مثلاً: ایک شخص غلطی سے صحابہ رضی اللہ عنہم یا کسی اور کا کلام حضور ﷺ کی جانب منسوب کر دے۔۔۔۔“

ذیل میں اسی عنوان کے تحت چار ایسی روایتوں کی تحقیق لکھی جائی گی، جو زبان زدِ عام صاحب رسالت ﷺ کی جانب منسوب ہے، حالاں کہ یہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم یا سلف کا قول ہے یا اسرائیلیات میں سے ہے:

(۱) ”الناس كلهم مؤثني إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكي إلا العالمون، والعالمون كلهم غرقى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم۔“

ترجمہ: ”علماء کے علاوہ تمام لوگ بے جان ہیں، اور علماء میں عمل کرنے والوں کے علاوہ تمام علماء ہلاک ہونے والے ہیں، اور عمل کرنے والوں میں

مخلصین کے علاوہ تمام غرق ہونے والے ہیں، اور اخلاص والے بہت بڑے خطرے سے دوچار ہیں۔

روایت کی تحقیق چار اجزا پر مشتمل ہے:

- ۱- روایت کا مرفوع (آپ ﷺ کا قول) طریق
- ۲- ذوالنون مصریؒ اور سہل تستریؒ کا قول
- ۳- روایت کے بارے میں ائمہ حدیث کے اقوال
- ۴- روایت کا فنی مقام

روایت کا مرفوع (آپ ﷺ کا قول) طریق

فقیر ابو الیث شمر قندیؒ ”تنبیہ الغافلین“ میں ایک خبر نقل کرتے ہیں:

”الناس هلكی إلا العالمون، والعالمون هلكی إلا العاملون، والعالمون

هلكی إلا المخلصون، والمخلصون علی خطر عظیم۔“ ۱

علما کے علاوہ تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، اور علما میں عمل کرنے والوں کے علاوہ تمام علما ہلاک ہونے والے ہیں، اور عمل کرنے والوں میں مخلصین کے علاوہ تمام ہلاک ہونے والے ہیں، اور اخلاص والے بہت بڑے خطرے سے دوچار ہیں۔

ذوالنون مصریؒ اور سہل تستریؒ کا قول

ذوالنون مصریؒ کا قول

امام بیہقیؒ ”شعب الایمان“ ۷ میں رقم طراز ہیں:

”أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر بن عبد العزيز، قال:

سمعتُ يوسف ابن الحسين، يقول: سمعتُ ذا النون المصنري يقول:

۱- انظر أسنى المطالب: ۳۰۹/۱، رقم: ۱۲۲۹، دار الكتب العلمية، بيروت۔

۷ شعب الایمان: ۱۸۱/۹، رقم: ۲۳۵۵، مكتبة الرشد، الرياض، ت: مختار أحمد الندوي، الطبعة

الناس كلهم موتى إلا العلماء، والعلماء كلهم نيام إلا العاملون،
والعاملون كلهم مُعْتَرُونَ إلا المخلصون، والمخلصون على خَطَرٍ
عظيم. قال الله عز وجل ﴿لَيْسَ السَّالِ الضَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾
[الأحزاب: ۸/۳۳]

”ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علما کے علاوہ سب لوگ مردہ ہیں، اور
علما میں عمل کرنے والوں کے علاوہ سب علما سو رہے ہیں، اور عمل کرنے والوں میں
، اخلاص والوں کے علاوہ سب دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اخلاص والے
بھی بہت بڑے خطرے میں ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: ﴿لَيْسَ السَّالِ الضَّادِقِينَ
عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ [الأحزاب: ۸/۳۳] ترجمہ: ”تا کہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کا
سچ پوچھے۔“

حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے بھی ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا مذکورہ قول ”تاریخ
دمشق“ لے میں تخریج کیا ہے۔

سہیل بن عبد اللہ شتر رحمہ اللہ کا قول

امام بیہقی رحمہ اللہ نے ”شعب الایمان“ ۲ میں سہیل بن عبد اللہ شتر رحمہ اللہ سے
بھی اسی قسم کا مضمون نقل کیا ہے:-

”أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي، أخبرنا
أبو محمد الجريدي، قال: سمعت سَهْلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الشَّشْرِيَّ قَالَ:
الدُّنْيَا كُلُّهَا جَهْلٌ مَوَاتٌ إِلَّا الْعِلْمُ مِنْهَا، وَالْعِلْمُ كُلُّهُ حَجَّةٌ عَلَى الْخَلْقِ
إِلَّا الْعَمَلُ بِهِ، وَالْعَمَلُ كُلُّهُ هَبَاءٌ إِلَّا الْإِخْلَاصُ مِنْهُ، وَالْإِخْلَاصُ خَطَرٌ

لے تاریخ دمشق: ذوالنون بن ابراہیم: ۱۷/۳۲۹، ت: مخب الدین أبو سعید، دار الفکر۔ بیروت، الطبعة
۱۳۱۵ھ۔

۲ شعب الایمان: ۱۸۰/۹، رقم: ۶۳۵۳، مكتبة الرشد۔ الرياض، ت: مختار أحمد الندوي، الطبعة
الأولى ۱۳۲۳ھ۔

عظیم لا يعرفه إلا الله عز وجل حتى يصل الإخلاص بالموت۔“
 سہل بن عبد اللہ ثنّری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کے سوا دنیا ساری کی ساری نادانی اور بے روح چیز ہے، اور علم مخلوق پر حجت ہے، البتہ اس پر عمل کیا جائے (تو حجت نہیں)، اور عمل سب کا سب غبار ہے، مگر یہ کہ اس میں اخلاص ہو، اور اخلاص عظیم خطرے میں ہے، جسے صرف اللہ ہی پہچانتا ہے، یہاں تک کہ اخلاص موت تک پہنچ جائے۔

حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ”اقتضاء العلم العمل“ لے میں سہل بن عبد اللہ ثنّری رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت تخریج کی ہے، البتہ ایک دوسری سند سے بھی سہل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت ان الفاظ سے تخریج کی ہے:

”الناس كلهم شكاوى إلا العلماء والعلماء كلهم خيارى إلا آمن عميل بعلمه۔“ ”سب لوگ نشے میں ہیں سوائے علمائے، اور علمائے سب حیران ہیں، سوائے عمل کرنے والوں کے۔“

”حلیۃ الأولیاء“ لے میں سہل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ان الفاظ سے مروی ہے: ”الدنيا كلها جهل إلا العلم فيها، والعلم كله وبال إلا العمل به، والعمل كله هباء منثور إلا الإخلاص فيه، والإخلاص فيه أنت منه على وجل حتى تعلم هل قبل أم لا۔“

”دنیا سب کی سب جہالت ہے، سوائے علم کے، اور علم سب کا سب وبال ہے، سوائے عمل کے اور عمل اُڑتی غبار کی طرح ہے، سوائے اخلاص کے، اور تم اخلاص کے بارے میں ڈرتے رہو، حتیٰ کہ جان لو کہ وہ قبول ہو گیا یا نہیں۔“

روایت پر ائمہ حدیث کا کلام

۱- حافظ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام

حافظ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ ”کَشْفُ الْخَفَاء“ لہ میں لکھتے ہیں:

”قال الصَّغَانِي: وهذا حديث مفترى ملحون، والضواب في الإعراب، ”العالمين والعاملين والمخلصين“ انتهى- وأقول فيه: إنَّ الشَّيْطَانِيَّ نقل في التَّكْتِ عَنْ أَبِي حَتَّانٍ أَنَّ الْإِبْدَالَ فِي الْإِسْتِثْنَاءِ الْمُوجِبِ لُغَةً لِبَعْضِ الْعَرَبِ، وَخَرَجَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَشَرِّبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ انتهى- وعليه، فالعالمون وما بعده بَدَلْ مَقَابِلَهُ“۔

”امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، غلط اعراب پر مشتمل ہے، اور صحیح اعراب ”عالمین“ اور ”عاملین“ اور ”مخلصین“ ہیں، اور میں (علامہ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ) کہتا ہوں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ سے ”التَّكْتِ“ میں نقل کیا ہے کہ بعض عربوں کی لغت میں استثناء موجب (موجب وہ کلام ہے جس میں نفی، نہی اور استفہام نہ ہو) میں ابدال ہوتا ہے اور اسی پر وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿فَشَرِّبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ کی تخریج کرتے ہیں، انتھی (چنانچہ) اس قول کے مطابق ”العالمون“ اور اس کے مابعد جملے، ماقبل سے بدل ہیں۔“

۲- علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام

علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ ”تذکرۃ الموضوعات“ ۲ لہ میں لکھتے ہیں: ”ہو مفتری ملحون...“۔ یہ من گھڑت ہے، جو غلط اعراب پر مشتمل ہے۔۔۔۔۔“

لہ کشف الخفاء: حرف النون: ۳۷۸، رقم: ۲۷۹۶، ت: عبد الحمید ہندوانی، المکتبۃ العصریۃ۔

بیروت، الطبعة ۱۳۲۷ھ۔

لہ تذکرۃ الموضوعات: باب القصص والعظم ص: ۲۰۰، کتب خانہ مجیدیہ۔ ملتان، پاکستان۔

۳- علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ”الفوائد المجموعة“ لہ میں لکھتے ہیں:

”ویروی بلفظ ہلکی، بَدَل مَوْتَى۔ قال الصَّغَانِي: موضوع“۔ اور اس

روایت میں لفظ ”مَوْتَى“ کی جگہ لفظ ”ہلکی“ بھی مروی ہے، علامہ

صغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔

۴- محمد بن درویش الحوت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام

محمد بن درویش الحوت رحمۃ اللہ علیہ ”أسنى المطالب“ لہ میں لکھتے ہیں: ”موضوع

وهذا الحديث ذكره السمرقندي في كتاب ”تنبيه الغافلين“۔ یہ حدیث موضوع

ہے اور اس حدیث کو علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ”تنبيه الغافلين“ میں ذکر کیا ہے۔

روایت کا فنی مقام

علامہ صغانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد بن درویش

الحوت رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام محدثین کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے


کہ یہ روایت من گھڑت ہے، چنانچہ اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب

کر کے بیان کرنا باطل ہے، البتہ اس قسم کا مضمون سہل بن عبد اللہ ثستری رحمۃ اللہ علیہ اور

ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے ثابت ہے، جن کے الفاظ ماقبل میں تفصیل سے

گذر چکے ہیں، لہذا یہ مضمون سہل بن عبد اللہ ثستری رحمۃ اللہ علیہ اور ذوالنون مصری کی

طرف نسبت کر کے بیان کرنا درست ہے۔



روایت نمبر: (۲۵)

(۲) ”سور المؤمن شفاء“۔ وعند البعض: ”ريق المؤمن شفاء“۔

ترجمہ: ”مومن کے جھوٹے میں شفا ہے“، اور بعض مقامات پر یہ الفاظ ملتے ہیں: ”مومن کے تھوک میں شفا ہے“۔

روایت پر کلام:

(۱) حافظ سخاوی رحمہ اللہ کا کلامحافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ ”المقاصد الحسنة“ لہ میں ”ريق المؤمن شفاء“ کے تحت رقم طراز ہیں:

”معناه صحيح، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان اشتكى الإنسان الشئ أو كانت به فؤحة أو جرح قال بأصبعه يعني سبأته الأرض ثم رَفَعَهَا، وقال: بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا، أَيُّ يَبْصَاقِ بَنِي آدَمَ، لِيَشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا۔ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُقَرَّبُ مِنْهُ۔

وَأَمَّا مَا عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ أَنْ: ”سُورُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ“، ففِي الْأَفْرَادِ لِلدَّارِ قُطْنِي، مِنْ حَدِيثِ نُوحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي حَزْرَجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ: ”مِنْ التَّوَاضُّعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُورِ أَخِيهِ“۔

اس حدیث (مومن کے تھوک میں شفا ہے) کا معنی صحیح ہے، چنانچہ صحیحین میں ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی شکایت ہوتی یا کوئی پھوڑا یا زخم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھتے، پھر اٹھا لیتے اور یہ دعا پڑھتے: ”بسم اللہ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا

بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا، (أَيُّ بَيْضَاقِ بَنِي آدَمَ)، لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا“: ترجمہ: ”اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے، جو ہم میں سے کسی ایک (یعنی بنی آدم کے تھوک) کے ساتھ ملی ہوئی ہے، (ہم نے یہ کام اس لئے کیا) تاکہ ہمارے پروردگار کے حکم سے ہمارا مریض شفا یاب ہو جائے۔“

البتہ یہ جو زبان ردعام ہے کہ ”مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے“، (اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ) امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ”الأفراد“ میں نوح بن ابی مریم کی حدیث نقل کی ہے، جس میں نوح، ابن جریج سے، اور وہ عطاء سے اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: ”تواضع میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے بھائی کا جھوٹا پی لیا کرے۔“

(۲) علامہ نجم الدین غزی رحمہ اللہ کا کلام

علامہ نجم الدین غزی رحمہ اللہ ”إِتْقَانُ مَا يَحْسُنُ“ لہ میں ”سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ شَفَاءُ“ کے تحت لکھتے ہیں:

”لَيْسَ بِحَدِيثٍ، نَعَمْ (قَطُّ) فِي (الْأَفْرَادِ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: مِنَ التَّوَاضُّعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُورَةِ أُخِيهِ“۔

یہ حدیث نہیں ہے، البتہ دارقطنی رحمہ اللہ ”الأفراد“ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں: ”تواضع میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بھائی کا جھوٹا پی لیا کرے۔“

علامہ نجم الدین غزی رحمہ اللہ چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں:

”وَقَدْ وَقَعَ مِنْ بَعْضِ خُطَبَاءِ دِمَشْقَ أَنِّي كُنْتُ وَإِيَّاهُ فِي مَجْلِسٍ، فَطَلَبَ السَّاقِي لِيُسْقِيَنَا، فَمَنْعْتُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِي هَذَا الْخَطِيبُ: يَا مَوْلَانَا!

سُورَ الْمُؤْمِنِ شَفَاءٌ فَقُلْتُ لَهُ: حِينَ نَرَى الْمُؤْمِنَ؛ فَتَعُدُّ سُورَهُ شِفَاءً؛
عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَدِيثٍ، وَزَعَمَ أَنَّهُ حَدِيثٌ أَوْ إِيْهِامٌ أَنَّهُ حَدِيثٌ،
كَذَّبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَبَا لِهَذَا الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ إِلَّا
مَنْ اتَّقَى اللَّهَ، وَأَيَّنَ هُمْ؟-

ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ میں اور دمشق کے ایک خطیب کسی مجلس میں تھے، اس خطیب نے ساقی سے کچھ مانگا کہ وہ ہمیں پلائے، میں نے خطیب کو اس سے منع کیا، خطیب نے مجھ سے کہا کہ اے مولانا! ”مؤمن کے جھوٹے میں شفا ہے“، میں نے خطیب سے کہا اگر ہم اسے مؤمن سمجھیں، تو اس کے جھوٹے میں شفا سمجھیں گے، میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، اور خطیب کا کہنا تھا کہ یہ حدیث ہے، یا وہ اس وہم میں ڈالنا چاہ رہا تھا کہ یہ حدیث ہے، (بہر حال) اس نے رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ بولا، چنانچہ ناس ہو اس زمانے کا اور اس کے لوگوں کا، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں؟-

(۳) احمد بن عبد الکریم غزی عامری رحمہ اللہ کا کلام

احمد بن عبد الکریم غزی عامری رحمہ اللہ ”الْجَدُّ الْحَنِيثُ“ لے میں لکھتے ہیں: ”لیس بحديث“۔ یہ حدیث نہیں ہے۔

(۴) ملا علی قاری رحمہ اللہ کا کلام

ملا علی قاری رحمہ اللہ ”الْمَصْنُوع“ لے میں لکھتے ہیں:

”حديث: رِيقُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ وَكَذَا: سُورَةُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مَرْفُوعٌ“۔

حدیث: ”مؤمن کے تھوک میں شفا ہے اور اسی طرح مؤمن کے جھوٹے میں

لے الْجَدُّ الْحَنِيثُ: ۱۱۶، رقم: ۲۰۳، ت: فواز أحمد زمر لی، دار ابن حزم بیروت۔

لے الْمَصْنُوع: ۱۰۶، رقم: ۱۴۳، ت: الشیخ عبدالفتاح أبو غده، ایچ۔ ایم۔ سعید کمپنی۔ کراچی۔

شفاء ہے۔ اس کی کوئی اصل مرفوع روایت (آپ ﷺ کا قول) نہیں ہے۔

اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ ”الأسرار المرفوعة“ لہ میں لکھتے ہیں:

”ریق المؤمن شفاء۔ معناه صحيح، يُستأنس له بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا، أَيِ بَيْضَاقِ بَنِي آدَمَ، لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا، وَأَمَّا مَا يُدَوَّرُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ: سُورُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ۔ فَصَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى؛ لِرَوَايَةِ الدَّارِ قُطْنِيِّ فِي ”الْأَفْرَادِ“ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً: مِنَ التَّوَاضُّعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُورِ أَخِيهِ۔ أَيِ الْمُؤْمِنِ“۔

حدیث: ”مومن کے تھوک میں شفاء ہے“۔

اس روایت کا معنی صحیح ہے، آپ ﷺ کے اس ارشاد سے اس حدیث کے لیے استیناس کی جاسکتی ہے: ”بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا، لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا“: ترجمہ: اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے، جو ہم میں سے کسی ایک کے تھوک کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ہم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ ہمارے پروردگار کے حکم سے ہمارا مریض شفا یاب ہو جائے۔

اور یہ جو زبان زدِ عام ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفاء ہے۔ یہ روایت معنی کے اعتبار سے صحیح ہے؛ کیوں کہ دارِ قطنی رحمہ اللہ نے ”الْأَفْرَادِ“ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث تخریج کی ہے: ”تَوَاضُّعٌ فِيهِ يَشْفَى سَقِيمٌ“: یعنی مومن کے جھوٹے میں سے پی لیا کرے۔

(۵) حافظ عجلونی رحمہ اللہ کا کلام

حافظ عجلونی رحمہ اللہ نے ”کشف الخفاء“ لے میں حافظ سخاوی رحمہ اللہ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ کا کلام نقل کیا ہے۔

(۶) علامہ محمد امیر کبیر مالکی رحمہ اللہ کا کلام

علامہ محمد امیر کبیر مالکی رحمہ اللہ ”التَّحْفَةُ الْبَهِيَّةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَكْذُوبَةِ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ“ لے میں لکھتے ہیں:

”لم ير دلفظهُ“۔ اس کے الفاظ حدیث میں وارد نہیں ہیں۔

اہم نکتہ

سابقہ تحریر کے مطابق حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ نے ”سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ شَفَاءُ“ کے معنی کو صحیح قرار دیا ہے اور دلیل میں یہ روایت ”الْأَفْرَادُ لِلدَّارِ قُطْنِي“ کے حوالے سے پیش کی ہے: ”مِنَ التَّوَضُّعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُورَةِ أُخِيهِ“۔ ”تواضع میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے بھائی کا جھوٹا پی لیا کرے“۔

اسی طرح علامہ نجم الدین غزی رحمہ اللہ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کے معنی کو صحیح قرار دے کر دلیل میں یہی روایت ”الْأَفْرَادُ لِلدَّارِ قُطْنِي“ کے حوالے سے پیش کی ہے، البتہ واضح رہے کہ ”الْأَفْرَادُ لِلدَّارِ قُطْنِي“ کی سند میں ایک راوی ”نوح بن ابی مریم رحمہ اللہ“ ہے، جن کے بارے میں ذیل میں ائمہ کرام کے اقوال ”میزان الاعتدال“ لے سے نقل کیے جائیں گے۔

”قال نعيم: سئل ابن المبارك عنه، فقال: هو يقول لا إله إلا الله، وقال

لے كشف الخفاء: ۱/۳۳۶، رقم: ۱۴۰۵، ت: عبد الحميد هندواي، المكتبة العصرية۔ بيروت، الطبعة

۱۴۲۷ھ۔

لے التَّحْفَةُ الْبَهِيَّةُ: ۱/۶۴، رقم: ۱۳۷، المكتبة الإسلامية۔ بيروت۔

لے ميزان الاعتدال: ۳/۲۸۰، رقم: ۹۱۳۳، علي محمد البجاوي، دار المعرفة۔ بيروت۔

أحمد: لم يكن بذاك في الحديث، وكان شديدًا على الجهمة، وقال مسلم وغيره: متروك الحديث، وقال الحاكم: وَضَعَ أَبُو عَصَمَةَ حَدِيثَ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ الطَّوِيلِ - وقال البخاري: مُتَّكِرُ الْحَدِيثِ، وقال ابن عدي: عامة ما أوردت له لا يُتَابَعُ له، وهو مع ضَعْفِهِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ -

نعیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے نوح بن ابی مریم رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھا گیا: تو انہوں نے کہا کہ وہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتا ہے (جرح)، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں ”لَمْ يَكُنْ بِذَاكَ الْحَدِيثِ“ (کلمہ جرح) کہا ہے (نیز یہ بھی کہا کہ) وہ جہمیہ پر بہت سخت تھا، اور امام مسلم رحمہ اللہ وغیرہ نے نوح بن ابی مریم رحمہ اللہ کو ”متروک الحدیث“ (شدید جرح) کہا ہے۔ اور حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو عصمہ نے ”فضائل القرآن“ کی لمبی حدیث گھڑی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے نوح بن ابی مریم رحمہ اللہ کو ”متروک الحدیث“ (شدید جرح) کہا ہے، اور ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نوح بن ابی مریم رحمہ اللہ کی حدیثیں تخریج کی ہیں، ان میں سے اکثر کی متابعت نہیں کی گئی، اور باوجود ضعف کے نوح بن ابی مریم رحمہ اللہ کی حدیثیں لکھی جائیں گی۔

اور امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”تَرْكُهُ“۔ ۱

محدثین نے نوح کو ترک کیا ہے۔ (شدید جرح)

اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وَيَعْرِفُ بِالْجَامِعِ، لِيَجْمَعَهُ الْعُلُومُ، لَكِنْ كَذَّبُوهُ فِي الْحَدِيثِ، وَقَالَ

ابن المبارك: كَانَ يَضَعُ“۔ ۲

۱۔ الکاشف: ۲/۱۲، رقم: ۵۹۹۲، عزت علی عید عطیہ و موسی محمد علی الموشی، دار

الکتاب الحدیثیة القاهرة، الطبعة الأولى ۱۳۹۲ھ۔

۲۔ التقریب: ۵۶۷، رقم: ۷۲۱۰، محمد عزام، دار الرشید سندسوریا، الطبعة الرابعة ۱۴۱۸ھ۔

نوح بن ابی مریم ”جامع“ کے نام سے معروف تھے؛ کیوں کہ انہوں نے بہت سے علوم جمع کر کے رکھے تھے، لیکن حدیث میں محدثین نے ”نوح“ کو جھوٹا بتایا ہے، اور ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”نوح“ حدیثیں گھڑتا تھا۔
ائمہ رجال کے کلام کا خلاصہ

ان اقوال کے مطابق حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، حاکم نیساوری رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان تمام محدثین نے نوح بن ابی مریم رحمہ اللہ کے متعلق جرح کے شدید صیغے استعمال کیے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اور حاکم نیساوری رحمہ اللہ نے صاف کہا ہے کہ ”نوح احادیث گھڑتا تھا“، اس لیے زیر بحث روایت کے معنی کو اس روایت (جس میں نوح موجود ہے) کی بنا پر صحیح کہنا محل نظر ہے، البتہ واضح رہے کہ یہی روایت ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے جس میں نوح بن ابی مریم رحمہ اللہ نہیں ہے، اور سند کے دوسرے راوی بھی شدید جرح سے خالی ہیں، چنانچہ اس دوسری سند سے اس روایت کو بیان کیا جاسکتا ہے، اس سند کی تفصیلی تحقیق ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:

امام ابوبکر اسماعیلی (۲۷۷ھ-۳۷۱ھ) ”کتاب المعجم“ لہ میں لکھتے ہیں:
”أخبرني علي بن محمد بن حاتم أبو الحسن القومسي من حَدَّادَةَ،
بجُرَّجان، حدثنا جعفر بن محمد الحدَّاد القومسي، حدثنا إبراهيم
بن أحمد البلخي، حدثنا الحسن بن زُشَيْد المَرْوَزِي عن بن جُريج
عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: ”مِنْ التَّوَّاضِعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سَوْءِ أَخِيهِ، فَمَا شَرِبَ رَجُلٌ
مِنْ سَوْءِ أَخِيهِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً وَمُحِيطٌ عَنْهُ سَبْعُونَ خَطِيئَةً
وُزِفَتْ لَهُ سَبْعُونَ دَرَجَةً“۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: تواضع میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے بھائی کا جھوٹا پی لیا کرے، چنانچہ جو شخص اپنے بھائی کا جھوٹا پے گا، اس عمل پر اس کے لیے ستر نیکیاں لکھی جائیں گی، ستر گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ستر درجے بلند کئے جائیں گے۔

روایت پر کلام: ذیل میں سند میں موجود مختلف راویوں پر کلام نقل کیا جائے گا، تاکہ حدیث کا مقام سمجھنے میں آسانی ہو:

(۱) الحسن بن زشید

حافظ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”عن ابن جریج، وعنه ثلاثة أنفس، فيه لئین، وقال أبو حاتم:

”مجهول“۔^۱

حسن، ابن جریج سے احادیث نقل کرتا ہے، اور اس سے تین شخصوں نے روایت نقل کی ہے [یہ ایک اصطلاح کی طرف اشارہ ہے]، اور ابو حاتم رحمہ اللہ نے حسن کو مجہول کہا ہے۔

(۲) إبراہیم بن أحمد البلخي

حافظ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وكان ثقةً صاحب حديث“۔^۲

اور موصوف ثقہ، محدث ہے۔

(۳) جعفر بن محمد القومسي

ان کا ترجمہ نہیں ملا۔

(۴) علي بن محمد بن حاتم

^۱ میزان الاعتدال: ۱/۳۹۰، رقم: ۱۸۳۶، ت: علی محمد البجاوی، دار المعرفة، بیروت۔

^۲ العیون فی خبر من غیر: ۲/۱۴۵، ت: زغلول، دار الکتب العلمیہ، بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۰۵ھ

موصوف کا ترجمہ حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ”تاریخ بغداد“ لے میں بلا تعدیل و جرح ذکر کیا ہے، اور حافظ ابو بکر اسماعیلی رحمہ اللہ نے ”تاریخ جرجان“ لے میں موصوف کو ”صدوق“ کہا ہے۔

خلاصہ

اب تک ”نکتہ“ کے عنوان سے جو تحقیق لکھی گئی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ علامہ نجم الدین غزی رحمہ اللہ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے زیر بحث روایت کے معنی کو صحیح قرار دیا ہے، اور بطور دلیل اس روایت ”تواضع میں سے یہ بھی ہے۔۔۔۔۔۔“ کو ”الأفراد للذَّارِ قُطْنِي“ کے حوالے سے پیش کیا ہے، روایت کی اس سند میں ”نوح بن ابی مریم رحمہ اللہ“ ہے، جن کے بارے میں ائمہ حدیث نے جرح کے شدید الفاظ استعمال کیے ہیں؛ چنانچہ اس روایت ”تواضع میں سے یہ بھی ہے۔۔۔۔۔۔“ کو ”الأفراد للذَّارِ قُطْنِي“ کی سند سے بیان کرنا فنی حیثیت سے محل نظر ہے، البتہ یہی روایت ”امام ابو بکر اسماعیلی رحمہ اللہ“ کی سند سے بیان کرنا درست ہے، کیوں کہ یہ سند فنی اعتبار سے ضعف شدید سے خالی ہے، واللہ اعلم۔

آمد بر سر مطلب

اب پھر ہم اپنی زیر بحث روایتوں ”سؤر المؤمن شفاء“ اور ”ریق المؤمن شفاء“ کی طرف آتے ہیں۔ حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین عظام کے کلام سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ”سؤر المؤمن شفاء“ (مومن کے جھوٹے میں شفا ہے) اور ”ریق المؤمن شفاء“ (مومن کے تھوک میں شفا ہے) کے الفاظ کسی

لے تاریخ بغداد: ۱۳/۵۳۲، رقم: ۶۳۱۳، ت: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي۔


بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۲ھ۔

لے تاریخ جرجان: ۱/۳۰۱، رقم: ۵۱۸، ت: محمد عبد المعید خان، عالم الکتاب بیروت۔

مرفوع روایت (آپ ﷺ کا قول) سے ثابت نہیں ہیں، دوبارہ ملاحظہ ہوں:
 ”لیس بحديث“ یہ حدیث نہیں ہے۔ (علامہ نجم الدین الغزی رحمہ اللہ)
 ”لیس له أصل مرفوع“۔ اس کی اصل مرفوع روایت نہیں ہے۔ (ملا علی قاری رحمہ اللہ)

”لیس بحديث“ یہ حدیث نہیں ہے (حافظ عجلونی رحمہ اللہ) واضح رہے کہ یہ الفاظ حافظ عجلونی رحمہ اللہ نے ”المقاصد الحسنہ“ کی عبارت نقل کرتے ہوئے ذکر کیے ہیں، البتہ مجھے ”المقاصد الحسنہ“ میں ”لیس بحديث“ کے الفاظ نہیں مل سکے۔
 ”لم يرد لفظه“۔ اس کے الفاظ حدیث میں وارد نہیں ہیں (علامہ محمد امیر کبیر مالکی رحمہ اللہ)۔

حاصل یہ ہے کہ یہ روایت ان دونوں الفاظ (مؤمن کے جھوٹے میں شفا ہے اور مؤمن کے تھوک میں شفا ہے) کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ ﷺ کی طرف انہیں منسوب کر کے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔



روایت نمبر: (۲۶)

(۳) ”لما نادى إبراهيم بالحج لى الخلق، فمن لى تلبية واحدة حج واحدة ومن لى مرتين حج مرتين ومن زاد في حساب ذلك“۔

”جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے پکارا، اس کے جواب میں لوگوں نے تلبیہ کہا، چنانچہ جس نے ایک مرتبہ تلبیہ کہا، تو وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے دو مرتبہ تلبیہ کہا، وہ دو مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے دو سے زائد مرتبہ تلبیہ کہا، وہ اسی حساب سے حج کرے گا“۔

واضح رہے کہ یہ روایت مرفوعاً (آپ ﷺ کا قول)، مقوفاً (صحابی کا قول) اور مقطوعاً (تابعی کا قول) تینوں طرح مروی ہے، آئندہ تحقیق میں تینوں کو علیحدہ علیحدہ لکھا جائے گا۔

روایت کی تحقیق چھ بنیادی اجزا پر مشتمل ہے:

- ۱۔ مرفوع طریق اور اس کا مصدرِ اصلی
- ۲۔ روایت پر آئمہ حدیث کا کلام اور اس کا خلاصہ
- ۳۔ متکلم فی راوی کے بارے کلام
- ۴۔ مرفوع طریق کا خلاصہ اور اس کا فنی حکم
- ۵۔ روایت کے موقوف طرق
- ۶۔ تحقیق کا خلاصہ

مرفوع طریق (آپ ﷺ کا قول)

روایت کا مصدرِ اصلی

علامہ سیوطی رحمہ اللہ ”الدر المنثور“ لہ میں لکھتے ہیں:

”وأخرج الديلمي بسند واه عن علي بن أبي طالب رفعه: لما نادى إبراهيم بالحج لبي الخلق فَمَنْ لَبَّى تلبية واحدة وحج واحدة وَمَنْ لَبَّى مرتين حج حجتين وَمَنْ زاد فحساب ذلك“۔

دیلیمی رحمہ اللہ نے ایک ”واہی“ سند کے ساتھ حضرت علی رحمہ اللہ سے مرفوعاً (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) تخریج کیا ہے:

جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے پکارا، اس پر لوگوں نے جواب میں لبیک کہا، چنانچہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا، وہ ایک حج کرے گا، اور جس نے دو مرتبہ لبیک کہا، وہ دو مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے دو سے زائد مرتبہ لبیک کہا، وہ اسی حساب سے حج کرے گا۔

روایت پر کلام

(۱) حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا کلام

علامہ سیوطی رحمہ اللہ ”الدر المنثور“ لے میں لکھتے ہیں:

”وأخرج الديلمي بسند واه عن رفعه: لما نادى إبراهيم بالحج لبي الخلق فَمَنْ لَبَّى تلبية واحدة وحج واحدة وَمَنْ لَبَّى مرتين حج حجتين وَمَنْ زاد فحساب ذلك“۔

دیلیمی رحمہ اللہ نے ایک ”واہی“ سند کے ساتھ حضرت علی رحمہ اللہ سے مرفوعاً (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) تخریج کیا ہے:

جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج بیت اللہ کیلئے پکارا، اس پر لوگوں نے جواب میں لبیک کہا، چنانچہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا، وہ ایک حج کرے گا، اور جس نے دو دفعہ لبیک کہا، وہ دو مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے دو سے زائد تلبیہ کہی، وہ اسی کے

حساب سے حج کرے گا۔

(۲) حافظ ابن عراق کنانی رحمہ اللہ کا کلام

علامہ ابن عراق رحمہ اللہ ”تنزیہ الشریعة“ ۱ء میں لکھتے ہیں:

”(ابن الأشعث) في شئنه التي وضعها على آل البيت من حديث علي“۔

ابن الأشعث نے حضرت علی رحمہ اللہ کی اس روایت کو اپنی اس ”سنن“ میں تخریج کیا ہے، جسے ابن الأشعث نے آل بیت پر گھڑ رکھا ہے۔

(۳) حافظ محمد بن علی شوکانی رحمہ اللہ کا کلام

علامہ شوکانی رحمہ اللہ ”الفوائد المجموعة“ ۲ء میں لکھتے ہیں:

”قال في الذيل: هو من نسخة ”محمد بن الأشعث“ التي عامتها مناكير“۔

علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ذیل میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث محمد ابن اشعث کے اس نسخے میں ہے، جس میں اکثر مناکیر ہیں۔

(۴) علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ کا کلام

علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ نے بھی ”تذکرۃ الموضوعات“ ۳ء میں امام سیوطی رحمہ اللہ کے کلام پر اکتفا کیا ہے۔

ائمہ حدیث کے کلام کا خلاصہ

گذشتہ نصوص سے یہ بات پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہے کہ یہ روایت نسخہ ”محمد بن

۱ء تنزیہ الشریعة: کتاب الحج، الفصل الثالث، ۱۷۶/۲، رقم: ۲۷؛ عبد الوہاب عبد اللطیف و عبد اللہ محمد الصدیق، دار الکتب العلمیہ بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۰۱ھ۔

۲ء الفوائد المجموعة: کتاب الحج، ۱۰۹، رقم: ۱۶، عبد الرحمن بن یحیی، الطبعة ۱۴۱۶ھ۔

۳ء تذکرۃ الموضوعات: فضائل الحج والطواف، ص: ۷۳، کتب خانہ مجیدہ ملتان، پاکستان۔

الاشعث“ سے ماخوذ ہے، اور اس روایت کی سند میں ”ابن الاشعث“ متہم راوی ہے، بلکہ حافظ ابن عراق رحمہ اللہ نے صاف لفظوں میں اس روایت کو من گھڑت کہا ہے، ایسے ہی حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے اسے ”وائی“ قرار دیا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے اس روایت کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، اب یہاں ذیل میں ”محمد بن محمد بن الاشعث“ نیز ان کے نسخہ کے بارے میں ائمہ حدیث کی تصریحات نقل کی جائیں گی، جس سے اس مرفوع روایت کا ساقط ہونا اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔

محمد بن اشعث کے بارے میں ائمہ کرام کے اقوال

(۱) حافظ ابوالاحمد بن عدی رحمہ اللہ کا کلام

حافظ ابوالاحمد ابن عدی رحمہ اللہ ”الکامل فی الضعفاء“ لہ میں لکھتے ہیں:

”کتبت عنہ بہا [بمصر] حملہ شدہ مثیلہ الی التشیع أن أخرج إلینا نسخه قریباً من ألف حدیث عن موسی بن إسماعیل بن موسی بن جعفر بن محمد عن أبیه عن جدہ الی أن ینتہی الی علی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب یخرجه إلینا بخط طری علی کاغذ جدید فیہا مقاطیع وعامتہا مسندة، مناکیر کلہا أو عامتہا، فذکرنا روایتہ ہذہ الأحادیث عن موسی هذا لأبی عبد اللہ الحسین بن علی بن الحسن بن علی بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن أبي طالب وکان شیخاً من أهل البيت بمصر وهو أخ الناصر وکان أكبر منه، فقال لنا: موسی هذا جاری بالمدينة أربعین سنة ما ذکر قط أن عنده شیئاً من الروایة لآعن أبیه ولا عن غیره“۔

میں نے مصر میں ”محمد بن اشعث“ سے روایتیں لکھی تھیں، تشیع کی طرف

ان کے شدید میلان نے ان کو اس بات پر ابھارا کہ ہمارے سامنے ایک ہزار احادیث پر مشتمل ایک نسخہ نکالا، جس کی حدیثیں اس سند سے تھیں:

موسیٰ بن إسماعیل بن موسیٰ بن جعفر بن محمد عن أبیه عن جدّه
إلی ان ینتہی إلی علی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

(یعنی سند میں موجود موسیٰ اپنی سند سے بواسطہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایات نقل کی تھیں) ”محمد بن أشعث“ ہمارے سامنے ایک کتاب لائے، اس کتاب میں موجود نئے کاغذ پر تازہ خط سے لکھا گیا تھا، اس نسخے کی اکثر حدیثیں مسند تھیں، جو سب کی سب یا اکثر مناکیر تھیں، ہم نے ابو عبد اللہ حسین بن علی سے تذکرہ کیا کہ یہ احادیث ”محمد بن أشعث“ نے ”موسیٰ“ سے نقل کی ہے، یہ ”ابو عبد اللہ“ مصر میں اہل بیت کے شیخ تھے، جو ابو عبد اللہ ناصر کے بھائی، اور عمر میں ان سے بڑے تھے، ابو عبد اللہ حسین بن علی نے ہمیں بتایا کہ یہ ”موسیٰ“ (یعنی جن سے ”محمد بن أشعث“ نے یہ احادیث نقل کی ہے) چالیس برس تک مدینہ آتے رہے ہیں، اس نے تو کبھی بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ اس کے پاس ایسی کوئی روایتیں ہیں، نہ اپنے والد سے نقل کی اور نہ ہی کسی اور سے۔

اس کے بعد حافظ ابن عدی رحمہ اللہ نے ”ابن الأشعث“ کی روایات تخریج کی،

پھر لکھتے ہیں:

”وهذه النسخة كتبها عنه وهي قرينة من ألف حديث وكتبت عامتها عنه وهذه الأحاديث وغيرها من المناكير في هذه النسخة وفيها أخبار مما يوافق متونها متون أهل الصدق وكان منهم ما في هذه النسخة ولم أجد له فيها أصلاً كان يخرج إلينا بخط طبري وكاغذ جديد“۔

میں نے ”محمد بن أشعث“ کا یہ نسخہ ان سے لکھ لیا تھا، اور وہ تقریباً ایک ہزار

حدیثوں پر مشتمل تھا، میں نے اس نسخے کی اکثر روایتیں ”محمد بن اشعث“ سے لکھی تھیں، اور یہ حدیثیں (جو ابن عدی رحمہ اللہ نے ماقبل میں ذکر کی ہیں) اور اس کے علاوہ منا کیر اس نسخے میں موجود ہیں، اور اس نسخے میں ایسے متون بھی ہیں، جو ”اہل صدق“ کے متون کے موافق ہیں، اور اس نسخے میں ”محمد ابن اشعث“ متہم ہے، اور اس نسخے کی اصل مجھے نہیں ملی، جسے ”ابن الاشعث“ نئے کاغذ اور تازہ خط کے ساتھ ہمارے پاس لایا تھا۔

(۲) حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا کلام

حافظ ذہبی رحمہ اللہ، حافظ ابن عدی رحمہ اللہ کا کلام اختصاراً نقل کر کے لکھتے ہیں:

”قال السَّهْمِيُّ: سَأَلْتُ الدَّارَ قُطْنِي عَنْهُ، فَقَالَ: آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَضَعُ ذَاكَ الْكِتَابَ، يَعْنِي الْعُلُويَّاتَ“۔^۱

سہمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دار قطنی رحمہ اللہ سے ”محمد بن اشعث“ کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ”ابن اشعث“، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے (جرح)، جس نے اس کتاب کو گھڑا ہے، یعنی ”عُلُويَّات“ (حضرت علی رحمہ اللہ کی طرف منسوب روایتیں)۔

(۳) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کلام

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ”لسان الميزان“^۲ میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا کلام نقل کر کے لکھتے ہیں:

”وقد وقفْتُ على بعض الكتاب المذكور، وسمَّاهُ ”السنن“ ورتبته على الأبواب، وكلَّه بسند واحد، وأورد الدار قطني في ”غرائب مالک“ من روايته عن محمد بن سعدان البزار، عن القعبي حديثاً، وقال: كان ضعيفاً“۔

^۱ ميزان الاعتدال: ۲۸/۳، ت: علي محمد البحاري، دار المعرفة بيروت۔

^۲ لسان الميزان: ۴/۴۶، رقم: ۴۳۵۷، ت: شيخ عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، الطبعة

مجھے اس کتاب کے بعض حصے پر واقفیت ہوئی ہے، اور محمد بن اشعث نے اس کا نام ”سنن“ رکھا تھا، جسے اس نے ابواب پر مرتب کیا تھا، اور تمام حدیثیں ایک ہی سند سے تھیں، اور دارقطنی رحمہ اللہ نے ”غرائب مالک“ میں اس کی ایک روایت نقل کی ہے، جو اس نے محمد بن سعدان، اور محمد بن سعدان نے قعقنی سے نقل کی تھی، اور دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ”ابن اشعث“ ضعیف ہے۔

مرفوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول (طریق کا خلاصہ اور فنی حکم

ائمہ حدیث کی تصریحات سے آپ بخوبی جان چکے ہیں کہ اس مرفوع روایت میں ”محمد بن اشعث“ متہم ہے، اور ”محمد بن اشعث“ نے یہ روایت مرفوعاً بیان کی ہے، اس مرفوع روایت نیز ”محمد بن اشعث“ کے بارے میں ائمہ کرام کے کلام کا بے غبار نتیجہ یہی ہے کہ یہ روایت کسی بھی معتبر مرفوع سند (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) سے ثابت نہیں، لہذا یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے، البتہ یہ واضح رہے کہ اس مضمون کی موقوف روایات (اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم) اور اقوال تابعین موجود ہیں۔

روایت کا موقوف طریق

ابن جریر طبری رحمہ اللہ ”جامع البیان“ لے میں لکھتے ہیں:

”حدثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوله ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ قال: قام إبراهيم خليل الله على الحجر، فنادى: يا أيها الناس! كتب عليكم الحج، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه من آمن ممن سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة: لبیک اللہم لبیک۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ”ابراہیم خلیل اللہ“ نے ”مقام ابراہیم“ پر کھڑے ہو کر یہ ندا لگائی: اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ان تک بھی پہنچادی، جو مردوں کی پشت اور عورتوں کے رحم میں تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے علم (أزلی) کے مطابق جن لوگوں کے لیے تاقیامت حج کرنا مقدر تھا، انہوں نے اس پکار کا یہ جواب دیا: میرے اللہ! میں حاضر ہوں۔

قول تابعی

حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی مضمون مروی ہے، ”جامع البیان“ لہ میں ہے: ”حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، في قوله ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾، قال: قام إبراهيم على مقامه، فقال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَجِيبُوا رَبَّكُمْ، فقالوا: لبيك اللهم لبيك، فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم يومئذ“۔

حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم عليه السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہو گئے اور ندا لگائی: اے لوگو! اپنے رب کی پکار کا جواب دو۔ اس پر لوگوں نے لبيك کہا، چنانچہ آج جو لوگ حج کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، جنہوں نے اس وقت ابراہیم عليه السلام کی پکار کا جواب دیا تھا۔

تحقیق کا خلاصہ اور روایت کا فنی حکم

کلام کا حاصل یہ ہے کہ اس روایت کو مرفوعاً (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) بیان کرنا درست نہیں، البتہ مذکورہ موقوف روایت (ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول) اور قول تابعی (حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ کا قول) جو اسی مضمون پر مشتمل ہے، اسے بیان کرنا درست ہے۔

روایت نمبر: (۲۷)

(۴) ”بندوں کی اطاعت پر بادشاہوں کا نیک ہونا، اور نافرمانی پر بادشاہوں کا ظالم بن جانا“۔

روایت کی تحقیق چار اجزا پر مشتمل ہے:

۱- مصدرِ اصلی سے روایت کی تخریج

۲- روایت پر ائمہ حدیث کا کلام

۳- متکلم فیہ راوی کے بارے میں کلام

۴- ایک اہم نکتہ اور تحقیق کا نتیجہ

مصدرِ اصلی سے روایت کی تخریج

امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ”المعجم الأوسط“ لہ میں لکھتے ہیں:

”حدثنا مقدم، ثنا علي بن معبد الرقي، ثنا وهب بن راشد، ثنا مالك بن دينار، عن خِلاس بن عمرو، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِي وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي، حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالشَّحْطَةِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فَلَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْدَعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، وَلَكِنْ اشْتَغَلُوا بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيَّ، أَلْفِكُمْ مَلُوكَكُمْ“۔

”حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں، میں بادشاہ ہوں کا مالک، اور شہنشاہ ہوں، بادشاہ ہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، تو میں ان کے بادشاہوں کے دل شفقت و رحمت سے بھر دیتا ہوں، اور بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں، تو میں بادشاہوں کے قلوب میں ان کے لیے ناراضگی اور انتقام ڈال دیتا ہوں، چنانچہ وہ بادشاہ ان کو بری اذیتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، (اس وقت) تم بادشاہوں کو بد عادیئے میں اپنے آپ کو مشغول نہ کر دینا، بلکہ اللہ کی یاد اور عاجزی میں مشغول ہونا، میں تمہارے بادشاہوں سے تمہاری کفایت کر دوں گا۔“

حافظ ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”حلیۃ الاولیاء“ لے میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے مذکورہ سند کے مطابق روایت تخریج کی ہے۔ اسی طرح یہ روایت اسی سند سے ”المجروحین لابن حبان“ لے میں بھی ہے، اور تینوں سندیں ”علی بن معبد“ پر آکر مشترک ہو جاتی ہیں

روایت پر کلام

(۱) امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام

حافظ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ”العلل الواردة“ لے میں لکھتے ہیں:

”یرويه وهب بن راشد عن مالك بن دينار عن خلاس بن عمرو عن أبي الدرداء رضي الله عنه - ووهب بن راشد هذا ضعيف جداً متروك، ولا يصح هذا الحديث مرفوعاً - ورواه جعفر بن سليمان، عن مالك بن دينار أنه قرأ في بعض الكتب هذا الكلام، وهو أشبه بالصواب۔“

لے حلیۃ الاولیاء: ۳۸۸/۲، دار الکتب العلمیۃ۔ بیروت، الطبعة ۱۴۰۹ھ۔

لے المجروحین لابن حبان: ۶۱/۳، وهب بن راشد: محمود ابراہیم زاید، دار المعرفۃ بیروت۔
لے العلل الواردة فی الأحادیث النبویۃ: ۲۰۶، رقم: ۱۰۷۴، ت: محفوظ الرحمن زین اللہ، دار طیبۃ۔
ریاض، الطبعة ۱۴۰۵ھ۔

یہ حدیث وہب بن راشد نے مالک بن دینار رحمہ اللہ سے، انہوں نے خلاص سے، اور خلاص نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اور وہب بن راشد ”ضعیف جداً“ (شدید جرح)، ”متروک“ (شدید جرح) راوی ہے، اور یہ حدیث مرفوعاً (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) صحیح نہیں ہے۔ اور جعفر بن سلیمان نے مالک بن دینار رحمہ اللہ سے (اس روایت کو یوں) نقل کیا ہے کہ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے بعض کتب میں یہ کلام پڑھا تھا، اور یہی ”أشبه بالصواب“ ہے۔

امام دارقطنی رحمہ اللہ کے کلام کی وضاحت

امام دارقطنی رحمہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ روایت مالک بن دینار رحمہ اللہ سے دو افراد نے نقل کی ہے، یعنی وہب بن راشد رحمہ اللہ اور جعفر بن سلیمان رحمہ اللہ۔ وہب بن راشد نے یہ روایت مالک بن دینار رحمہ اللہ سے مرفوعاً (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) نقل کی ہے، حالاں کہ اس روایت کو مرفوعاً نقل کرنا صحیح نہیں ہے، اور جعفر بن سلیمان رحمہ اللہ نے یہ روایت مالک بن دینار رحمہ اللہ سے مرفوعاً نقل نہیں کی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ روایت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے ”بعض کتب“ سے نقل کی ہے، اور قرین قیاس یہی ہے کہ یہ روایت مرفوع نہیں ہے، بلکہ ”بعض کتب“ سے مروی ہے۔

یہاں ”بعض کتب“ سے مراد ”کتب سماویہ“ ہے، جیسا کہ عنقریب اس کی وضاحت آنے والی ہے۔

(۲) حافظ نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ کا کلام

حافظ ہیثمی رحمہ اللہ ”مجمع الزوائد“ لے میں لکھتے ہیں:

”رواہ الطبرانی وفیہ وہب بن راشد وہو متروک“۔

اسے طبرانی رحمہ اللہ نے تخریج کیا ہے، اور اس میں وہب بن راشد ہے، اور وہ

”متروک“ (شدید جرح) راوی ہے۔

(۳) حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ کا کلام

آپ لکھتے ہیں:

”غریب من حدیث مالک مرفوعاً تفرد به علی بن معبد عن وهب بن راشد“۔

مالک بن دینار رحمہ اللہ سے منقول یہ مرفوع روایت (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) غریب ہے، اس روایت کو ”وہب بن راشد رحمہ اللہ“ سے نقل کرنے میں ”علی بن معبد رحمہ اللہ“ مفرد ہے۔

(۴) حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ کا کلام

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ”العِلَلُ الْمُتَنَاهِيَةُ“ کے میں حافظ دارقطنی رحمہ اللہ کے کلام پر اعتماد کیا ہے۔

محدثین کرام کے کلام کا خلاصہ

حافظ دارقطنی رحمہ اللہ، امام بیہقی رحمہ اللہ، اور حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے سند میں موجود وہب بن راشد کو ”متروک“ کہا ہے، اور حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق وہب اس مرفوع (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) روایت کو مالک بن دینار رحمہ اللہ سے نقل کرنے میں تنہا ہے، اور حافظ دارقطنی رحمہ اللہ نے صاف لکھا ہے کہ وہب بن راشد رحمہ اللہ کا اس روایت کو مرفوعاً (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) نقل کرنا درست نہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ یہ روایت ”اسرائیلیات“ میں سے ہے، اور یہی اس تحقیق کا حاصل ہے کہ یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ”اسرائیلی روایت“ ہے؛ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے اسے بیان کرنا درست نہیں ہے، صرف اسرائیلی روایت کہہ کر ہی

بیان کر سکتے ہیں، بہر حال سابقہ تفصیل کے مطابق محدثین کرام کے نزدیک ”وہب بن راشد رضی اللہ عنہ“ اس روایت میں مدارِ علت ہے، ذیل میں ”وہب بن راشد رضی اللہ عنہ“ کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال پیش کیے جائیں گے، تاکہ حدیث کا فنی حکم مزید واضح ہو جائے۔

وہب بن راشد رقی کے بارے میں ائمہ کے اقوال

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ”میزان الاعتدال“ لے میں لکھتے ہیں:

”قال ابن عدي رحمۃ اللہ علیہ: ليس حديثه بالمستقيم، أحاديثه كلها فيها نظر، وقال الدار قطني رحمۃ اللہ علیہ: متروك، وقال ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ: لا يحل الاحتجاج به بحال۔“

ابن عدي رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ”وہب“ کی احادیث مستقیم نہیں ہیں (جرح)، ان کی تمام روایات میں نظر ہے، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ”وہب“ کو متروک (شدید جرح) کہا ہے، اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہر صورت وہب کی احادیث سے احتجاج درست نہیں ہے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ”لسان المیزان“ میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نقل کر کے کہتے ہیں:

”وسئل عنه أبو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فقال: منكر الحديث، حدث بأحاديث باطيل وقال العقيلي رحمۃ اللہ علیہ: منكر الحديث۔۔۔۔۔“


”ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے وہب کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے کہا کہ وہ منکر الحدیث ہے، باطل روایتیں بیان کرتا ہے، اور عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہب کو ”منکر الحدیث“ (جرح) کہا ہے۔۔۔۔۔“

اہم تکتہ اور تحقیق کا نتیجہ:

واضح رہے کہ حافظ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت فرمائی تھی کہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہ روایت مرفوع نہیں ہے، بلکہ ”بعض کتب“ سے مروی ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے قول مذکور کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ یہی روایت ”المصنف لابن أبي شيبة“ میں مالک بن مغول سے زبور داؤد عليه السلام کے حوالے سے منقول ہے، روایت یہ ہے:

”حدثنا عبد الله بن نمير، عن مالك بن مغول، قال: كان في زبور داؤد مكتوباً: إني أنا الله لا إله إلا أنا، مالک الملوک، قلوب الملوک بيدى، فأیما قوم كانوا على طاعة، جعلت الملوک عليهم رحمة، وأیما قوم كانوا على معصية، جعلت الملوک عليهم نعمة، لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوک، ولا تشوبوا اليهم، ثوبوا إلي، أعطى قلوبهم عليكم“۔

تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ حافظ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق یہ روایت اسرائیلیات میں سے ہے، لہذا اسے مرفوعاً یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے، البتہ اسرائیلی روایت کہہ کر بیان کر سکتے ہیں، واللہ اعلم۔



روایت نمبر: (۲۸)

افراط و تفریط ہر چیز میں معیوب سمجھی جاتی ہے، بعض اوقات ایک مضمون معتبر سند سے ثابت ہوتا ہے، لیکن اس میں رفتہ رفتہ زائد غیر متعلقہ مضمون زبان زدِ عام ہو جاتا ہے، جس سے نہ صرف حقیقی مضمون مسخ ہو جاتا ہے، بلکہ بواسطہ معتبر سند، من گھڑت روایت پھیل جاتی ہے، ذیل میں ایک ایسی ہی روایت پیش کی جائی گی جس کے مضامین ایک حد تک ثابت ہیں اور بعض اقتباسات ثابت نہیں ہیں؛ اس لئے ان غیر ثابت شدہ مضامین کا انتساب حضورِ اقدس ﷺ کی جانب درست نہیں ہے۔

عنوانِ روایت:

عورتوں کے لئے حالتِ حمل، وضعِ حمل، رضاعت وغیرہ پر مشتمل روایت درج ذیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نسبت سے بیان کی جاتی ہیں:

۱- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ (۲ طریق)

۲- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳- حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

۴- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۵- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ

ہر طریق کو مستقل طور پر بیان کیا جائے گا۔

۱۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

امام طبرانی رحمہ اللہ ”المعجم الأوسط“ لہ میں لکھتے ہیں:

”حدثنا محمد بن أبي زرة، ثنا هشام بن عمار، حدثني أبي عمار ابن نصير، عن عمرو بن سعيد الخولاني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن سَلَامَةَ حاضنة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله! تبشّر الرجال بكل خير ولا تبشّر النساء؟ قال: ”أصحابك دَسَسْنَكَ لهذا؟ قالت: أجل، هُنَّ امرئني، قال: أفما ترضى إحداكنَ أنها إذا كانت حاملاً من زوجها وهو عنها راضٍ أن لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل الله- فإذا أصابها الطلق لم يعلم أهل السماء وأهل الأرض ما أخفي لها من قوة أعين، فإذا وضعت لم يخرج منها جُرْعَةٌ من لبنها، ولم يُمَضْ مَضَّةٌ، إلا كان لها بكل جُرْعَةٍ وبكل مَضَّةٍ حسنة، فإن أسهرها ليلة كان مثل أجر سبعين رقبة تُعْتَقْنَ في سبيل الله- سلامة! تدري لمن أعني بهذا؟ للمتتبعات، الصالحات، المُطِيعات لأزواجهن، اللواتي لا يكفُرْنَ العشير-“

لا يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، تفرد به هشام بن عمار-“

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کے صاحبزادے، حضرت ابراہیم کی دایہ ”سلامہ“، حضور انور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگیں، یا رسول اللہ! آپ مردوں کو ہر بھلی بات کی خوشخبری سناتے ہیں، اور عورتوں کو بشارت نہیں سناتے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”تمہاری سہیلیوں نے تمہیں یہ سوال پوچھنے کے لیے اصرار کیا ہوگا؟“، وہ کہنے لگیں، جی ہاں! سہیلیوں نے مجھے کہا تھا، اس پر

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”کیا تم یہ پسند نہیں کرتیں کہ جب کوئی عورت اپنے خاوند کی اولاد سے حاملہ ہو، اور اس کا خاوند بھی اس سے خوش ہو، اس عمل پر اس عورت کو اللہ کی راہ میں نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے، جب اسے دردِ ولادت ہوتا ہے تو آسمان اور زمین کے رہنے والے نہیں جانتے کہ اس عورت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے (اور وہ دودھ پینے لگتا ہے) تو عورت کے دودھ کے ہر گھونٹ اور بچے کے ہر چوسنے کے عوض اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر بچہ ماں کو رات بھر جگائے رکھے، تو اسے اللہ کی راہ میں ستر غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اے سلامہ! تمہیں معلوم بھی ہے کہ میری مراد کون سی عورتیں ہیں؟ یہ (بشارتیں) ان عورتوں کے لیے ہیں جو نیک، اپنے خاوند کی تابعدار اور ان کی ناشکری کرنے والی نہ ہوں۔“

(امام طبرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں) یہ روایت آپ ﷺ سے اسی سند سے مروی ہے، ہشام بن عمار رحمہ اللہ سے نقل کرنے میں متفرد ہے، انتہی۔

یہ روایت ”معرفة الصحابة لأبي نعيم“ لے اور ”تاریخ دمشق“ ۳ء میں بھی تخریج کی گئی ہے، تینوں سندیں ہشام بن عمار رحمہ اللہ پر مشترک ہو جاتی ہیں۔

روایت پر ائمہ کا کلام

۱- حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ ”کتاب الموضوعات“ ۳ء میں لکھتے ہیں:

”قال أبو حاتم بن حبان: عمرو بن سعيد الذي يروي هذا الحديث

لہ معرفة الصحابة: سلامة حاضنة إبراهيم، ۱/ ۳۳۵۸، رقم: ۷۸۶، ت: عادل بن يوسف، دار الوطن۔ الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۱۹ھ۔

۳ء تاریخ دمشق: عمار بن نصير بن مسرة، ۳۳/ ۳۳۷، ت: محب الدين أبو سعيد، دار الفكر۔ بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۷ھ۔

۳ء کتاب الموضوعات: ۲/ ۲۷۷، عبدالرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية۔ المدينة المنورة، الطبعة الأولى ۱۳۸۶ھ۔

الموضوع عن أنس لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة الاختبار للخواص۔

ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن سعید رحمہ اللہ نے یہ من گھڑت روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اس حدیث کو صرف خواص کے امتحان کے لیے لکھنا جائز ہے۔

۲- حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ”تلخیص الموضوعات“ ۱ء میں علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی موافقت کی ہے، اسی طرح علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی ”اللائلی المصنوعة“ ۲ء میں اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ ”الفوائد المجموعة“ ۳ء میں یہ حدیث نقل کر کے ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔

۳- علامہ ابن عراق رحمہ اللہ ”تنزیہ الشریعة“ ۴ء میں رقمطراز ہیں: ”(طب) فی الأوسط (الحسن بن سفیان) فی سندہ وفیہ عمرو بن سعید الخولانی (قلت) سلامة هذه لم أر ذكر أفي الصحابييات من الإصابة والله تعالى أعلم۔“

یہ روایت طبرانی رحمہ اللہ نے ”أوسط“ میں، اور حسن بن سفیان رحمہ اللہ نے اپنی ”مسند“ میں تخریج کی ہے، اور اس کی سند میں عمرو بن سعید الخولانی ہے، میں (ابن عراق رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ (سند میں مذکور راویہ) سلامہ کا نام میں نے اصابتہ میں مذکور صحابیات کے ناموں میں نہیں دیکھا، واللہ اعلم۔ ۵

۱۔ التلخیص: ۲۳۴، رقم: ۵۹۹، ت: عبد الرحمن محمد عثمان، المکتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة ۱۳۸۶ھ۔

۲۔ اللالی المصنوعة: ۱۳۸/۲، ت: محمد عبد المنعم رابع، دار الکتب العلمیة۔ بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۲۸ھ۔
۳۔ الفوائد المجموعة: کتاب النکاح، ۱۳۳، رقم: ۳۵، ت: عبد الرحمن بن یحییٰ، دار الکتب العلمیة۔ بیروت، الطبعة ۱۴۱۶ھ۔

۴۔ تنزیہ الشریعة: کتاب النکاح، الفصل الأول ۲/۲۰۴، رقم: ۲۱، ت: عبد الوہاب عبد اللطیف و عبد اللہ محمد الصدیق، دار الکتب العلمیة۔ بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۰۱ھ۔

۵۔ واضح رہے کہ ”اسد الغابة“ اور ”معرفة الصحابة“ میں سلامہ کے نام سے ترجمہ موجود ہے۔

۴۔ حافظ یثیمی رحمہ اللہ ”مجمع الزوائد“ لے میں لکھتے ہیں: ”رواہ الطبرانی فی الأوسط، وفیہ عمار بن نصیر، وثقہ ابن حبان وصالح جزرة، وضعفہ ابن معین وغیرہ، وبقیۃ رجالہ ثقات۔“

طبرانی رحمہ اللہ نے اوسط میں اس کی تخریج کی ہے، اور اس میں عمار بن نصیر ہے، ابن حبان رحمہ اللہ اور صالح جزرة رحمہ اللہ نے عمار کو ثقہ کہا ہے، اور ابن معین رحمہ اللہ وغیرہ نے تضعیف کی ہے، اور سند کے دیگر راوی ثقہ ہیں۔

محدثین کرام رحمہم اللہ نے عمرو بن سعید بلخی کی وجہ سے حدیث پر شدید کلام کیا ہے، حدیث کا مقام سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ حسن بن محمد بلخی کے بارے میں ائمہ حدیث کے اقوال تفصیل سے لکھا جائے۔

عمرو بن سعید الخولانی کے بارے میں ائمہ کے اقوال

۱۔ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ ”المجروحین“ ۷ میں رقمطراز ہیں:

”۔۔۔۔۔ وقد روی عن أنس بن مالك حديثاً موضوعاً، يشهد المضعف في الصناعة بوضعه، لا يحل ذكره في الكتب إلا على وجه الاختبار للمخاوص۔“

”۔۔۔ عمرو نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک موضوع روایت مروی ہے، جس کے موضوع ہونے پر ہر وہ شخص گواہ ہے، جو صناعت حدیث میں گہری سوچ رکھتا ہو، صرف خواص کی آزمائش کے لئے اسے کتابوں میں ذکر کرنا جائز ہے۔“ اس کلام کے بعد حافظ ابن حبان نے زیر بحث روایت تخریج کی۔

لے مجمع الزوائد: کتاب النکاح، ۳/۵۶۰، رقم: ۷۷۲۹، ت: الشیخ عبد اللہ الدرویش، دار الفکر۔ بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۵ھ۔

لے المجروحین: عمرو بن سعید الخولانی، ۲/۶۸، ت: محمود ابراہیم زاید، دار المعرفة، بیروت۔

۲- علامہ عقیلی رحمہ اللہ ”الضعفاء الکبیر“ ۱ء میں لکھتے ہیں: ”عن أنس لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، ولا يتابعه إلا من هو دونه“۔ عمرو نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، ان کے علاوہ کسی دوسرے راوی نے یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل نہیں کی ہے، عمرو کو صرف اسی روایت سے پہچانا جاتا ہے، اور انکی متابعت ان سے کم تر لوگ ہی کرتے ہیں۔

حافظ عقیلی رحمہ اللہ نے اس کلام کے بعد زیر بحث روایت اختصاراً نقل کی۔

۳- حافظ ذہبی رحمہ اللہ ”میزان الاعتدال“ ۱ء میں لکھتے ہیں: ”عن أنس، حدث بموضوعات۔۔۔۔۔“۔ عمرو نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے من گھڑت احادیث نقل کی ہے۔۔۔۔۔“۔

اس کے بعد حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے مذکورہ روایت اور ابن حبان رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ واضح رہے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ”اللائی المصنوعة“ میں زیر بحث روایت اور ابن حبان رحمہ اللہ کا قول نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: ”قلت: أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده من طريق هشام بن عمار به۔ انتهي ۳۔ میں کہتا ہوں کہ حسن بن سفيان نے اپنی مسند میں هشام بن عمار کے طریق سے اس روایت کی تخریج کی ہے، انتہی۔“

واضح رہے کہ حسن بن سفيان رحمہ اللہ کے اس طریق میں بھی عمرو بن سعد الخولانی موجود ہے، جن کے بارے میں حافظ ابن حبان رحمہ اللہ اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ تصریح کر چکے ہیں کہ وہ روایتیں گھڑتا تھا، چنانچہ یہ طریق بھی مفید نہیں، یہی وجہ ہے کہ علامہ

۱- الضعفاء الکبیر: عمرو بن سعید الخولانی، ۲/۳، ۲۷۲، ت: الذکور عبد المعطي، دار الکتب العلمیہ۔ بیروت۔
۲- میزان الاعتدال: عمرو بن سعید الخولانی، ۳/۲۶۱، رقم: ۶۳۷۲، ت: علی محمد البجاوی، دار المعرفة۔ بیروت۔

۳- اللائی المصنوعة: ۲/۱۳۸، ت: محمد عبد المنعم رابع، دار الکتب العلمیہ۔ بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۲۸ھ۔

شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ”الفوائد المجموعة“ لہ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو نقل کر کے لکھتے ہیں: ”ہشام بن عمار یرویہ عن عمار بن نصر لہ عن عمرو بن سعید، فإخراج هذا الحديث في كتاب آخر من طريق هذا الوضاع لا يأتي لفائدة“۔
ہشام بن عمار اس روایت کو عمار بن نصر سے اور عمار، عمرو بن سعید سے نقل کرنے والا ہے، چنانچہ کسی دوسری کتاب میں اسی وضاع کے طریق سے اس حدیث کی تخریج کرنا، بے سود ہے۔

حدیث انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حکم

آپ جان چکے ہیں کہ حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ صاف لفظوں میں اس سند کے ساتھ حدیث کو من گھڑت کہہ چکے ہیں؛ اس لئے اس سند کے ساتھ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔

۲- حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ ”الکامل فی الضعفاء“ لہ میں رقمطراز ہیں:

”ثنا ابن قتیبہ، ثنا وارث بن الفضل، ثنا الحسن بن محمد البلخی، ثنا عوف و ہشام عن ابن سیرین، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إذا حملت المرأة فلها أجر الصائم القائم القانت المُخبت المجاهد في سبيل الله، فإذا ضرب بها الطلّق فلا يدري أحد من الخلائق مالها من الأجر، فإذا وضعت فلها بكل وضعة“

لہ الفوائد المجموعة: کتاب النکاح: ۱۳۳، رقم: ۳۵، ت: عبد الرحمن بن یحییٰ، الطبعة ۱۴۱۲ھ۔
لہ کذافی ”الفوائد المجموعة“ والصحیح ”نصیر“۔

لہ الکامل فی الضعفاء: الحسن بن محمد أبو محمد البلخی قاضی مرو، ۱۶۵/۳، رقم: ۳۵۳، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علی محمد معوض، دار الکتب العلمیة - بیروت، الطبعة الأولى

[کذا فی الاصل] عَنَّثُ نَسْمَةً۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عورت حاملہ ہو جائے تو اسے روزے دار، نماز میں قیام کرنے والے، مطہ، خشوع رکھنے والے، مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے، جب اسے دردِ ولادت ہوتا ہے، تو مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اسے اس پر کیا اجر ملے گا، جب وہ بچہ جن لیتی ہے تو اس ولادت کے بدلے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔

ابن عدی رحمہ اللہ تخریج حدیث کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سند سے منکر ہے: عن عوف وهشام عن ابن سيرين، عن أبي هريرة۔
حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے ”المجروحین“ لے میں یہ روایت ”الحسن بن محمد البلیخی“ کے ترجمہ میں اسی سند سے تخریج کی ہے۔

روایت پر کلام

۱- حافظ ابن عدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”وهذا أيضاً منكر عن عوف وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة“۔ یہ حدیث اس سند سے منکر ہے: عن عوف وهشام عن ابن سيرين، عن أبي هريرة۔ ۱

۲- حافظ ابن حبان رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”فهذا الحديث لا أصل له“ ۲۔ اس حدیث کی اصل نہیں ہے۔

۳- حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: ”قال أبو حاتم ابن حبان: لا أصل لهذا الحديث۔ والحسن بن محمد يروي الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج

لـ المجروحين: ۲۳۸/۱، ت: محمد إبراهيم زايد، دار المعرفة-بيروت۔

۱۔ الكامل في الضعفاء: الحسن بن محمد أبو محمد البلخي قاضي مرو ۱۶۵/۳، رقم: ۳۵۳، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى

۱۴۱۸ھ۔

۲۔ المجروحين: ۲۳۸/۱، ت: محمد إبراهيم زايد، دار المعرفة-بيروت۔

بہ، وقال أبو أحمد بن عدي: كل أحاديثه مناكير“۔^۱

ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، اور (سند میں موجود) حسن بن محمد من گھڑت روایتیں نقل کرتا تھا، اس سے احتجاج جائز نہیں ہے، اور ابو احمد ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سب حدیثیں مناکیر ہیں۔

۴۔ علامہ ابن عراق رحمہ اللہ ”تنزیہ الشریعة“^۲ میں رقمطراز ہیں: ”(عد) من حدیث أبي هريرة وفيه الحسن بن محمد البلخي...“۔ ”ابن عدی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی تخریج کی ہے اور اس میں حسن بن محمد بلخی ہے۔۔۔۔۔“

۵۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”هكذا رواه صاحب اللآلي، ولعل ابن الجوزي قد ذكره في الموضوعات“۔^۳

صاحب لآلی (علامہ سیوطی رحمہ اللہ) نے اس روایت کو اسی طرح نقل کیا ہے، اور شاید کہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے۔

محدثین کرام رحمہم اللہ نے حسن بن محمد بلخی کی وجہ سے حدیث پر شدید کلام کیا ہے، حدیث کا مقام سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ حسن بن محمد بلخی کے بارے میں ائمہ حدیث کے اقوال کو تفصیل سے لکھا جائے۔

الحسن بن محمد ابو محمد البلیخی قاضی مرو پر ائمہ کا کلام

ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”شيخ، يروي عن حميد الطويل وعوف الأعرابي الأشياء الموضوعة“

۱۔ کتاب الموضوعات: ۲/ ۲۷۴، عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية - المدينة المنورة، الطبعة الاولى ۱۳۸۶ھ۔

۲۔ تنزیہ الشریعة: کتاب النکاح، الفصل الأول، ۲/ ۲۱۱، رقم: ۳۷، عبد الوہاب عبد اللطیف و عبد اللہ محمد الصدیق، دار الکتب العلمیہ - بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۰۱ھ۔

۳۔ الفوائد المجموعة: کتاب النکاح: ۱۳۳، رقم: ۴۵، عبد الرحمن بن یحیی، الطبعة ۱۴۱۶ھ۔

و (عن) غیر ہما من الثقات الأحادیث المقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال...۔“ ۱۔

”یہ شیخ حمید طویل اور عوف اعرابی سے من گھڑت روایتیں نقل کرتا تھا، اور ان دونوں کے علاوہ دیگر ثقات سے تبدیل کی ہوئی حدیثیں نقل کرتا تھا، اس سے اور اس کی حدیثوں سے احتجاج بہر صورت جائز نہیں ہے۔۔۔۔۔“

حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ”متروک الحدیث“ (صیغہ جرح) ہے۔ ۲۔
ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ساری حدیثیں مناکیر ہیں۔ ۳۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وقد غفل بن حبان فذكره في الثقات وذكره العقيلي فقال: منكر الحديث...“۔ وقال أبو سعيد النقاش: حدث عن حميد عن أنس أحاديث موضوعة...۔“ ۴۔

ابن حبان رحمہ اللہ نے غفلت سے حسن بن محمد رحمہ اللہ کو ثقات میں ذکر کر دیا ہے، اور عقیلی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ”منکر الحدیث“ (صیغہ جرح) ہے۔۔۔۔۔ اور ابوسعید نقاش رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ حمید عن انس رحمہ اللہ کی سند سے من گھڑت روایتیں نقل کرتا تھا۔

۱۔ المجروحین: ۲۳۸/۱، ت: محمد ابراہیم زاید، دار المعرفۃ۔ بیروت۔

۲۔ تاریخ الإسلام: ۲۲۲/۵، رقم: ۴۹۰۶، ت: مصطفیٰ عبدالقادر عطاء، دار الکتب العلمیۃ۔ بیروت، الطبعة الأولى ۲۰۰۵ھ۔

۳۔ الكامل فی الضعفاء: الحسن بن محمد أبو محمد البلیخی قاضی مرو ۱۶۵/۳، رقم: ۳۵۳، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علی محمّد معوض، دار الکتب العلمیۃ۔ بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۸ھ۔

۴۔ لسان المیزان: ۱۱۱/۳، رقم: ۲۳۸۳، ت: شیخ عبدالفتاح أبو غنّہ، دار البشائر الإسلامیۃ، الطبعة الأولى ۱۴۲۳ھ۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے کلام کی وضاحت

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ سے تسامح ہوئی ہے، کیونکہ ابن حبان رحمہ اللہ نے حسن بلخی کو ”مجروحین“ میں بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، اور پھر حسن بلخی کو ”ثقات“ میں بھی ذکر کر دیا۔

حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حکم

ما قبل تفصیل آچکی ہے کہ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ، حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ، حافظ ابن عراق رحمہ اللہ، اور حافظ شوکانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس سند کے ساتھ من گھڑت کہا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے یہ روایت اس سند سے بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔

۳- حدیث عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

علامہ علاء الدین علی المتقی رحمہ اللہ ”کنز العمال“ لے میں لکھتے ہیں:

”المرأة إذا حملت كان لها أجر الصائم القائم الْمُحْبَبِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وإذا ضربها الطَّلُقُ فلا تدري الخلاق، مالها من الأجر، فإذا وضعت كان لها بكل مصة أو رضعة أجر نفس تُحييها، فإذا فطمت ضرب الملك على منكيها وقال: استأنفي العمل“۔ (أبو الشيخ - عبد الرحمن بن عوف)۔

عورت جب حاملہ ہو جائے تو اسے روزے دار، نماز میں قیام کرنے والے، خشوع رکھنے والے، اور مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر ملتا ہے، اور جب اس کو دردِ ولادت ہو تو مخلوق نہیں جانتی کہ اس عورت کا کتنا ثواب ہے، جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو اسے ہر چوسنے کے بدلے ایک جان زندہ کرنے کا اجر ملتا ہے، جب وہ

بچہ کا دودھ چھڑا لے، تو فرشتہ اس کے کندھے پر تھپکی دے کر کہتا ہے کہ تو اس سر نو عمل شروع کر (یعنی اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیئے)۔
(علی متقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں) یہ روایت ابوالشیخ رحمہ اللہ نے عبدالرحمن بن عوف رحمہ اللہ کی سند سے تخریج کی ہے۔

روایت پر کلام

علامہ ابن عزاقر رحمہ اللہ، ”تنزیہ الشریعة“ لے میں رقمطراز ہیں:
”... (تعقب) بأن له طريقاً آخر من حديث عبدالرحمن بن عوف أخرجه أبو الشيخ (قلت) فيه عبدالرحيم وأظنه ابن زيد العمي وإلا فمجهول وأنا لا أشك أن هذا موضوع والله تعالى أعلم“۔
”۔۔ تعاقب کیا گیا کہ اس حدیث کا ایک دوسرا طریق عبدالرحمن بن عوف سے مروی ہے، جسے ابوالشیخ رحمہ اللہ نے تخریج کیا ہے، میں (حافظ ابن عراق رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ اس حدیث کی سند میں عبدالرحیم ہے، میرا گمان ہے کہ یہ عبدالرحیم بن زید العمی ہے، بصورت دیگر یہ کوئی مجہول راوی ہے، اور مجھے اس میں شک نہیں کہ یہ من گھڑت روایت ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔
عبدالرحیم بن زید الحواری کی وجہ سے حدیث پر شدید کلام کیا گیا ہے، حدیث کا مقام سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ حسن بن محمد لجنی کے بارے میں ائمہ حدیث کے اقوال تفصیل سے لکھا جائے۔

عبدالرحیم بن زید بن الحواری العمی کے بارے میں اقوال

حافظ ذہبی رحمہ اللہ ”میزان الاعتدال“ لے میں لکھتے ہیں:

لہ تنزیہ الشریعة: الفصل الثانی، کتاب النکاح، ۲/۲۱۱، رقم: ۳۷۷، عبد الوہاب عبد اللطیف و عبد اللہ محمد الصدیق، دار الکتب العلمیہ بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۰۱ھ۔
لے میزان الاعتدال: ۶۰۵، رقم: ۵۰۳۰، تحقیق: علی محمد البجاوی، دار المعرفہ۔ بیروت۔

”قال البخاري: تركوه، وقال يحيى: كذاب۔ وقال مرة: ليس بشيء۔
وقال الجوزجاني: غير ثقة۔ وقال أبو حاتم: ترك حديثه۔ وقال أبو
زرعة: واہ۔ وقال أبو داؤد: ضعيف...“

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محدثین نے عبدالرحیم کو ”ترک“ (جرح) کہا
ہے، اور یحییٰ نے عبدالرحیم کو کذاب اور ایک دوسرے موقع پر ”لیس بشی“ (جرح) کہا
ہے، اور جوزجانی رحمہ اللہ نے ”غیر ثقہ“ کہا ہے، اور ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی
حدیثوں کو ترک کیا گیا ہے (جرح)، اور ابو زرعہ رحمہ اللہ نے عبدالرحیم کو ”واہ“ (جرح)
اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے ”ضعیف“ کہا ہے۔

حدیث عبدالرحمن بن عوف کا فنی مقام

حافظ ابن عراق رحمہ اللہ کا قول گزر گیا ہے کہ مجھے اس میں شک نہیں کہ یہ من
گھڑت روایت ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے اس روایت کو مذکورہ سند
سے بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔

۴- حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ

علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی سند سے ”امراۃ
عطارة يقال لها الحولاہ“ کی ایک مفصل روایت حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے
حوالے سے تخریج کی ہے، جس میں زیر بحث روایت کا مضمون بھی ہے، یعنی:

”... ليس من امرأة من المسلمين تحمل من زوجها إلا كان لها

كأجر الصائم القائم المُحِبِّ القانت فإذا رضعته كان لها بكل رضة

عتق رقبة، فإذا فطمته نادى مناد من السماء أيها المرأة استأنفي العمل

فقد كفت ما مضى...“^۱

۱۔ کتاب الموضوعات: ۲/۲۷۴، عبدالرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة،

”۔۔۔۔۔ جو مسلمان عورت اپنے خاوند سے حاملہ ہو جائے تو اسے روزے دار، نماز میں قیام کرنے والے، خشوع رکھنے والے، اور مطہج کا ثواب ملتا ہے، جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر رضاعت پر اسے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے، جب وہ بچے کو دودھ چھڑائے تو آسمان سے ایک فرشتہ نداء کرتا ہے کہ اے عورت! از سر نو عمل شروع کر، کیونکہ تمہارے پہلے اعمال کی کفایت کر دی گئی ہے (یعنی گناہ معاف ہو گئے ہیں)۔۔۔۔۔“

روایت پر کلام

تخریج روایت کے بعد علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ روایت اور اس کی سند پر کلام کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”قال الدارقطني: هذا حديث باطل، وقال: ذهب عبدالرحمن بن مهدي وأبو داود إلى زياد بن ميمون فأنكروا عليه هذا الحديث فقال: اشهدوا أنني قد رجعت عنه۔ قال المصنف: قلت: قال يزيد بن هارون: كان زياد بن ميمون كذاباً۔ وقال يحيى بن معين: ليس بشيء ولا يساوي قليلاً ولا كثيراً۔ وقال البخاري تركوه۔ وأما المصباح بن سهيل فقال البخاري والرازي وأبو زرعة: هو منكر الحديث۔ فقال ابن حبان: يروي المناكير عن أقوام مشاهير لا يجوز الاحتجاج به“۔

دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث باطل ہے، اور دارقطنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ اور ابو داود رحمہ اللہ، زیاد بن میمون کے پاس گئے، تو عبدالرحمن رحمہ اللہ اور ابو داود رحمہ اللہ نے زیاد پر اس حدیث کا انکار کیا، زیاد نے کہا کہ تم گواہ رہو کہ میں نے اس حدیث سے رجوع کر لیا۔ مصنف (ابن الجوزی رحمہ اللہ) نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ یزید بن ہارون نے کہا

ہے کہ زیاد بن میمون کذاب ہے، اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیاد ”لیس بشی“ (صیغہ جرح) ہے، یہ قلیل کے مساوی ہے نہ کثیر کے (جرح)، اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محدثین نے زیاد کو ترک کیا ہے، اور (سند میں موجود ایک دوسرا راوی) مصباح بن سہیل [اس لفظ میں تصحیف ہے، صحیح صباح بن سہل ہے، از راقم] کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ اور حافظ ابو زرعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ”منکر الحدیث“ (جرح) ہے، اور ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مشہور لوگوں سے مناکیر نقل کرتا تھا، اس سے احتجاج جائز نہیں ہے۔

واضح رہے کہ حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی مذکورہ روایت میں مذکور صباح بن سہل کی متابعت ”معجم الأوسط للطبرانی“ لے میں حماد بن ابی سلیمان نے کی ہے، یعنی یہی روایت زیاد بن میمون الثقفی سے نقل کی ہے، مگر یہ متابعت مفید نہیں؛ کیونکہ ”المعجم الأوسط“ کی سند میں بھی زیادہ الثقفی موجود ہے، جن کے بارے میں شدید جرح کے اقوال آپ ملاحظہ کر چکے ہیں؛ چنانچہ

۲- علامہ ابن عراق رحمہ اللہ ”تنزیہ الشریعة“ لے میں حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ کا کلام نقل کر کے لکھتے ہیں: ”قال السيوطي: وتابع الصباح حماد بن ابی سليمان۔ (قلت) فالبلاء من زیاد وقد شهد عليه عبد الرحمن بن مهدي أنه رجع عن هذا الحديث والله تعالى اعلم“۔

امام سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حماد بن ابی سلیمان نے صباح کی متابعت کی ہے، میں (ابن عراق رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ اس حدیث میں آفت کا سبب زیاد بن میمون

لے المعجم الأوسط: ۵/۳۰۲، رقم: ۵۳۷۷، دار الحرمین۔ القاهرة، الطبعة ۱۴۱۵ھ۔

لے تنزیہ الشریعة: کتاب النکاح، الفصل الأول، ۲/۲۰۴، رقم: ۲۰، عبد الوہاب عبد اللطیف و

عبد اللہ محمد الصدیق، دار الکتب العلمیہ۔ بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۰۱ھ۔

ہے؛ کیونکہ عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ اس کی شہادت دے چکے ہیں کہ زیاد نے اس حدیث سے رجوع کر لیا تھا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

۳- علامہ شوکانی رحمہ اللہ ”الفوائد المجموعة“ لہ میں علامہ دارقطنی رحمہ اللہ کا قول نقل کر کے لکھتے ہیں: ”وزیاد کذاب وقد أخرجه الطبرانی في الأوسط من طريقه“۔

اور زیاد کذاب ہے، اور طبرانی رحمہ اللہ نے اوسط میں زیاد کے طریق سے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔

محدثین کرام رحمہم اللہ نے زیاد بن میمون کی وجہ سے حدیث پر شدید کلام کیا ہے، حدیث کا مقام سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ زیاد بن میمون ثقفی کے بارے میں ائمہ حدیث کے اقوال تفصیل سے لکھے جائیں۔

زیاد بن میمون الثقفی الفا کہی کے بارے میں ائمہ رجال کے اقوال حافظ ذہبی رحمہ اللہ ”میزان الاعتدال“ لہ میں لکھتے ہیں:

”قال الليث بن عبة: سمعت ابن معين يقول: زياد بن ميمون ليس يسوي قليلاً ولا كثيراً. وقال - مرة - ليس بشيء. وقال يزيد بن هارون: كان كذاباً. وقال البخاري: تركوه. وقال أبو زرعة: وأهـي الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال أبو داود: أتيتـه فقال: أسـفـر الله وضعف هذه الأحاديث“۔

وقال بشر بن عمر الزهراني: سألت زياد بن ميمون أبا عمار عن حديث لأنس، فقال: احسبوني كنت يهودياً أو نصرانياً؛ قدر جعت عما كنت أحدث به عن أنس، لم أسمع من أنس شيئاً...“۔

حدیث انس بن مالک کا فنی مقام

۵- حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ

امرأة واحدة في الجنة وبقیتھن فی النار۔“ فاشتد ذلك علی من حضر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المهاجرین، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "إن المسلمة إذا حملت كان لها أجر القائم المحرم المجاهد في سبيل اللہ، حتی إذا وضعت فإن لها بأول رَضْعَةٍ تُرضعه أجر حياة نسمة"۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ننانوے عورتوں میں صرف ایک عورت جنت میں جائے گی اور باقی سب جہنم میں جائیں گی، حاضرینِ مجلس یعنی مہاجرین پر یہ بات بہت شاق گزری، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اسے نماز کے لئے قیام کرنے والے، حج کا احرام باندھنے والے، مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ عورت بچہ جنم لے، تو اسے پہلی دفعہ دودھ پلانے پر ایک نفس کی حیات کا ثواب ملتا ہے۔

روایت پر کلام

علامہ بوصری رحمہ اللہ "اتحاف الخیرۃ المہرۃ" ص ۱۷ میں "مسند أبی یعلیٰ" کی مذکورہ روایت اور آئندہ آنے والی مسند عبد بن حمید رحمہ اللہ کی روایت ذکر کر کے لکھتے ہیں:

"قلت: أورد ابن الجوزي هذا المتن وما قبله في كتاب الموضوعات من حديث أبي هريرة وأنس وقال: لأصل لهذا الحديث"۔

میں یہ کہتا ہوں کہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے یہ متن اور اس سے ما قبل متن، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اس کو "کتاب الموضوعات" میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔

حدیث کا مقام سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ سند میں موجود حسین بن قیس کے بارے میں ائمہ حدیث کے اقوال تفصیل سے لکھے جائیں:

حسین بن قیس الرضی الواسطی ابوعلی ولقبہ حَنْش کے بارے میں اقوال

حافظ ذہبی رحمہ اللہ ”میزان الاعتدال“ لہ میں لکھتے ہیں:

”قال أحمد: متروک، له حدیث واحد حسن في قصة الشوم۔ وقال

أبو زرعة وابن معین: ضعيف۔ وقال البخاري: لا يکتب حديثه۔ وقال

النسائي: ليس بثقة۔ وقال مرة: متروک۔ وقال السعدي: أحاديثه

منكرة جدا۔ وقال الدارقطني: متروک...۔“

”امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حسین ”متروک“ (شدید جرح) ہے، قصہ شوم

میں اس کی ایک ”حسن“ حدیث ہے، اور ابو زرعة رحمہ اللہ اور ابن معین رحمہ اللہ نے حسین کو

”ضعیف“ کہا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی حدیثیں نہیں لکھی

جائیں گی۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ”لیس بثقة“ (جرح) اور ایک مرتبہ ”متروک“ (شدید

جرح) کہا ہے، سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی حدیثیں بہت زیادہ منکر ہیں، اور

دارقطنی رحمہ اللہ نے حسین کو ”متروک“ (شدید جرح) کہا ہے۔۔۔۔۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے موصوف کو متروک (شدید جرح) کہا ہے۔ لے

حافظ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی حدیثیں نہیں

لکھی جائیں گی۔ لے

حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کا حکم

حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس سند کے ساتھ بھی روایت کو من گھڑت کہا ہے، اور

علامہ بیوری رحمہ اللہ نے بھی حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ کے کلام پر اعتماد کیا ہے، اس لئے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے اس حدیث کو مذکورہ سند سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔

لے میزان الاعتدال: ۵۳۶/۱، رقم: ۲۰۳۳، ت: علی محمد البجاوی، دار المعرفہ بیروت۔

لے التقریب: ۱۶۸، رقم: ۱۳۳۲، ت: محمد عؤامة، دار الرشید، سوریا، الطبعة الرابعة ۱۴۱۸ھ۔

لے الکاشف: ۲۳۳/۱، رقم: ۱۱۱۲، ت: عزت علی عید عطیة و موسی محمد علی الموشی، دار

الکتاب الحدیث، القاهرة، الطبعة الأولى ۱۳۹۲ھ۔

اہم تنبیہ اور خلاصہ

آگے جانے سے قبل، اب تک کی تفصیلات کا اجمالی خاکہ ملاحظہ ہو:

حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مختلف سندوں کے ساتھ ایک خاص مضمون مروی ہے، جس میں ان اعمال کے فضائل مروی ہیں:

- ۱- حاملہ کو (بعض سندوں میں ہے کہ جس حاملہ سے خاوند رضا مند ہو) روزے دار، نماز پڑھنے والے، خشوع کرنے والے، مطیع، اور مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر ملتا ہے۔
- ۲- درودہ پڑھنے پر اسے ایسا اجر ملتا ہے، جسے مخلوق میں کوئی نہیں جانتا۔
- ۳- دودھ کے ہر گھونٹ کے بدلے نیکی (بعض روایتوں میں ایک جان زندہ کرنے) کا اجر ملتا ہے۔

۴- وضع حمل سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

۵- اگر رات کو بچے کی وجہ سے جاگنا پڑ گیا، تو ستر غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔

آپ جان چکے ہیں کہ ان تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی جانب منسوب مذکورہ مضامین پر مشتمل احادیث من گھڑت ہیں؛ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس مضمون پر مشتمل احادیث منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔

حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما

علامہ ابونعیم الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ ”حلیۃ الأولیاء“ لہ میں لکھتے ہیں:

”حدثنا سليمان بن أحمد، قال ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال ثنا إبراهيم بن اسحاق الصنيني، قال ثنا قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن سعيد بن جبیر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أحسنه قدر فعه قال: ”المرأه في

حملها إلى وضعها إلى فصالها كالمرباط في سبيل الله، فإن ماتت فيما بين ذلك فلما أجر شهيد“۔

غریب من حدیث سعید تفرّد به قیس وحدث به عبد الله بن المبارك عن قیس، حدثناه أبو عمرو بن حمدان قال ثنا الحسن بن سفيان، قال ثنا حيان بن موسى عن ابن المبارك عن قیس بن الربیع عن أبي هاشم عن سعید بن جبیر عن ابن عمر أراه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن للمرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها من الأجر كالمرباط في سبيل الله فإن هلكت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد“۔

(راوی فرماتے ہیں کہ) میرا گمان ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ روایت مرفوعاً بیان کی ہے کہ عورت حمل سے وضع حمل (پھر) بچے کے دودھ چھڑانے تک اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں اس کی سرحدوں کا پہرہ دے، اگر وہ اس دوران مر جائے تو اسے شہید کا اجر ملے گا۔

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے منقول احادیث میں یہ روایت غریب ہے، جس میں قیس متفرد ہے، اور (ابراہیم بن اسحاق کے علاوہ) عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے بھی قیس سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔

اس کے بعد حافظ ابو نعیم رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی سند تخریج کی، جس کا متن یہ ہے:

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (راوی فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا) کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلاشبہ عورت حمل سے وضع حمل، پھر بچے کے دودھ چھڑانے تک اجر میں اس شخص کی طرح ہے، جو اسلامی سرحدوں کا پہرہ دے، اگر وہ عورت اس دوران مر جائے تو اسے شہید کا اجر ملتا ہے۔

یہ روایت ”المنتخب من مسند عبد بن حمید“ لے میں بھی تخریج کی گئی ہے، تمام سندیں، قیس بن الربیع پر مشترک ہو جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ مسند عبد بن حمید کی روایت کی سند یہ ہے: یعمر بن بشر، ثنابن المبارک، أنالربیع عن أبي هاشم۔

وضاحت

حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے یہ حدیث دو سندوں سے نقل کی ہے، جس میں قیس بن ربیع سے دو راویوں نے حدیث نقل کی ہے: ابراہیم بن اسحاق اور عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ قیس کے بعد سے آخر تک کی سند یہ ہے: أبي هاشم عن سعيد بن جبیر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔

روایت پر کلام

۱- ”علل الدارقطني“ ۷ میں ہے:

”فقال: يرويه قيس بن الربيع، واختلف عنه: فرواه ابن المبارک، عن قيس، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبیر، عن ابن عمر، عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وغيره لا يرفعه، والموقوف أشبه“۔

یہ روایت قیس بن ربیع نے نقل کی ہے، اور ان کے بعد مختلف راوی اسے نقل کرنے والے ہیں: ابن مبارک نے قیس، انہوں نے ابی ہاشم، انہوں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کیا ہے، اور ابن مبارک رحمہ اللہ کے علاوہ دوسروں نے اس روایت کو مر فوعاً (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول) نقل نہیں کیا، اور اس روایت کا موقوف (صحابی رضی اللہ عنہ کا قول) ہونا ”اشبہ“ (قرین قیاس) ہے۔

وضاحت

آپ جان چکے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی سند میں موجود راوی قیس سے دو راویوں نے یہ حدیث نقل کی ہے: ابراہیم بن اسحاق اور عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ، قیس کے بعد سے آخر تک کی سند یہ ہے: أبي هاشم عن سعيد بن جبیر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔

امام دارقطنی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم نے قیس سے یہ روایت موقوفاً نقل کی ہے، یعنی یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہ ارشاد منسوب نہیں کیا، البتہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے اسے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور قرین قیاس یہی ہے کہ یہ روایت موقوف ہے، یعنی صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تک ثابت ہے۔

۲- حافظ بیہقی رحمہ اللہ ”مجمع الزوائد“ لے میں لکھتے ہیں:

”رواہ الطبرانی، وفیہ: قیس بن الربیع، وثقہ شعبۃ والثوری، وضعفہ غیر ہما

واسحاق بن ابراہیم الصبی لم أعرفہ، وبقیۃ رجالہ رجال الصحیح“۔

اسے طبرانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور اس حدیث کی سند میں قیس بن ربیع ہے، شعبہ رحمہ اللہ اور ثوری رحمہ اللہ نے قیس کی توثیق کی ہے اور دوسروں نے تضعیف کی ہے، اور اسحاق بن ابراہیم صبی کو میں نہیں پہچانتا اور سند کے دیگر راوی رجال صحیح ہیں۔ ۱

۱- مجمع الزوائد، کتاب النکاح: ۵۶۰/۳، رقم: ۶۳۰، ت: الشیخ عبد اللہ الدرویش، دار الفکر۔ بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۵ھ۔

۱- واضح رہے کہ طبرانی کی مذکورہ روایت مجھے معارج ثلاثہ میں نہیں ملی، البتہ مذکورہ ”حلیۃ الاولیاء“ کی روایت سلیمان بن احمد الطبرانی سے مروی ہے، جس میں راوی کا نام ابراہیم بن اسحاق الصبی ہے، حالانکہ حافظ بیہقی رحمہ اللہ نے طبرانی رحمہ اللہ کی مذکورہ روایت میں اسحاق بن ابراہیم الصبی لکھا ہے۔ بظاہر یہاں نام میں تقدیم و تاخیر ہوگئی ہے اور ”حلیۃ“ کی سند کے مطابق یہ نام ابراہیم بن اسحاق الصبی ہے۔ یہی بھی واضح رہے کہ اسحاق بن ابراہیم الصبی اور اسحاق بن ابراہیم الصبی کا ترجمہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ”میزان الاعتدال“ میں علیحدہ علیحدہ نقل کیا ہے، ملاحظہ ہو:

”ابراہیم بن اسحاق الصبی عن مالک وغیرہ۔ قال الدارقطني: متروک الحدیث۔ قلت: تفرد عن قیس بن الربیع عن الأسود بن قیس عن مالک وغیرہ۔ قال الدارقطني: متروک الحدیث، قلت: تفرد عن قیس بن الربیع عن الأسود بن قیس، عن أبيه عن عمر...“۔ ابراہیم بن اسحاق الصبی الکوفی۔ قال الأزدي: يتكلمون فيه [زائغ عن القصد]۔ (میزان الاعتدال: ۱۸/۱، رقم: ۳۱)۔

البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”لسان المیزان“ میں دونوں ناموں کا مصداق ایک ہی قرار دیا ہے، اور لکھا ہے کہ صبی کا لفظ صبی سے مصحف ہو گیا ہے۔ ملاحظہ ہو: ”وعندي أنه الذي قبله، تصحف الصبي بالصبي“ میرے نزدیک یہ وہی ہے جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، صبی کا لفظ تبدل ہو کر صبی بن گیا ہے (لسان: ۱/۲۳۶، رقم: ۳۸)۔ بہر حال عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ نے قیس بن الربیع سے نقل روایت میں ابراہیم بن اسحاق کی متابعت کی ہے، اس لئے مذکورہ متن کے ابراہیم بن اسحاق کی وجہ سے معلول ہونے کی تلافی ہو جاتی ہے۔

۳- حافظ بوسیری رحمہ اللہ ”اتحاف الخیرۃ المہرۃ“ لہ میں مذکورہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما بحوالہ مسند عبد بن حمید اور سابقہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما بحوالہ: جبیر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما اراہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تخریج کر کے لکھتے ہیں: ”قلت: أورد ابن الجوزي هذا المتن وما قبله في كتاب الموضوعات من حديث أبي هريرة وأنس وقال: لا أصل لهذا الحديث“۔

میں کہتا ہوں کہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ متن ”كتاب الموضوعات“ میں نقل کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس کی اصل نہیں ہے۔

وضاحت

حافظ بوسیری رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، لیکن اس حدیث کا متن حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کر کے، اسے بے اصل کہا ہے۔

واضح رہے کہ زیر بحث روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور اس کے مقابلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول متن ایک حد تک مختلف ہے، تینوں متون پہلے گزر چکے ہیں، آپ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، متون کا یہ معتد بہ فرق ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ دونوں متون کا حکم یکساں ہونا ضروری نہیں ہے، اس بارے میں مزید تفصیل آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے، ان شاء اللہ۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قیس بن ربیع کے بارے میں ائمہ کے اقوال لکھے جائیں، تاکہ حدیث کا حکم سمجھنے میں آسانی ہو:

قیس بن الربیع الأسدی أبو محمد الکوفی:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”صدوق تغیر لما کبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به“۔^۱

قیس صدوق (تعدیل) ہے، بڑی عمر میں حافظ میں تبدیلی آگئی تھی، اور ان کے بیٹے نے ان پر ایسی حدیثیں داخل کر دی تھیں، جو ان کی حدیثوں میں سے نہیں، پھر وہ اسے بیان کرتے تھے۔

حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”كان شعبة يثني عليه۔ وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ليس بقوي ومحلله الصدوق۔ وقال ابن عدي عامة رواياته مستقيمة“۔^۲

شعبة رحمہ اللہ نے قیس کی تعریف کی ہے، اور ابن معین رحمہ اللہ نے قیس کو ”لیس بشی“ (جرح) اور ابو حاتم رحمہ اللہ نے ”لیس بقوی“ اور ”ومحلله الصدوق“ کہا ہے، اور ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی اکثر روایتیں مستقیم (درست) ہیں۔

روایت کا فنی حکم

حدیث ابن عمر رحمہ اللہ کے بارے میں امام دارقطنی رحمہ اللہ اور حافظ ہیثمی رحمہ اللہ کا کلام آپ کے سامنے آچکا ہے، ان دونوں ائمہ کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہے، نیز سند کے احوال بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا راوی نہیں ہے، جس کی وجہ سے سند غیر معتبر کہلائے؛ یہی وجہ ہے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ اور حافظ ہیثمی رحمہ اللہ اس روایت کے ثبوت کی جانب مائل ہوئے ہیں، البتہ دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے، یعنی صرف عبد اللہ بن عمر رحمہ اللہ سے ثابت ہے، اور محدثین

۱۔ التقریب: ۴۵۷، رقم: ۵۵۷۳، ت: محمد عزام، دار الرشید، الطبعة الرابعة ۱۴۱۸ھ۔

۲۔ الکاشف: ۲/۴۰۳، رقم: ۳۶۶۶، ت: عزت علی عید عطیة و موسی محمد علی الموشی، دار

الکتاب الحدیث، القاهرة، الطبعة الأولى ۱۳۹۲ھ۔

کی تصریحات کے مطابق اس مضمون پر مشتمل روایت حکماً مرفوع (آپ ﷺ کا قول) کہلاتی ہے۔ بہر حال یہ حدیث کم از کم موقوفاً ثابت ہے (جو حکماً مرفوع ہے)؛ اس لئے حافظ ابو صیری رحمہ اللہ کا حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما نقل کر کے یہ کہنا کہ اس متن کو حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے بحوالہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے اصل کہا ہے، یہ درست نہیں ہے؛ کیونکہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما ان تمام علتوں سے یکسر خالی ہے، جن پر حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما مشتمل ہے، تفصیل ماقبل میں آچکی ہے، خصوصاً حافظ دارقطنی رحمہ اللہ اور حافظ بیہقی رحمہ اللہ کے اعتماد کے بعد حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ثبوت میں کوئی شبہ نہیں ہے، چنانچہ یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما موقوفاً بیان کرنا درست ہے (جو کہ حکماً مرفوع، یعنی آپ ﷺ کا قول ہے)۔

”حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کا متن یہ ہے:

”عورت حمل سے وضع حمل (پھر) بچے کے دودھ چھڑانے تک اس شخص کی

طرح ہے، جو اللہ کے راستے میں اس کی سرحدوں کا پہرہ دے، اگر وہ اس دوران مرجائے تو اسے شہید کا اجر ملے گا۔“

حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مقابلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مختلف سندوں سے جو مضامین مروی ہیں، وہ تمام سنداً ثابت نہیں ہیں، بلکہ من گھڑت ہیں؛ اس لئے رسول اللہ ﷺ کے انتساب سے یہ مضامین بیان کرتا درست نہیں ہیں، مضامین یہ ہیں:


۱- حاملہ کو (بعض سندوں میں ہے کہ جس حاملہ سے خاوند رضا مند ہو) روزے دار، نماز پڑھنے والے، خشوع کرنے والے، مطیع، اور مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر ملتا ہے۔

۲- درودِ ہ پر اسے ایسا اجر ملتا ہے، جسے مخلوق میں کوئی نہیں جانتا۔

۳- دودھ کے ہر گھونٹ کے بدلے نیکی (بعض روایتوں میں ایک جان زندہ کرنے) کا اجر ملتا ہے۔

۴- وضع حمل سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

۵- اگر رات کو بچے کی وجہ سے جاگنا پڑ گیا، تو ستر غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔



روایات کا حکم (اختصار کے ساتھ)

۱ روایت: ماں کی نافرمانی پر بیٹے کی حالت نزع میں کلمہ سے محرومی۔ شدید ضعیف، بیان نہیں کر سکتے۔	۱ روایت: ماں کی نافرمانی پر بیٹے کی حالت نزع میں کلمہ سے محرومی۔ شدید ضعیف، بیان نہیں کر سکتے۔
۲ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے، ابو حمزہ پر حد نافذ مشہور قصہ من گھڑت ہے صحیح قصہ ”تفصیل“ میں ملاحظہ فرمائیں۔	۲ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے، ابو حمزہ پر حد نافذ مشہور قصہ من گھڑت ہے صحیح قصہ کرنے کا قصہ (یہ موقوف روایت ہے)۔
۳ روایت: ایک بڈو کے آپ ﷺ سے ۲۴ سوالات۔	۳ روایت: ایک بڈو کے آپ ﷺ سے ۲۴ سوالات۔
۴ آپ ﷺ کا وصال سے قبل اپنی ذات پر قصاص اور بدلہ دلوانا۔ (یہ تفصیلی من گھڑت قصہ عکاشہ نامی ایک شخص کی جانب عکاشہ نامی شخص کی جانب منسوب ہے، البتہ یہ واقعہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ سے بدر کے دن، صف درست کرتے ہوئے ایک صحابی سواد بن غزیرہؓ کے پیٹ میں چھڑی چب گئی تھی، سواد بن غزیرہؓ کے مطالبے پر آپ ﷺ نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا، سواد بن غزیرہؓ آپ کے بدن سے چٹ گئے، آپ نے خوش ہو کر بھلائی کی دعا دی۔ (انظر ترجمة سواد بن غزيرة في "الاستيعاب في معرفة الأصحاب"، "الإصابة في تمييز الصحابة" وغيرهما)۔	۴ آپ ﷺ کا وصال سے قبل اپنی ذات پر قصاص اور بدلہ دلوانا۔ (یہ تفصیلی من گھڑت قصہ عکاشہ نامی ایک شخص کی جانب عکاشہ نامی شخص کی جانب منسوب ہے، البتہ یہ واقعہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ سے بدر کے دن، صف درست کرتے ہوئے ایک صحابی سواد بن غزیرہؓ کے پیٹ میں چھڑی چب گئی تھی، سواد بن غزیرہؓ کے مطالبے پر آپ ﷺ نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا، سواد بن غزیرہؓ آپ کے بدن سے چٹ گئے، آپ نے خوش ہو کر بھلائی کی دعا دی۔ (انظر ترجمة سواد بن غزيرة في "الاستيعاب في معرفة الأصحاب"، "الإصابة في تمييز الصحابة" وغيرهما)۔
۵ روایت: ”ایک ساعت کا غور و فکر ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔“	۵ روایت: ”ایک ساعت کا غور و فکر ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔“
۶ روایت: ”اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو اس حالت میں پاؤں کہ میں عشاء کی نماز میں مشغول ہوں اور سورہ شہد ضعیف، بیان نہیں کر سکتے۔	۶ روایت: ”اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو اس حالت میں پاؤں کہ میں عشاء کی نماز میں مشغول ہوں اور سورہ شہد ضعیف، بیان نہیں کر سکتے۔

من گھڑت	۷ روایت: نور محمدی <small>رحمہ اللہ</small> سے اندھیرے میں گمشدہ سوئی کی چمک۔
یہ الفاظ حضور <small>ﷺ</small> سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ یہ حضرت عمرؓ کا قول ہے۔	۸ روایت: ”تہمت کی جگہوں سے بچ کر رہو۔“
	۹ روایت: ”جو بندہ نماز تراویح پڑھتا ہے تو اس کو ہر سجدے کے بدلے، پندرہ سو نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے لئے جنت میں شدید ضعیف، بیان نہیں کر سکتے۔ سرخ یا قوت کا ایک ایسا محل تعمیر کیا جاتا ہے، جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہیں، ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہوتا ہے، جس پر سرخ یا قوت جڑے ہوتے ہیں۔“
	۱۰ روایت: ”اپنا نصف دین خیراء (حضرت عائشہؓ) سے حاصل کرو۔“
من گھڑت	۱۱ روایت: بچے کی بسم اللہ پر، اس بچے کی، اُسکے والدین کی اور اس کے استاد کی بخشش۔
	۱۲ روایت: ”ایک مومن عورت کی نیکی، ستر صد یقین کے عمل کی شدید ضعیف، بیان نہیں کر سکتے، مانند ہے، اور ایک فاجر عورت کی برائی ستر فاجر مردوں کی بیزیدنِ مینرہ سے ثابت ہے۔“
	۱۳ روایت ”میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔“
بے اصل، بیان نہیں کر سکتے۔	اس روایت کے ضمن میں ایک زبان زد عام قصہ کی تحقیق ذکر کی گئی ہے۔
من گھڑت	۱۴ روایت: حضرات اہل بیت کا مسکین، یتیم اور قیدی پر ایثار اور تین دن بھوکا رہنا۔
بے اصل ومن گھڑت	۱۵ روایت: ”اللہ کی معرفت میرا اثاثہ ہے.....“

۱۶ ختم قرآن کی دعا:

”(۱) اللّٰهُمَّ اَنْسْ وَخَشَّتِي فِي قَبْرِ ي۔

(۲) اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْهُ لِي اِمَامًا وَنُورًا
وَهْدًى وَرَحْمَةً، اللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَغَلِّغْنِي مِنْهُ مَا
جَهَلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ اَتَاءَ اللَّيْلِ وَاتَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي
حُجَّةً يَارَبَّ الْعَالَمِينَ۔

یہ دعا دراصل دو مختلف اجزاء کا مجموعہ ہے، ہر جزء کا حکم دوسرے
سے مختلف ہے، اس لئے ہر جزء پر علیحدہ فنی تبصرہ کیا گیا ہے،
واضح رہے یہ تحقیق دعا بحیثیت حدیث ہے۔

۱۷ روایت قدسی: ”میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا.....“۔

بے اصل، آپ ﷺ سے ثابت
نہیں ہے، بیان نہیں کر سکتے۔

۱۸ روایت: ”جمعہ کا حج، حج اکبر ہے۔“۔

بے اصل، حضور ﷺ سے ثابت
نہیں ہے، بیان نہیں کر سکتے۔

۱۹ روایت: ”دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔“۔

یہ روایت ان الفاظ سے آپ ﷺ
سے ثابت نہیں ہے؛ اس لیے بیان
نہیں کر سکتے، البتہ اس مضمون کی
دوسری روایت آپ ﷺ اور
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے،
”تفصیل“ لا حظ فرمائیں۔

۲۰ روایت: ”لا الہ الا اللہ“ بد کے ساتھ (کھینچ کر) پڑھنے سے

من گھڑت

چار ہزار نیکیاں۔

۲۱ روایت: ”مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، جیسے آگ لکڑیوں کو“۔

تحقیق کے آخر میں ضمناً ایک دوسری روایت کی فنی تفصیل پیش کی گئی ہے، حدیث یہ ہے:

”جب آدمی مسجد میں آتا ہے پھر بہت باتیں کرنے لگتا ہے، تو بیان نہیں کر سکتے، معنی روایت فرشتے اسے کہتے ہیں: اے اللہ کے ولی! خاموش ہو جا، اگر وہ ”تفصیل“ میں ملاحظہ فرمائیں۔

پھر بھی باتوں میں لگا رہے، تو فرشتے کہتے ہیں: اے اللہ کے مبغوض بندے! چپ کر جا، اگر وہ پھر بھی باتیں کرتا رہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، چپ ہو جا“۔

۲۲ روایت قدسی: ”میری ارض و سما مجھے نہیں سما سکے، البتہ میرے مومن بندے کا دل، مجھے اپنے میں سمالیتا ہے“۔

اس حدیث قدسی کے ساتھ ایک دوسری حدیث قدسی کی تحقیق اسرائیلی روایات کی حیثیت سے ثابت ہے: اس لئے اسرائیلی روایت کہہ کر بیان کر سکتے ہیں۔

”دل رب کا گھر ہے“۔

۲۳ کھانے سے قبل دعا: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ بَرَکَةِ اللّٰهِ“۔

اس دعا کا ذکر مذکور معتبر کتب میں موجود ہے، لیکن یہ دعا تحقیق کا موضوع اس لئے بنی ہے کہ اس دعا کو لفظ ”علی“ کے ساتھ لکھا کے بغیر پڑھنا چاہیے، نیز دعا کا جاتا ہے، حالانکہ لفظ ”علی“ کی زیادتی درحقیقت ثابت نہیں حوالہ دینے کے تسامح کے بارے ہے نیز اس دعا کا حوالہ دینے میں بھی تسامح ہے، چنانچہ ضمناً اس میں تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

تسامح کی بھی تحقیق کی گئی ہے۔

<p>۲۴ روایت: ”علماء کے علاوہ تمام لوگ بے جان ہیں، اور علماء میں عمل کرنے والوں کے علاوہ تمام علماء ہلاک ہونے والے ہیں، اور عمل کرنے والوں میں مخلصین کے علاوہ تمام غرق ہونے والے ہیں، مصریؒ اور سہل شُمریؒ سے ثابت ہیں۔“</p>	<p>اور اخلاص والے بہت بڑے خطرے سے دو چار ہیں۔“</p>
<p>۲۵ روایت: ”مومن کے جھوٹے میں شفاء ہے،“ بعض جگہ یہ الفاظ دونوں قسم کے الفاظ آپ ﷺ سے ثابت نہیں ہیں، بیان نہیں کر سکتے۔</p>	<p>ہیں: ”مومن کے تھوک میں شفاء ہے۔“</p>
<p>۲۶ روایت: ”جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج بیت اللہ کیلئے پکارا، آپ ﷺ سے ثابت نہیں اس کے جواب میں لوگوں نے لبیک کہا، چنانچہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہی، تو وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے دو مرتبہ تنبیہ کہی، وہ دو مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے دو سے زائد مرتبہ تنبیہ کہی، وہ اسی حساب سے حج کرے گا۔“</p>	<p>اس کے جواب میں لوگوں نے لبیک کہا، چنانچہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہی، تو وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے دو مرتبہ تنبیہ کہی، وہ دو مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے دو سے زائد مرتبہ تنبیہ کہی، وہ اسی حساب سے حج کرے گا۔“</p>
<p>۲۷ روایت قدسی: ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں، میں بادشاہوں کا مالک، اور شہنشاہوں، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، تو میں ان کے بادشاہوں کے دل شفقت و رحمت سے بھر دیتا ہوں، اور بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں، آپ ﷺ سے ثابت نہیں ہے، تو میں بادشاہوں کے قلوب میں ان کے لئے ناراضگی اور انتقام بیان نہیں کر سکتے، البتہ اسرائیلی روایت کی حیثیت سے ثابت دیتے ہیں، (اس وقت) تم بادشاہوں کو بددعا دینے میں اپنے آپ کو مشغول نہ کر دینا، بلکہ اللہ کی یاد اور عاجزی میں مشغول ہونا، میں تمہارے بادشاہوں سے تمہاری کفایت کروں گا۔“</p>	<p>ان الفاظ سے یہ روایت</p>

۲۸ روایت: ۱- حاملہ کو (بعض سندوں میں ہے کہ جس حاملہ سے

خاوند رضا مند ہو) روزے دار، نماز پڑھنے والے، خشوع کرنے والے، مطیع، اور مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر ملتا ہے۔

۲- درودِ زہ پر اسے ایسا اجر ملتا ہے، جسے مخلوق میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ تمام روایتیں من گھڑت ہیں،

۳- دودھ کے ہر گھونٹ کے بدلے نیکی (بعض روایتوں میں ایک جان زندہ کرنے) کا اجر ملتا ہے۔ البتہ مذکورہ ضعیفی روایت موقوفہ (ابن عمرؓ کا ارشاد) ثابت ہے۔

۴- وضع حمل سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

۵- اگر رات کو بچے کی وجہ سے جاگنا پڑ گیا، تو ستر غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔


ضمناً یہ تحقیق بھی لکھی گئی ہے کہ یہ موقوف روایت (عبداللہ ابن عمرؓ کا ارشاد) ثابت ہے (اور ایسا قول حکماً مرفوع ہوتا ہے):

”عورت حمل سے وضع حمل (پھر) بچے کے دودھ چھڑانے تک اس شخص کی طرح ہے، جو اللہ کے راستے میں اس کی سرحدوں کا

پہرہ دے، اگر وہ اس دوران مرجائے تو اسے شہید کا اجر ملے گا۔“

فائدہ: ”بیان نہیں کر سکتے“ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ کی نسبت سے

بیان نہیں کر سکتے۔




علمی فہارس

۳۹۶	فہرست آیات	
۳۹۷	فہرست احادیث	
۴۰۱	فہرست رِوَاۃ	
۴۰۴	فہرست مراجع	

فهرست آیات

۱۰۲	﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ...﴾ سورة النصر	۱
۱۳۶	﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ سورة آل عمران / الآية: ۱۹۱	۲
۱۹۶	﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفَئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ...﴾ سورة الصف / الآية: ۸	۳
۲۲۴	﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يُمُوسَى﴾ سورة طه / الآية: ۱۷	۴
۲۳۰	﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ سورة البقرة / ۲۱۹	۵
۲۳۳	﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ...﴾ سورة الدھر	۶
۲۲۷	﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ سورة الدھر / ۷	۷
۲۴۹	﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير﴾ سورة الأنفال / ۴۰	۸
۲۷۳	﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون﴾ سورة الذاریات / ۵۶	۹



فهرست احاديث وآثار

نمبر شمار	عنوانات	صفحه نمبر
١	أنا الله لا إله إلا أنا، مالک الملوك ...	٣٥٦
٢	ابدأ بنفسك فتصدق عليها ...	٢٣٦
٣	اتقوا مواضع التهم ...	١٦٣
٤	إذا أتى الرجل المسجد فأكثر من الكلام ...	٣١٣
٥	إذا كان أول ليلة من رمضان ...	١٤٩
٦	إذا أضبئتم مثل هذا وصرئتم بأيديكم ...	٣٢٢
٧	إذا حملت المرأة فلها أجر الصائم القائم ...	٣٦٨
٨	استعزت من حفصة بنت راحة ...	١٥٣
٩	أعطيت أمتي في شهر رمضان ...	١٨٢
١٠	أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ...	٢٨١
١١	أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى ...	٢٣٦
١٢	أفضل الأيام يوم عرفة ...	٢٨٠
١٣	أفما ترضى إحداكن أنها إذا كانت حاملاً ...	٣٦٣
١٤	التمسوا الخير إلى الرخصاء ...	١٨٣

٢٥١	اللهم ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ ...	١٥
٢٥١	اللهم آتِنِي وَحْشَتِي فِي قَبْرِ ي ...	١٦
٢٢٠	إِن أَقْرَبَ النَّاسَ دَرَجَةً مِنْ دَرَجَةِ التَّوْبَةِ ...	١٧
٢٣٣	إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّنَدْرِ ...	١٨
٢٨٠	إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ...	١٩
١٠٢	أَنَا أَنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِحَقِّي عَلَيْكُمْ ...	٢٠
٢٢٣	إِنَّكَ قَدْ قُلْتَ: عَلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ...	٢١
٢٠٥	بُرِّ الْمَرْؤَةِ الْمُؤْمِنَةِ كَعَمَلِ سَبْعِينَ صِدِّيقاً ...	٢٢
٣٣١	بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا، أَيْ يُبْصَقُ بَنِي آدَمَ ...	٢٣
٢٠٦	ثَلَاثٌ قَاصِمَاتُ الظَّهْرِ ...	٢٤
١٣٦	تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً.	٢٥
١١٥	تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً.	٢٦
١٢٤	تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ.	٢٧
١٢٠	تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ.	٢٨
١٢١	تَفَكَّرْ سَاعَةً فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ...	٢٩
٣٤٨	تَفَكَّرْ فِي النَّارِ ...	٣٠
٥٠	جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ...	٣١
٨٤	جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ...	٣٢
٢١٠	الْحَدِيثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ ...	٣٣
١٩٠	خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْخُمَيْرَاءِ.	٣٤

١٩٨	خير الناس وخير من يمشي...	٣٥
٢٩٥	الدنيا جيفة وطلأبها كلاب-	٣٦
٣٣٢	الدنيا كلها جهل موات إلا العلم منها...	٣٧
٣٣٥	الدنيا كلها جهل إلا العلم فيها...	٣٨
٢٢٩	راحة نفسي مع أصحابي...	٣٩
٣٣٨	ريق المؤمن شفاء...	٤٠
٣٣٨	سور المؤمن شفاء...	٤١
٤٢	كانت امرأة تدخل على آل عمر أو منزل عمر...	٤٢
١٨٢	كرامة الكتاب ختمه...	٤٣
٣١٠	الكلام المبأخ في المسجد...	٤٤
٢٦٩	كنت أكثر أمخفيا...	٤٥
١٣٦	كيف تفكر ك؟ وفيماذا؟	٤٦
٢٢٣	العلماء ورثة الأنبياء...	٤٧
٢٢٢	علماء أمي كأنياء بني إسرائيل-	٤٨
١٢٧	فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة-	٤٩
٣٢٠	القلب بيت الرب-	٥٠
٣٢٨	لما نادى إبراهيم بالحق لبي الخلق...	٥١
١٣١	لو أدركت والدي أو أخذهما...	٥٢
١٣٦	لو كان جريح فقيها عالما...	٥٣
٣١٦	ما وسعني سمائي ولا أرضي...	٥٤
٣٧٢	المرأة إذا حملت كان لها أجر الصائم القائم...	٥٥


٣٨١	المرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها ...	٥٦
٢٣٣	المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني ...	٥٧
١٦٥	من أقام نفسه مقام التهمة، فلا يلوم من أساء به الظن -	٥٨
٣٤٨	من تسع وتسعين امرأة واحدة في الجنة ...	٥٩
١٦٨	من تعرض للتهمة فلا يلوم من أساء به الظن -	٦٠
٣٣١	من التواضع أن يشرب الرجل من شور أخيه ...	٦١
١٤٢	من سلك مسالك التهم أتهم -	٦٢
٣٠١	من قال لا إله إلا الله ومدها ...	٦٣
١٦٢	من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم -	٦٤
١٣	من كذب علي متعمداً ...	٦٥
١٥٤	مثل المنافق كمثل الشاة العائرة ...	٦٦
٣٣٢	الناس كلهم مؤثي إلا العالمون ...	٦٧
٣٣٢	الناس كلهم مؤثي إلا العلماء ...	٦٨
٢٣٠	وأغوثاه بالله! أهل بيت محمد يؤثون نجوعا ...	٦٩
١٥٢	يا حمزة! لم ضحكك؟ ...	٧٠
٢٩٥	يادأود! مثل الدنيا كمثل جيفة ...	٧١
٢٩٩	ينادي مناد: دعو الدنيا لأهلها ...	٧٢

فهرست روایات

سیریل	عنوانات	سن پیدائش / سن وفات		
۱	آبان بن ابی عیاش فیروز		جرح	۲۸
۲	ابراہیم بن أحمد البلخی		تعدیل	۳۴۵
۳	ابراہیم بن محمد المزکی أبو إسحاق		تعدیل	۲۹۰
۴	ابراہیم بن موسی المکی		تعدیل	۱۶۸
۵	أحمد بن عبد الله بن خالد الجویباری		جرح	۲۵۵
۶	أحمد بن عمرو أبو بکر الشیبانی ابن أبی عاصم		تعدیل	۲۱۵
۷	إسماعیل بن یحیی بن جابر		لم أجده	۲۱۶
۸	أبو حامد المصري		لم أجده	۹۵
۹	بقیة بن الولید بن صائد أبو یحمد الحمصی	۱۱۰/۱۹۷ھ	تعدیل	۲۱۵
۱۰	جعفر بن محمد القوسی		لم أجده	۳۴۵
۱۱	الحسن بن محمد أبو محمد البلخی		جرح	۳۷۰
۱۲	جعفر بن محمد بن المعتز المستغفری	۳۵۰/۳۳۲ھ	تعدیل	۹۴
۱۳	الحسن بن رشید		مختلف فیہ	۳۴۵
۱۴	حسین بن عبد الله بن یزید القطان أبو علی	توفي ۳۱۰ھ	تعدیل	۱۶۹
۱۵	حسین بن قیس الرحبی الواسطی		جرح	۳۸۰

٢٩٠	لم أجده	١٦	حسين بن محمد أبو يعلى الزبيري
٥٥	جرح	١٧	داؤد بن إبراهيم
٢٦١	تعديل مات في خلافة أبي جعفر	١٨	داؤد بن قيس الفراء أبو سليمان الدباغ
٣٤٤	جرح	١٩	زياد بن ميمون الثقفي الفاكهي
٢٥٣	جرح	٢٠	سالم بن عبد الله الخياط
٢١٠	جرح توفي ١٦٨هـ	٢١	سعيد بن سنان أبو مهدي
١٤٠	تعديل توفي ٩٠هـ	٢٢	سعيد بن المسيب بن الحزن
١٦٤	تعديل	٢٣	سليمان بن كندير العجلي أبو صدقة
٩٣	تعديل ٢٥٢هـ / ٤٢١هـ	٢٤	شمس الدين ابن القماح قاضي
١٦٦	تعديل توفي ٢٢٢هـ	٢٥	عباد بن الوليد بن خلاد الغبيري أبو بدر المؤدب
٢٩١	اختلف فيه	٢٦	عبد الله بن حبيب الأنطاكي الزاهد
٢١٥	تعديل	٢٧	عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو الشيخ
٢٦١	تعديل ٣٥٥هـ أو	٢٨	عبد بن أحمد بن محمد أبو ذر هزوي
٣٤٣	جرح ٣٣٣هـ / ٣٥٢هـ	٢٩	عبد الرحيم بن زيد بن الحواري العمي
١٠٨	جرح ٢٢٨هـ	٣٠	عبد المنعم بن إدريس بن سنان بن كليب
٣٣٥	مختلف فيه	٣١	علي بن محمد بن حاتم
٣٦٦	جرح	٣٢	عمرو بن سعيد الخولاني
٢٦٥	جرح	٣٣	عمرو بن شمر الجعفي الكوفي
٦٣	جرح	٣٤	فائد بن عبد الرحمن أبو الوراق
٣٨٦	جرح	٣٥	قيس بن الربيع الأسدي
٢٥٣	جرح	٣٦	ليث بن محمد

٣٥١	جرح		محمد بن أشعث
١٨٣	جرح		محمد بن مروان الكوفي الشَّيْدي الصغير
٢٩٠	تعديل		محمد بن المسيب بن إسحاق بن عبد الله
١٥٦	جرح		مُسْعَدَه بن بكر الفرغاني
١٦٦	مختلف فيه		منهال بن بحر أبو سلمة البصري العقيلي
٣٣٣	جرح		نوح بن أبي مريم
٣٦٠	جرح		وهب بن راشد رقي
٢١٥	تعديل		هشام بن عبد الملك بن عمران التيزني أبو تقي الحمصي
١٦٩	تعديل	توفي ١٥٣ هـ	هشام بن عمار أبو الوليد الدمشقي
١٣٥	جرح		هناد النسفي
١٣٨	جرح		ياسين بن معاذ أبو خلف الزيات
١٦٩	تعديل	توفي ١٣٣ هـ	يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
٢١٢	سكت عليه البخاري وأبو حاتم ووثقه ابن حبان		يزيد بن ميسرة أبو يوسف الدمشقي
٣٠٦	جرح		يَعْنَم بن سالم بن قنبر مولى علي <small>عليه السلام</small>
٢٩٢	اختلف فيه		يوسف بن أسباط الشيباني الزاهد الواعظ



مصادر اور مراجع

یہ فہرست حروفِ تہجی کے مطابق تیار کی گئی ہے، البتہ جن کتابوں کے شروع میں ”الف لام“ آتا ہے، حروفِ تہجی میں ان حروف کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، نیز اگر کسی کتاب کے دو نسخے زیرِ استعمال رہے ہیں تو ان میں ہر ایک کی علیحدہ تعیین کی گئی ہے، یہ بھی واضح رہے کہ اس فہرست میں بعض ایسی کتب کے حوالے بھی شامل ہیں، جن کا استعمال سلسلہ ثانیہ میں ہوگا، ان شاء اللہ

۱ الأباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر: للعلامة أبي عبد الله الحسين بن ابراهيم الجوزقاني (۵۴۳ھ) الناشر، إدارة المبعوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية بنارس، الطبعة الأولى ۱۴۰۴ھ۔

۲ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: للعلامة السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمؤتضى (۱۱۳۵ھ/۱۲۰۵ھ)، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الثالثة ۱۴۲۶ھ۔

۳ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: للإمام أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري (۴۶۲ھ/۸۴۰ھ)، ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن للنشر-الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۰ھ۔

۴ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: للإمام أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري (۴۶۲ھ/۸۴۰ھ)، تحقيق: للعلامة أبي عبد الرحمن عادل بن سعدو أبي إسحاق السيد بن محمود بن إسماعيل، مكتبة الرشد-الرياض، الطبعة، الأولى ۱۴۱۹ھ۔

۵ إتحاف ما يحسن من الأخبار الواردة على الألسن: للعلامة نجم الدين محمد بن محمد بن محمد الغزي (۹۹۷ھ/۱۰۶۱ھ)، ت: الدكتور يحيى مراد، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ۲۰۰۴ھ۔

٦ الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: للعلامة أبي الحسنات محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي (١٢٦٢هـ/١٣٠٢هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت.

٧ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: للشيخ تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع (١٢٢٥هـ/١٤٠٢هـ)، ت: شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٦هـ.

٨ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي التميمي (٣٢٨هـ/٣٦٣هـ)، ت: علي محمد البجاوي، دار الجليل- بيروت، الطبعة الأولى ١٣١٢هـ.

٩ أسد الغابة في معرفة الصحابة: للعلامة أبي الحسن عز الدين ابن الأثير الجَزَرِي (٥٥٥هـ/٦٣٠هـ) الشيخ علي محمد المعوض والشيخ أحمد الموجود، دار الكتب العلمية- بيروت.

١٠ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: للملا علي بن سلطان الهَزَوِي القاري (١٠١٣هـ)، محمد بن لطفي، المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة الثانية ١٣٠٦هـ.

١١ الإسناد من الدين: للشيخ عبد الفتاح أبي غُدَّة (١٣٣٦هـ/١٣١٤هـ)، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، الطبعة الأولى ١٣١٢هـ.

١٢ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: للعلامة محمد بن درويش بن محمد الخُوت (١٢٠٣هـ/١٢٤٤هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت.

١٣ الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني (٤٤٣هـ/٨٥٢هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت.

١٤ إطفاء المُسند المُعتلّي بأطراف المسند الحنبلي: للحافظ أحمد بن علي

بن حجر أبي الفضل العسقلاني (٥٤٤٣/٨٨٥٢هـ)، ت: زهير بن ناصر، دار ابن كثير- بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.

١٥ إعتلال القلوب: للحافظ أبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (٥٢٣٠هـ/٨٣٢٤هـ)، تحقيق: حمدي الدير دأش، مكتبة نزار مصطفى الباز- الرياض، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ.

١٦ اقتضاء الصراط المستقيم: للإمام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني (٦١١هـ/٤٢٤هـ): ت: ناصر بن عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد- الرياض.

١٧ اقتضاء العلم العمل: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (٣٩٢هـ/٤٢٣هـ)، المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة الرابعة ١٣٩٤هـ.

١٨ الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤلف والمؤلف في الأسماء والكنى والأنساب: للحافظ أبي نصر علي بن هبة الله الشهير بابن مأكولا (٤٢١هـ/٥٣٤٥هـ)، تحقيق: الأستاذ نايف العباس، دار الكتاب الإسلامي- القاهرة.

١٩ إكمال تهذيب الكمال: للعلامة أبي عبد الله علاء الدين مغلطاي بن قليج البكجري المصري الحنفي (٦٨٩هـ/٤٦٢هـ): ت: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد وأبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة- القاهرة، الطبعة ١٣٢٢هـ.

٢٠ أمالي ابن سَعُون: للعلامة محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عَنَس بن سَعُون أبي الحسن (٣٨٤هـ/٤٣٠٠هـ)، ت: عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية- بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٣هـ.

٢١ الأنساب: للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السَعَناني (٥٠٦هـ/٥٦٢هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى ١٣١٩هـ.

٢٢ البَحْرُ الزَّخَّارُ المعروف بمسند البزار: للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العَتَكِي البَزَّار (٢٩٢هـ)، ت: محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة ١٣٠٩هـ.

٢٣ البداية والنهاية: للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير (٤٠٠هـ / ٤٤٤هـ)، تحقيق: رياض عبد الحميد مراد، دار ابن كثير- بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٨هـ.

٢٤ البرهان في علوم القرآن: للإمام بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر الزُّرْكَشِي (٤٣٥هـ / ٤٩٣هـ)، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث- القاهرة.

٢٥ بُغْيَةُ الكامل السامي في شرح المحصول والحاصل للجامي: للعلامة محمد موسى خان الروحاني البازي (١٩٣٥هـ / ١٩٩٨هـ)، مكتبة مدينة بلاهور- باكستان، الطبعة الخامسة ١٣١٢هـ.

٢٦ بهشتی زیور: للعلامة أشرف على تهانوي (١٢٨٠هـ / ١٣٢٢هـ)، دار الإاشاعت، ایم-ه- جناح روڈ، اردو بازار کراچی.

٢٧ تاريخ الإسلام: للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (٢٤٣هـ / ٤٣٨هـ)، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٠٥هـ.

٢٨ تاريخ أصبهان: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (٣٣٦هـ / ٣٣٠هـ)، دار الكتاب الإسلامي- القاهرة.

٢٩ تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (٣٩٢هـ / ٣٦٣هـ)، ت: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٢هـ.

٣٠ تاريخ دمشق: للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله المعروف بابن عساكر (٢٩٩هـ / ٥٥٤هـ)، ت: محب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر- بيروت، الطبعة ١٢١٥هـ.

٣١ التاريخ الكبير: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (١٩٣هـ / ٢٥٦هـ)، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الثانية ١٢١٩هـ.

٣٢ تحفة الأخوذِي بشرح جامع الترمذي: للعلامة أبي العلي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك كفوري (١٣٥٣هـ)، ت: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر- بيروت.

٣٣ تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن حاجب: للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير (٤٠٠هـ / ٤٤٤هـ)، عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي، دار حرّاء- مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٢٠٦هـ.

٣٤ تخريج أحاديث كشّاف: للعلامة جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (٤٦٢هـ)، ت: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة- الرياض، الطبعة الأولى ١٢٠٣هـ.

٣٥ التدوين في تاريخ قزوين: للمؤرخ عبد الكريم بن محمد الراعي القزويني (٥٥٤هـ / ٦٢٣هـ)، ت: عزيز الله العطاردي، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة ١٢٠٨هـ.

٣٦ التذكرة في الأحاديث المشتهرة: للإمام بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بهادر الزركشي (٤٣٥هـ / ٤٩٣هـ)، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة ١٢٠٦هـ.

٣٧ تذكرة الموضوعات: تأليف علامه محمد طاهر بن علي فتني (٩١٠هـ /

٩٨٦هـ)، كتب خانة مجيدية-ملتان، باكستان-

٣٨ الترغيب والترهيب: للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (٥٨١هـ-٦٥٦هـ)، دار ابن حزم-بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٢هـ-

٣٩ الترغيب والترهيب: للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (٥٨١هـ-٦٥٦هـ)، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-رياض، الطبعة ١٣٢٣هـ-

٤٠ التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة: للشيخ عبد الفتاح أبي غدة (١٣٣٦هـ/١٤١٤هـ)، مكتبة المكتوبات الإسلامية-حلب، الطبعة ١٣٢٦هـ-

٤١ تفسير ابن كثير: للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (٤٠٠هـ/٤٤٤هـ)، ت: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة-الرياض، الطبعة الثانية ١٣٢٠هـ-

٤٢ تفسير روح البيان: للعلامة إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي (١١٢٤هـ)، دار إحياء التراث العربي-بيروت-

٤٣ تفسير كشف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: للعلامة جبار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (٣٦٤هـ/٥٣٨هـ)، ت: الشيخ عادل أحمد الموجود والشيخ علي محمد المعوض، مكتبة الغيبيكان-الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ-

٤٤ تفسير الفخر الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب: للعلامة محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي (٥٣٣هـ/٦٠٣هـ)، دار إحياء التراث العربي-بيروت-

٤٥ تفسير مظهري: للعلامة محمد ثناء الله العثماني المظهري (١٣٦٤هـ)، دار إحياء التراث العربي-بيروت، الطبعة ١٣٢٥هـ-

٢٦ التقريب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني (٥٤٤٣/٨٥٢هـ)، ت: محمد عوامة، دار الرشيد - سوريا، الطبعة الرابعة ١٣١٨هـ.

٢٧ التلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني (٥٤٤٣/٨٥٢هـ)، ت: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة - مصر، الطبعة الأولى ١٣١٦هـ.

٢٨ تلخيص كتاب الموضوعات: للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (٥٦٤٣/٤٣٨هـ)، ت: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة ١٣٨٦هـ.

٢٩ تلخيص كتاب الموضوعات: للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (٥٦٤٣/٤٣٨هـ)، ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد، مكتبة الرشيد الرياض، الطبعة الأولى ١٣١٩هـ.

٥٠ تنبيه الغافلين: للعلامة أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (٥٣٤٣هـ)، إشاعت إسلام كتب خانة محله جنكي - پشاور - باكستان.

٥١ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: للعلامة أبي الحسن علي بن محمد بن عزاق الكتاني (٩٠٤/٩٦٣هـ)، ت: عبد الوهاب عبد اللطيف و عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية ١٣٠١هـ.

٥٢ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: للعلامة محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الصنعاني (١٠٩٩/١١٨٢هـ)، ت: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية - بيروت.

٥٣ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ جمال الدين أبي الحجاج

يوسف الجزري (١٢٥٣هـ / ١٤٣٢هـ)، ت: الشيخ أحمد علي عبيد وحسن أحمد آغا، دار الفكر - بيروت، الطبعة ١٣١٣هـ.

٥٣ تهذيب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني (٨٤٣هـ / ١٨٥٢هـ)، ت: إبراهيم زبيق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة ١٣١٦هـ.

٥٥ التيسير بشرح جامع الصغير: للعلامة محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين المُنَاوي (٩٥٢هـ / ١٠٣١هـ)، مكتبة الإمام الشافعي - الرياض، الطبعة الثالثة ١٣٠٨هـ.

٥٦ كتاب الثقات: للإمام محمد بن حَبَّان بن أحمد بن أبي حاتم البُشْتِي (بعد ٢٤٠هـ / ٣٥٣هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، الطبعة ١٣٠٢هـ.

٥٧ جامع الأحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير): للعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن سابق الدين الخضير الشيوطي (٨٣٩هـ / ٩١١هـ)، تحقيق: عباس أحمد صقر وأحمد عبد الجواد، دار الفكر - بيروت، الطبعة ١٣١٣هـ.

٥٨ جامع الأصول من احاديث الرسول ﷺ: للعلامة أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري (٥٣٣هـ / ٦٠٦هـ)، ت: محمد حامد الفقي، إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الرابعة ١٣٠٣هـ.

٥٩ جامع بيان العلم وفضله: للإمام أبي عمرو يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي التَّمَرِي (٣٦٨هـ / ٣٦٣هـ)، ت: أبو الأشبال الأزري، دار ابن الجوزي - الدمام، الطبعة ١٣١٩هـ.

٦٠ الجَدُّ الخَيْثُ في بيان ما ليس بحديث: للعلامة أحمد بن عبد الكريم الغزّي العامري (١١٣٣هـ)، ت: فواز أحمد زمرلي، دار ابن حزم - بيروت.

٦١ الجرح والتعديل: للعلامة عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم الرازي (٢٣٠هـ/٣٢٤هـ)، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.

٦٢ جزء فيه ما انتقى أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه على أبي القاسم الطبراني من حديثه لأهل البصرة: للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٢٦٠هـ/٣٦٠هـ)، ت: بدر بن عبد الله البدس، أضواء السلف - الرياض، الطبعة ١٤٢٠هـ.

٦٣ الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي): للإمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي المالكي (٨٤٦هـ/٨٤٥هـ)، ت: الدكتور عبد الفتاح أبو سنة، إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.

٦٤ الحاوي للفتاوى: للعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن سابق الدين الخضير الشيوطي (٨٣٩هـ/٩١١هـ)، ت: عبد اللطيف حسن، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة ١٤٢١هـ.

٦٥ الحصن الحصين: للعلامة أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف (ابن الجزري) (٨٥١هـ/٨٣٣هـ)، حواشي مولانا محمد إدريس، الناشر: گاباستزاردوبازار، كراچی.

٦٦ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (٣٣٦هـ/٣٣٠هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.

٦٧ خلاصة سیر سید البشر: للعلامة أحمد بن عبد الله الطبري الشهير بمُحِبِّ الدين الطبري (٦١٥هـ/٦٩٣هـ)، تحقيق: طلال بن جميل الرفاعي، مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة، الطبعة ١٤١٤هـ.

٦٨ الدر المنثور: للعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن سابق الدين

الخضيري الشيوطي (٨٣٩/٩١١هـ)، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي،
مركز هجر- القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٢٣هـ.

٢٩ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي
الفضل العسقلاني (٤٤٣/٨٥٢هـ)، ت: الشيخ عبد الوارث محمد علي، دار
الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.

٤٠ الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة: للعلامة جلال الدين عبد
الرحمن بن أبي بكر بن سابق الدين الخضيري الشيوطي (٨٣٩/٩١١هـ)، ت:
محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.

٤١ الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة: للعلامة جلال الدين عبد
الرحمن بن أبي بكر بن سابق الدين الخضيري الشيوطي (٨٣٩/٩١١هـ)، عبد
الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر- القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٢٣هـ.

٤٢ دلائل النبوة: للعلامة إسماعيل بن محمد بن فضل بن علي القرشي
(٣٥٤/٥٣٥هـ)، ت: محمد محمد الحداد، دار طيبة- الرياض.

٤٣ دلائل النبوة: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (٣٨٣/٨٣٨هـ)
(٣٥٨هـ)، ت: الدكتور عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة
الأولى ١٤٠٨هـ.

٤٤ ذيل اللآلي المصنوعة: للعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن
سابق الدين الخضيري الشيوطي (٨٣٩/٩١١هـ)، المكتبة الأثرية- شيخوپوره،
الطبعة ١٣٠٣هـ.

٤٥ رد المختار على الدر المختار يعرف بحاشية ابن عابدين: للإمام محمد
أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي (١١٩٨/١٢٥٢هـ)، دار عالم
الكتب- الرياض، الطبعة ١٤٢٣هـ.

٤٦ روح البيان: للعلامة أبي الفداء إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي (١١٢٤هـ)، دار إحياء التراث العربي-بيروت.

٤٧ روح المعاني في تفسير قرآن العظيم والسبع المثاني: للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي (١٢١٤هـ/١٢٤٠هـ)، إحياء التراث العربي-بيروت.

٤٨ رَوْضَةُ الْعُقَلَاءِ وَنُزْهَةُ الْفُضَلَاءِ: للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البُيْهَقِيُّ (٣٥٣هـ)، ت: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة ١٣٩٤هـ.

٤٩ الرحلة في طلب الحديث: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (٣٩٢هـ/٣٦٣هـ)، ت: نور الدين عتر، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة ١٣٩٠هـ.

٨٠ الرياض النَّصْرَةِ في مناقب العشرة: للعلامة أحمد بن عبد الله الطَّيْبَرِي الشهير بِمُحِبِّ الدِّينِ الطَّيْبَرِي (٦١٥هـ/٦٩٣هـ)، مكتبة محمد نجيب الخانجي، مطبعة دار التأليف ومن الكتاب الكبير، الطبعة الثانية ١٣٤٢هـ.

٨١ زاد المَعَاد في هَدْيِ خَيْرِ الْعِبَاد: للعلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين إِبْن قَيْمِ الْجَوْزِيَّةِ (٦٩١هـ/٤٥١هـ)، ت: شعيب الأرْنَؤُوط وعبد القادر الأرْنَؤُوط، مؤسَّسة الرسالة-بيروت، الطبعة السابعة وعشرون ١٤١٥هـ.

٨٢ الزهد لأحمد بن حنبل: للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (١٢٣هـ/٢١٣هـ)، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.

٨٣ سلاح المؤمن في الدعاء والذكر: للعلامة أبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن همام المعروف بإبْنِ الْإِمَامِ (٦٤٤هـ/٤٣٥هـ)، ت: محي الدين أديب مستو، دار ابن كثير-بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.

٨٢ سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الأمة: للشيخ محمد ناصر الدين بن نوح الألباني (١٣٣٢هـ/١٩١٢م)، مكتبة المعارف- الرياض، الطبعة الأولى ١٣٢٥هـ.

٨٥ سنن ابن ماجه: للإمام محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني (٢٠٩هـ/٨٢٤م)، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بيروت.

٨٦ سير أعلام النبلاء: للعلامة أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (٥٦٣هـ/١١٦٨م)، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسه الرسالة- بيروت، الطبعة الثانية ١٣٠٢هـ.

٨٧ شرح شرح نُجْتَةِ الْفِكْرِ: للملا علي بن سلطان الهزوي القاري (١٠١٣هـ)، قديمي كتب خانم كراچی.

٨٨ شرح الشفاء: للملا علي بن سلطان الهزوي القاري (١٠١٣هـ)، ت: عبد الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية- بيروت.

٨٩ شرح علل الترمذي: للإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي المعروف بابن رجب الحنبلي (٤٣٦هـ/١٤٩٥م)، ت: الدكتور همام عبد الرحيم، مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة الثالثة ١٣٢٢هـ.

٩٠ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: للعلامة محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (١٠٥٥هـ/١١٢٢م)، المطبعة الخيرية بمصر، الطبعة الأولى ١٣١٠هـ.

٩١ شرح التتوي على الصحيح لمسلم: للعلامة محي الدين يحيى بن شرف بن مري التتوي (٦٣١هـ/١٢٤٦م)، الطبعة المصرية بالأزهر، الطبعة الأولى ١٣٣٤هـ.

٩٢ الشريعة: للعلامة محمد بن الحسين بن عبد الله أبي بكر الآجري

- ٣٦٠هـ) ت: عبد الله الدميحي، دار الوطن-الرياض، الطبعة ١٣٢٠هـ.
- ٩٣ شُعَبُ الإيمان: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (٣٨٢/هـ)
- ٣٥٨هـ) ت: مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد-الرياض، الطبعة الأولى ١٣٢٣هـ.
- ٩٣ الشِّفاء بتعريف حقوق المصطفى: للعلامة قاضي أبي الفضل عياض اليَحْضِيبي (٢٤٦/٥٣٢هـ)، دار الكتب العلمية-بيروت.
- ٩٥ الشَّمَارِيخ في علم التاريخ: للعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن سابق الدين الخضير السُّيوطي (٨٣٩/٩١١هـ) ت: عبد الرحمن حسن محمود، مكتبة الآداب-القاهرة.
- ٩٦ الجامع الصحيح للبخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (١٩٣/٢٥٦هـ) ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طَوْقُ النَّجَاقِ بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٢هـ.
- ٩٧ الجامع الصحيح لمسلم: للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القُشَيْرِي النيسابوري (٢٦١/٢٠٣هـ) ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية-بيروت.
- ٩٨ الحُجَّة في بيان المَحَجَّة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة: للعلامة إسماعيل بن محمد الأصبهاني قوام السنة أبي حاتم (٢٥٤/٥٣٥هـ) ت: محمد بن ربيع بن الهادي، دار الراية-الرياض.
- ٩٩ الصحيح لابن خزيمة: للعلامة محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي أبي بكر (٢٢٣/٣١١هـ) ت: محمد مصطفى أعظمي، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة ١٤٠٠هـ.
- ١٠٠ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: للإمام محمد بن حَبَّان بن أحمد بن أبي حاتم البُشْتِي (٢٤٠/٣٥٣هـ) ت: د. شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة

- بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ.

١٠١ الصوائق المحرقة: للعلامة أحمد بن محمد بن علي بن حجر
الهَيْثَمِيّ أبي العباس (٩٠٩هـ/٩٤٣هـ)، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة
الأولى ١٩٩٤هـ.

١٠٢ الضعفاء الكبير: للعلامة أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد
الغَفَلِيّ المكي (٣٢٢هـ)، ت: الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي، دار الكتب
العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.

١٠٣ الضعفاء والمتروكين: للعلامة جمال الدين أبي الفَرَج عبد الرحمن بن
علي بن محمد ابن الجوزي (٥٠٨هـ/٥٩٤هـ)، ت: أبو الفداء عبد الله القاضي، دار
الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.

١٠٤ طبقات الشافعية الكبرى: للحافظ تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن
علي بن عبد الكافي الشبكي (٤٢٤هـ/٤٤١هـ)، ت: مصطفى عبد القادر أحمد
عطا، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.

١٠٥ الطبقات الكبرى لابن سعد: للحافظ أبي عبد الله محمد بن سعد بن
منيع الوهري (١٦٨هـ/٢٣٠هـ)، الدكتور علي محمد عمر، المكتبة الخانجي
بالقاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.

١٠٦ عِلَل الترمذي الكبير: للعلامة محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبي
عيسى (٢٠٩هـ/٢٤٩هـ) سيد صبيحي السامرائي عالم الكتب - بيروت، الطبعة
١٤٠٩هـ.

١٠٧ العِيْزُ فِي خَيْرِ مَنْ غَبَرَ: للعلامة أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد
بن عثمان بن قَائِمَاز الذهبي (٦٤٣هـ/٤٣٨هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت، ت:
زغلول، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.

١٠٨ العِلل الواردة في الأحاديث النبوية: للعلامة أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدَارْ قُطْرُبِي الشافعي، ت: محفوظ الرحمن زين الله، دار طيبة-رياض، الطبعة ١٣٠٥هـ.

١٠٩ الفَتَاوَى الحَدِيثِيَّة: للعلامة أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهَيْثَمِي أبي العباس (٩٠٩هـ/٩٤٢هـ)، ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي، مير محمد كتب خانہ-کراچی.

١١٠ فتح الباري: للمحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني (٨٥٢هـ/٨٤٣هـ)، إشراف: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة-بيروت، الطبعة ١٣٤٩هـ.

١١١ فتح المَغِيث بشرح أَلْفِيَةِ الحديث: للعلامة شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (٨٣١هـ/٩٠٢هـ)، ت: عبد الكريم الخُصَيْر ومحمد بن عبد الله آل فهد، مكتبة دار المنهاج-الرياض، الطبعة الثانية ١٣٢٨هـ.

١١٢ الفتوحات المكية: للشيخ محمد بن علي بن محمد ابن العربي أبي بكر الحاتمي (٥٦٠هـ/٦٣٨هـ)، عثمان يحيى، وزارة الثقافة المصرية-مصر، الطبعة ١٣٩٢هـ.

١١٣ الفوائد البَهِيَّة في تراجم الحنفية: للعلامة أبي الحسنات محمد عبد الحي بن محمد عبد الحلیم اللكنوي (١٢٦٢هـ/١٣٠٣هـ)، المطبع المصطفائي-

١١٣ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: للعلامة محمد بن علي بن محمد الشُّوْكَانِي (١١٤٣هـ/١٢٥٠هـ)، عبد الرحمن بن يحيى، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة ١٣١٦هـ.

١١٥ فيض القدير شرح الجامع الصغير: للعلامة محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين الثَنَاوِي (٩٥٢هـ/١٠٣١هـ)، دار المعرفة-بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩١هـ.

١١٦ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ﷺ: للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (٨٣١هـ/٩٠٢هـ)، ت: محمد عوامة، دار اليسر-المدينة المنورة، الطبعة الثانية ١٤٢٨هـ.

١١٧ القول المُستد في الذب عن المسند للإمام أحمد: للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني (٨٥٢هـ/٤٤٣هـ)، مكتبة ابن تيمية-القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ.

١١٨ الكتاب اللطيف: للعلامة عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين أبي حفص (٢٩٤هـ/٣٨٥هـ)، ت: عبد الله بن محمد البوصيري، مكتبة الغرباء الأثرية-المدينة المنورة، الطبعة ١٤١٦هـ.

١١٩ كتاب العظمة: للعلامة أبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهاني (٣٦٩هـ/٢٤٣هـ)، رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة-رياض، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.

١٢٠ كتاب العِلل: للعلامة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (٢٣٠هـ/٣٢٤هـ)، ت: سعد بن عبد الله عبد الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي، مكتبة الملك الفهد الرياض، الطبعة ١٤٢٤هـ.

١٢١ كتاب المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي: للعلامة أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي (٢٤٤هـ/٣٤١هـ)، ت: زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم-المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.

١٢٢ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للحافظ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (٢٤٣هـ/٤٣٨هـ)، ت: عزت علي عيد عطية وموسى محمد علي الموشي، دار الكتب الحديثية-القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ.

١٢٣ الكامل في ضعفاء الرجال: للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (٥٢٤٤/٥٣٦٥هـ)، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.

١٢٤ كتاب الثقات: للإمام محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم البستي (بعد ٥٢٤٠/٥٣٥٣هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ.

١٢٥ كتاب الدعاء: للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٥٢٦٠/٥٣٦٠هـ)، ت: د. محمد سعيد بن محمد حسن البخاري، دار البشائر الإسلامية-بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.

١٢٦ كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: للإمام محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم البستي (بعد ٥٢٤٠/٥٣٥٣هـ)، ت: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة-بيروت، الطبعة ١٤١٢هـ.

١٢٧ كتاب الموضوعات: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القُرشي (٥٥٠٩/٥٥٩٤هـ)، ت: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٣٨٦هـ.

١٢٨ كتاب الثبوتات: للإمام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني (٥٦٦١/٥٤٢٤هـ)، ت: الدكتور عبد العزيز بن صالح، المجلس العلمي في الجامعة الإسلامية-المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ.

١٢٩ الكشوف الحثيث عمن رُمي بوضع الحديث: للعلامة إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي أبي الوفاء (٥٤٥٣/٥٨٢١هـ)، صبحي السامرائي، مكتبة النهضة العربية-بيروت، الطبعة ١٤٠٤هـ.

١٣٠ كَشَفُ الْحَقَاءِ وَمُزِيلُ الْإِلْبَاسِ عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (١٠٨٤/١٠٨٤هـ).

١١١٢ هـ، ت: عبد الحميد هنداي، المكتبة العصرية-بيروت، الطبعة ١٣٢٤ هـ.

١٢١ الكشف والبيان عن تفسير القرآن: للعلامة أبي إسحاق أحمد بن

إبراهيم الثعلبي النيسابوري (٣٢٤ هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة

الأولى ١٣٢٠ هـ.

١٣٢ الكشف والبيان عن تفسير القرآن: للعلامة أبي إسحاق أحمد بن

إبراهيم الثعلبي النيسابوري (٣٢٤ هـ)، ت: أبو محمد بن عاشور، دار إحياء التراث

العربي-بيروت، الطبعة ١٣٢٢ هـ.

١٣٣ كنز العمال في سنن أقوال والأفعال: للعلامة علاء الدين علي المتقي بن

حسام الدين الهندي (٨٨٨/٩٤٥ هـ)، ت: محمود عمر الدمياطي، دار الكتب

العلمية-بيروت، الطبعة الثانية ١٣٢٣ هـ.

١٣٤ كوثر النبي وزلال حوضه الزوي (فن معرفة الموضوعات): للإمام أبي

عبد الرحمن عبد العزيز بن أبي حفص أحمد بن حامد القرشي (١٢٠٦ هـ/

١٢٣٩ هـ) المخطوط، كتبه العلامة عبد الله الولهاري (١٢٨٣ هـ).

١٣٥ اللآلئ المصنوعة: للعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن

سابق الدين الخضير الشيوطي (٨٣٩/٩١١ هـ)، ت: محمد عبد المنعم رابع،

دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الثانية ١٣٢٨ هـ.

١٣٦ اللؤلؤ المَرْصُوع فيما لا أصل له أو باصله موضوع: للعلامة محمد بن

خليل بن إبراهيم القاوقجي أبي المحاسن (١٢٢٣/١٣٠٥ هـ)، ت: فتواز أحمد

زمرلي، دار البشائر الإسلامية-بيروت، الطبعة ١٣١٥ هـ.

١٣٧ لسان القرب: للإمام جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن

منظور الأنصاري الإفريقي المصري (٦١١/٦٣٠ هـ)، ت: عامر أحمد حيدر، دار

الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٠٣ هـ.

١٣٨ لسان الميزان: للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني (٨٤٤٣/هـ - ٨٨٥٢هـ)، ت: شيخ عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية - بيروت، الطبعة الأولى ١٢٢٣هـ.

١٣٩ المتفق والمُتَّفِق: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (٣٩٢/هـ - ٤٦٣هـ)، ت: د. محمد صادق آيدن الحامدي، دار القادري - بيروت، الطبعة الأولى ١٢١٤هـ.

١٤٠ المُجالسة وجواهر العلم: للحافظ أبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الديثوري القاضي (٣٣٣هـ)، أبو عبيدة مشهور بن حسن، دار ابن حزم - بيروت، الطبعة الأولى ١٢١٩هـ.

١٤١ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (٤٣٥/هـ - ٨٠٤هـ)، ت: الشيخ عبد الله الدرويش، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٥هـ.

١٤٢ مجموع الفتاوى: للإمام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني (٦٢١/هـ - ٤٢٤هـ)، ت: عامر الجزائري وأتور الباز، دار الوفاء، الطبعة الثالثة ١٣٢٦هـ.

١٤٣ المَحْدِثُ الفاضل بين الراوي والواعي: للعلامة القاضي الحسن بن عبد الرحمن الزاهر مُزَي (٣٦٠هـ)، الدكتور محمد عجّاج الخطيب، دار الفكر - بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٠٣هـ.

١٤٤ المدخل: للعلامة أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المعروف بابن الحاج (٤٣٤هـ)، دار الفكر - بيروت، الطبعة ١٣٠١هـ.

١٤٥ المُدَاوِي لعل الجامع الصغير وشرحي المناوي: للعلامة أحمد بن محمد بن الصديق العُمّاري الحسني (١٣٨٠هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٦هـ.

۱۴۶ مُرشد الحائر لیبان وضع حدیث جابر: للعلامة أحمد بن محمد بن الصديق الغُمّاري (۱۳۸۰ھ)، مكتبة طبرية، الطبعة ۱۳۰۸ھ۔

۱۴۷ مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح: للملاّ علي بن سلطان الهروي القاري (۱۰۱۳ھ) مكتبة رشيدية، سرکی روڈ کوئٹہ (پاکستان)۔

۱۴۸ المغیر علی الأحادیث الموضوعة في الجامع الصغير: للعلامة أحمد بن محمد بن الصديق الغُمّاري (۱۳۸۰ھ)، دار العهد الجديد بیروت۔

۱۴۹ مسند أبي يعلى: للعلامة أحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلی (۳۰۷ھ)، ت: حسین سلیم أحمد، دار الثقافة العربية۔ بیروت۔

۱۵۰ مسند أحمد: للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (۲۴۱/۱۶۳ھ)، عالم الكتب۔ بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۹ھ۔

۱۵۱ مساوی الأخلاق ومذمومها: للعلامة أبي بكر محمد بن جعفر بن سهل السامري الخراطي (۲۳۰/۳۲۷ھ)، ت: مصطفى بن أبو النصر الشليبي، مكتبة السوادي۔ جدّة، الطبعة الأولى ۱۴۱۲ھ۔

۱۵۲ المستدرک علی الصحیحین: للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (۳۲۱/۳۰۵ھ)، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية۔ بیروت، الطبعة الثانية ۱۴۲۲ھ۔

۱۵۳ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: للملاّ علي بن سلطان الهروي القاري (۱۰۱۳ھ)، ت: الشيخ عبد الفتاح أبو غذه، ايج۔ ايم۔ سعيد کمپنی کراچی (پاکستان)۔

۱۵۴ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني: للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (۲۱۱/۱۲۶ھ)، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، من منشورات المجلس العلمي، الطبعة ۱۳۹۲ھ۔

١٥٥ المصنف لابن أبي شيبة: للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العنبري الكوفي (١٥٩هـ/٢٣٥هـ)، ت: الشيخ محمد عوامة، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي، الطبعة الثانية ١٢٢٨هـ.

١٥٦ المطالب العالية بزائد المسانيد الثمانية: للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني (٤٤٣هـ/٨٥٢هـ)، ت: محمد حنّنه، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٠٣هـ.

١٥٧ معجم ابن عساكر: للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله المعروف بابن عساكر (٣٩٩هـ/٥٤١هـ)، ت: الدكتور وفاء تقي الدين، دار البشائر - دمشق.

١٥٨ المعجم الأوسط: للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٢٦٠هـ/٣٦٠هـ)، ت: طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم، دار الحرمين - القاهرة، الطبعة ١٢١٥هـ.

١٥٩ المعجم الصغير: للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٢٦٠هـ/٣٦٠هـ)، ت: محمد شكور محمود، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى ١٣٠٥هـ.

١٦٠ المعجم الكبير: للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٢٦٠هـ/٣٦٠هـ)، ت: أبو محمد الأسيوطي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٢٢٨هـ.

١٦١ المعجم لابن المقرئ: للعلامة محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم الأصبهاني أبي بكر (٢٨٥هـ/٣٨١هـ)، عادل بن سعد، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى ١٣١٩هـ.

١٦٢ معرفة التذكرة: للعلامة محمد بن طاهر بن علي المقدسي الشيباني

أبي الفضل (٥٣٣٨/٥٥٠٤)، مير محمد كتب خانه - كراچی۔

١٦٣ معرفة السُنن والآثار: للعلامة للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي

(٥٣٨٣/٥٢٥٨)، ت: عبد الله معطي أمين، دار قتيبة - بيروت، الطبعة ١٢١٢هـ۔

١٦٣ معرفة علوم الحديث: للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم

النيسابوري (٥٣٢١/٥٢٠٥)، ت: السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية -

بيروت، الطبعة الثانية ١٣١٩هـ۔

١٦٥ معرفة أنواع علوم الحديث يعرف بمقدمة ابن الصلاح: للعلامة أبي

عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشَّهْرَزُورِي (٥٥٤٤/٥٦٣٣)، ت: الدكتور عبد

اللطيف والشيخ ماهر ياسين، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٣هـ۔

١٦٦ المغني عن حَقْلِ الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من

الأخبار: للحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (٥٤٢٥هـ/

٨٠٦هـ)، ت: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، مكتبة دار طبرية - الرياض،

الطبعة الأولى ١٣١٥هـ۔

١٦٧ المغني في الضعفاء: للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن

عثمان بن قايَّمَاز الذهبي (٥٦٤٣/٤٣٨)، ت: الدكتور نور الدين عتر، إحياء

التراث الإسلامي بدولة قطر۔

١٦٨ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المُشْتَهرة على الألسنة:

للعلامة شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السَّخَاوِي (٨٣١هـ/

٩٠٢هـ)، ت: عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية

١٣٢٤هـ۔

١٦٩ مقالات الكوثري: للعلامة محمد زاهد الكوثري (١٣٤١هـ)، ص:

٦٤، دار السلام - مصر، الطبعة الثانية ١٣٢٨هـ۔

١٤٠ مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها: للحافظ أبي بكر محمد بن جعفر الخراطي (٥٢٣٠هـ/٣٢٤هـ)، ت: أيمن عبد الجبار البحيري، دار الآفاق العربية- القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.

١٤١ المنتخب من العلل: للعلامة أبي محمد موفق الدين عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (٥٣١هـ/٦٢٠هـ)، ت: أبو معاذ طارق بن عوض الله، دار الرؤية- الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.

١٤٢ المنتقى في سرد الكنى: للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (٦٤٣هـ/٤٣٨هـ)، ت: محمد صالح عبد العزيز، الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة، الطبعة ١٤٠٨هـ.

١٤٣ المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال وهو مختصر منهاج السنة: للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (٦٤٣هـ/٤٣٨هـ)، ت: محب الدين الخطيب، الرئاسة العامة - الرياض، الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ.

١٤٤ منهاج السنة النبوة: للإمام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني (٦٦١هـ/٤٢٤هـ)، ت: الدكتور محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة- القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.

١٤٥ المَوَاهِبُ اللَّذِيَّةُ بِالْمِنَحِ الْمُحَقَّدِيَّةِ: للعلامة أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني أبي العباس (٨٥١هـ/٩٢٣هـ)، المكتبة التوفيقية- القاهرة، الطبعة ١٣٢٦هـ.

١٤٦ الموطأ للمالك بن أنس- رواية يحيى بن يحيى الليثي: للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبغي الحميري (٩٣هـ/١٤٩هـ)، ت: الدكتور بشار عواد، دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ.

١٤٤ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (١٢٤٣/٤٣٨)، ت: علي محمد البجاوي، دار المعرفة-بيروت.

١٤٨ الثَّخْبَةُ البَهِيَّةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَكْذُوبَةِ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ: للعلامة محمد الأمير الكبير المالكي (١١٥٣/١٢٣٢)، المكتب الإسلامي-بيروت.

١٤٩ نَزْهَةُ النُّظَرِ فِي تَوْضِيحِ نَخْبَةِ الْفِكْرِ فِي مِصْطَلَحِ أَهْلِ الْأَثَرِ: للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني (٨٤٣/٨٥٢)، ت: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، مطبعة سفير بالرياض، الطبعة ١٣٢٢هـ.

١٨٠ النَّشْرُ فِي الْقَرَاءَاتِ الْعَشْرِ: للعلامة أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري (٤٥١/٨٣٣)، ت: علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية-بيروت.

١٨١ نَوَادِرُ الْأَصُولِ فِي مَعْرِفَةِ أَحَادِيثِ الرَّسُولِ: للعلامة أبي عبد الله محمد الحكيم الترمذي (نحو ٣٢٠هـ)، ت: إسماعيل إبراهيم، مكتبة الإمام البخاري-مصر، الطبعة الأولى ١٣١٩هـ.

١٨٢ النِّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ وَهُوَ الْمُتَنُ لِلْجَامِعِ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (٥٣٣/٦٠٦)، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى ١٣٢٢هـ.

١٨٣ نَسِيمُ الرِّيَاضِ فِي شَرْحِ شِفَاءِ الْقَاضِي عِيَاضٍ: أحمد بن محمد بن عمر، شهاب الدين الخفاجي المصري (٩٤٤/١٠٦٩)، المكتبة السلفية-المدينة المنورة.

١٨٣ الوافي بالوفيات: للعلامة صلاح الدين خليل بن أيبك صقديني (٦٢٣هـ): إدار الإحياء التراث العربي-بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٠هـ.

اِخْتِلَافِ اِمْرُك

اور

حَدِيثِ نَبَوِي

ترجمہ

علاء الدین جمال
استاذ حدیث و فقہ دالہ العلوم زکریا

تالیف

شیخ محمد عوامہ

زمزم پبلشرز

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ تَرَى اللَّهَ بِخَيْرٍ أَفْقَهُهُمَا فِي الدِّينِ مُتَفَوِّقُهُ

هَدَايَةُ السَّارِي إِلَى رَأْسِ سِرِّ الْبُخَارِي

مُقَدِّمَةٌ سَرِعَ صَحِيحُ الْبُخَارِي

الْجُزْءُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي

لِلْعَلَمَةِ الْمُحَقِّقِ الْحَمِيزِ تَوْلَا الْعَمَلُ وَالْحَقُّ
السَّامِعِي. الْبَنْغَلَادِيشِي

المُيسِّرُ فِي عِلْمِ عَلِّ الْحَدِيثِ

تأليف
سَيِّدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغُزْوِيِّ

مَرْمُوزُ الْمُطْبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالْمُخْرَجِ

کراچی . پاکستان

عُلُومِ حَدِيثِ تَارِخِ وَتَعَارُفِ

تالیف
سید عبدالمجید غوری
سید احمد زکریا غوری ندوی

ناشر
زمزم پبلشرز

مُعْجَمٌ

الْفَاظِ الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ

(مَعَ تَرَاجُمٍ مُوجِزَةٍ لِأُمَّةِ الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ)

تَأْلِيفُ

سَيِّدِ عَبْدِ الْمَاجِدِ الْغُورِيِّ

مَرْفُوعَةٌ مِنَ الطَّبَاعَةِ وَالْبَشْرِ وَالنَّوْجِ

کراچی . پاکستان

غیر معتبر روایات کا فنی حبابزہ

..... احقر نے جرئہ جرئہ اس مقالے کا مطالعہ کیا ہے اور محسوس کیا ہے کہ واقعی خوب محنت کی ہے۔ مولانا نور البشر نے مقالے کے بارے میں جن تاثرات کا ذکر کیا ہے احقر اُن سے اتفاق کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ حق جل مجدہ ان علماء کرام کی مساعی کو حسن قبول عطا فرمائیں، تمام شر و روآفات سے ان کی حفاظت فرمائیں۔ (مولانا سلیم اللہ خان صاحب)

..... عزیز موصوف کی محنت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے صرف اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ بس ایسی حدیثوں کو جمع کر کے سرسری حکم لگا دیں، بلکہ ایسی روایات کی پہلے ممکنہ حد تک تخریج کی، ہر ہر روایت کی اسانید کو جمع کیا، ہر ہر سند پر ائمہ جرح و تعدیل کے کلام کی روشنی میں کلام کیا، اس کے بعد نپے تلے انداز سے اُس حدیث کے اوپر حکم لگایا۔ اس طرح موصوف نے زبان زد عوام و خواص بہت سی احادیث کی چھان بھینک کا عظیم محققانہ کام انجام دیا۔ (مولانا نور البشر صاحب)

..... بندہ نے اپنے گرد و پیش پھیلی ہوئی مشہور روایتوں کی تحقیق کو اپنا موضوع بنایا، اور ان روایات میں سے ایسی ۲۸ روایات کی تعیین کی جو درجہ اعتبار سے ساقط ہیں، واضح رہے کہ ۲۸ روایات کا یہ مجموعہ تین قسم کی روایات پر مشتمل ہے:

- ① من گھڑت روایات
- ② بے سند روایات
- ③ ضعیف شدید پر مشتمل روایات

آپ دوران تحقیق نتائج میں ان تینوں اقسام کا مشاہدہ کریں گے، اور فن اصول حدیث کے مطابق یہ تینوں اقسام نوعیاتی فرق رکھتی ہیں، البتہ ان تینوں اقسام کو آپ ﷺ کے انتساب سے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ (مقدمہ)

I.S.B.N غیر معتبر روایات کا فنی حبابزہ



زمزم پبلشرز

Email: zamzampublisher@gmail.com
www.zamzampublishers.com

